

درجہ خاصہ کی مشکل ترین کتاب

شرح وقاریعہ کی آسان ترین مشکل شرح

فتیح الوقایہ

یحل

شرح الوقایہ

مولانا آفتاب علی

تالیف

مقدمہ: مفتی طارق بشیر دامت برکاتہم صادق آبادی

خطوصیات کتاب

- ترجیح و تشویغ • حل عبارت مع الترکب • فوائد قیود • اعتراض شارح کے جوابات
- فہمی اصطلاحات کی وضاحت • کتب فقہ کے حوالہ جات • شارح کے تابع گا ذکر • احاف کے اختلافی مسائل میں راجح قول کا تھیں • اور جس میں امہات کا تسبیحی شای، فتح التدیی، عنایہ او برج الاراق وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے
- یہ شرح درج رابع کے طلباء کے لیے ایک نادر تحریر ہے۔ جس کے ذریعے نہ صرف امتحان میں کامیابی بلکہ پڑا ٹالٹ اور رائی کا سمجھنا اہل ہو جاتا ہے۔

دکان 34-35 فرست ٹاؤن، پاک شاپنگ مال، میرپور خاص (مندو)

فون 0233-873406 موبائل 0333-2964426

کتب خانہ نیکی

درجہ خاصہ کی مشکل ترین کتاب شرح و قایہ آخرین کی آسان ترین مکمل شرح

فتح الوقایہ

لحل

شرح الوقایہ

تألیف

مولانا آفتا بعلی ڈگری ضلع میر پور خاص

مقدمہ

مفتقی طارق بشیر صاحب دامت برکاتہم صادق آباد

کتب خانہ مکی

ڈکان 34, 35 فرسٹ فلور پاک شاپنگ مال

میر پور خاص [سنده]

فون 0233-8734086 موبائل 0333-29642426

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	نفع اوقایہ جلد سوم
مؤلف	آفتاب علی
اشاعت	اول
ضخامت	263
ناشر	کتب خانہ کی، دکان نمبر 34,35,36
		فرست فلور پاک شاپگ مال، میر پور خاص، سندھ
		فون نمبر 0233-873406
		موباائل نمبر 0333-2964426

قارئین کی خدمت میں

کتاب ہذا کی تیاری میں صحیح کتابت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے،
تاہم اگر پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو اتماس ہے کہ ضرور مطلع
فرما کیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان اغلاط کا تدارک کیا جاسکے۔

اسٹاکسٹ

دکانِ الافق
جی سی سینٹر گرواؤنڈ فلور چیئر جی روڈ روڈ بازار لاہور
Cell: 0333-2349656, 0321-2659744
E-mail: kdarstulanwar@yahoo.com

دکانِ الافق
دکان نمبر 2 پلات نمبر 4 GRE 672/4 انور سیشن بجوری ناؤں کراچی
Ph: 092-21-34914596, 34919673 Cell: 0333-2349656, 0321-2659744
E-mail: kdarstulanwar@yahoo.com

مختصر

فتح الواقیہ جلد سوم

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر	نمبر شمار
۱	لغوی معنی:		كتاب الاجارات	۱	”اڑ سے مراد“	۲۰
۲	شرعی معنی:			۲	فائدہ:	۲۱
۳	رکن:			۳	اشکال:	۲۲
۴	شرکاٹ:			۴	جواب:	۲۳
۵	مشروعیت:	۱۲		۵	فائدہ:	۲۴
۶	صفت:	۱۲		۶	فائدہ:	۲۵
۷	اقام:	۱۲		۷	فائدہ قبور:	۲۶
۸	اجرت کی اقام:	۱۲		۸	فائدہ قبور:	۲۷
۹	پہلا قول:	۱۳		۹	فائدہ:	۲۸
۱۰	دوسرا قول:	۱۳		۱۰	اختلاف:	۲۹
۱۱	تیسرا قول:	۱۳		۱۱	شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ کی رائے:	۳۰
۱۲	خلاصہ کلام:	۱۳		۱۲	باب الاجارة الفاسدة	۳۱
۱۳	پہلا امر:	۱۵		۱۳	اجارہ فاسدہ:	۳۲
۱۴	دوسرا امر:	۱۵		۱۴	اجارہ فاسدہ کی وجہ:	۳۳
۱۵	تیسرا امر:	۱۶		۱۵	اجارہ باطلہ کی وجہ:	۳۴
۱۶	بعض کے قول کا رد:	۱۸		۱۶	اجارہ فاسدہ کا حکم:	۳۵
۱۷	مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ سے تاجع:	۱۹		۱۷	امام زفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۳۶
۱۸	راجح قول:	۲۰		۱۸	احتفاف کی دلیل:	۳۷
۱۹				۱۹	شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ کا احکام:	۳۸

۵۰	صحیح عبارت:	۶۶	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کو جواب:	۳۹
۵۱	اجارہ اور پیغ میں فرق:	۶۷	امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۴۰
۵۱	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تابع:	۶۸	راجح قول:	۴۱
۵۲	امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۶۹	طاعت پر اجرت لینا:	۴۲
۵۳	صحابین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۷۰	متاخرین کا نہ ہب:	۴۳
۵۳	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۷۱	راجح قول:	۴۴
۵۶	راجح قول	۷۲	معصیت پر اجرت لینا:	۴۵
۵۷	باب فسخ الاجارة	۷۳	پہلی قسم:	۴۶
۵۷	اصل:	۷۴	دوسری قسم:	۴۷
۶۱	مسائل شتنی	۷۵	تیسرا قسم:	۴۸
۶۲	قیاسی دلیل:	۷۶	راجح قول:	۴۹
۶۲	استحسانی دلیل:	۷۷	اصول:	۵۰
۶۲	راجح قول:	۷۸	صحابین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۵۱
۶۳	اشکال:	۷۹	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۵۲
۶۳	جواب:	۸۰	تشییکی مراد میں اختلاف:	۵۳
۶۳	نوث:	۸۱	امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۵۴
۶۵	كتاب الاکرۃ	۸۲	احراف کی دلیل:	۵۵
۶۵	لغوی معنی:	۸۳	باب من الاجارة	۵۶
۶۵	شرعی معنی:	۸۴	ایجیر مشترک کی تعریف:	۵۷
۶۵	دلیل:	۸۵	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہب:	۵۸
۶۵	شرط:	۸۶	صحابین رحمہما اللہ تعالیٰ کا نہ ہب:	۵۹
۶۶	اکرہا کی تعریف شرعی:	۸۷	راجح قول:	۶۰
۶۶	اکرہا کی قسمیں:	۸۸	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا اعتراض:	۶۱
۶۷	فرق:	۸۹	نوث:	۶۲
۶۸	اکرہا کی شرائط:	۹۰	ضمان کی شرائط:	۶۳
۶۸	راجح قول:	۹۱	نوث:	۶۴
۷۰۹۲	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تابع:	۹۲	فائدہ:	۶۵

۸۹	امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۲۰	۷۰	اختلاف کی دلیل:	۹۳
۸۹	صاحبین رحیمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۲۱	۷۱	امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۹۴
۹۰	فصل	۱۲۲	۷۱	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تاسع:	۹۵
۹۱	تسبیہ:	۱۲۳	۷۱	اصول:	۹۶
۹۲	راجح قول:	۱۲۳	۷۲	اعتراض:	۹۷
۹۲	بلوغ کی حقیقت:	۱۲۵	۷۲	جواب:	۹۸
۹۲	راجح قول:	۱۲۶	۷۳	اشکال:	۹۹
۹۲	فائدہ:	۱۲۷	۷۳	جواب:	۱۰۰
۹۳	کتاب الغصب	۱۲۸	۷۶	معاصل پر اکراہ کی فتنیں:	۱۰۱
۹۳	لغوی معنی:	۱۲۹	۷۷	تنبیہ:	۱۰۲
۹۳	شرعی معنی:	۱۳۰	۷۷	کفر اور شراب میں فرق:	۱۰۳
۹۳	کرن:	۱۳۱	۸۱	فائدہ:	۱۰۴
۹۳	شرط:	۱۳۲	۸۲	راجح قول:	۱۰۵
۹۳	صفت:	۱۳۳	۸۳	کتاب الحجر	۱۰۶
۹۳	حکم:	۱۳۴	۸۳	لغوی معنی:	۱۰۷
۹۳	انواع:	۱۳۵	۸۳	شرعی معنی:	۱۰۸
۹۳	دلیل:	۱۳۶	۸۳	قید احترازی:	۱۰۹
۹۵	فوائد قرود:	۱۳۷	۸۳	جر کے سادی اسباب:	۱۱۰
۹۲	فائدہ:	۱۳۸	۸۵	منہم کی غیر کارم حج:	۱۱۱
۹۲	اختلاف و شوافع رحیمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف:	۱۳۹	۸۲	اشکال:	۱۱۲
۹۲	شروع اختلاف:	۱۴۰	۸۶	جواب:	۱۱۳
۹۷	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تاسع:	۱۴۱	۸۷	سفیہ کی تعریف:	۱۱۴
۹۹	اشکال:	۱۴۲	۸۷	اقسام:	۱۱۵
۹۹	جواب:	۱۴۳	۸۷	سفیہ کا حکم:	۱۱۶
۹۹	نوٹ:	۱۴۴	۸۷	راجح قول:	۱۱۷
۱۰۲	امام صاحب کی دلیل:	۱۴۵	۸۷	راجح قول:	۱۱۸
۱۰۲	امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۴۶	۸۷	تعریفات:	۱۱۹

۱۲۱		شہبے کا زال:	۱۷۳	امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۲۷
۱۲۲		راجح قول:	۱۷۵	راجح قول:	۱۲۸
۱۲۲		فائدہ:	۱۷۶	از الہ شہبہ:	۱۲۹
۱۲۳		شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تاسع	۱۷۷	فائضہ:	۱۵۰
۱۲۳		امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۷۸	امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۵۱
۱۲		شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۷۹	شیخین رحمہمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۵۲
۱۲۳		ساعی کی تعریف:	۱۸۰	راجح قول:	۱۵۳
۱۲۳		راجح قول:	۱۸۱	فائضہ:	۱۵۴
۱۲۳		فائضہ:	۱۸۲	ضابطہ:	۱۵۵
۱۲۵	کتاب الشفعة		۱۸۳	اشکال:	۱۵۶
۱۲۵		لغوی معنی:	۱۸۴	احناف کی دلیل یا جواب:	۱۵۷
۱۲۵		شرعی معنی:	۱۸۵	امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۵۸
۱۲۵		دلیل:	۱۸۶	فائضہ:	۱۵۹
۱۲۵		رکن:	۱۸۷	فاحش اور یسیر کی تعریف:	۱۶۰
۱۲۵		شرط:	۱۸۸	فصل	
۱۲۵		حکم:	۱۸۹	امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۶۱
۱۲۵		صفت:	۱۹۰	احناف کی دلیل:	۱۶۲
۱۲۵		سبب:	۱۹۱	توث:	۱۶۳
۱۲۸		نوث:	۱۹۲	فرق:	۱۶۵
۱۲۹		طلب مواثیق:	۱۹۳	فائضہ:	۱۶۶
۱۲۹		راجح قول:	۱۹۴	صاحبین رحمہمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۶۷
۱۳۰		طلب اشهاد:	۱۹۵	امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۱۶۸
۱۳۰		طلب تمکیک و خصوصت:	۱۹۶	اشکال:	۱۶۹
۱۳۰		فائضہ:	۱۹۷	جواب:	۱۷۰
۱۳۱		راجح قول:	۱۹۸	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تاسع:	۱۷۱
۱۳۳		راجح قول:	۱۹۹	اشکال:	۱۷۲
۱۳۵		طرفین رحمہمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۲۰۰	جواب:	۱۷۳

۱۵۳		حکم:	۲۲۸	۱۳۵	امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۲۰۱
۱۵۳		بہب:	۲۲۹	۱۳۵	رانچ قول:	۲۰۲
۱۵۳		خوبی:	۲۳۰	۱۳۶	فائدہ:	۲۰۳
۱۵۳		صفت:	۲۳۱	۱۳۶	فائدہ:	۲۰۴
۱۵۳		مشروعیت کی دلیل:	۲۳۲	۱۳۸	فونڈ قوو:	۲۰۵
۱۵۳		رکن:	۲۳۳	۱۳۸	امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۲۰۶
۱۵۵		فائدة:	۲۳۳	۱۳۹	فائدة:	۲۰۷
۱۵۶		اصول:	۲۳۵	۱۴۱	باب ما هی فیہ اولاً و مابیطلاها	۲۰۸
۱۵۶		فائدة:	۲۳۶	۱۴۲	فونڈ قوو:	۲۰۹
۱۵۷		فائدة:	۲۳۷	۱۴۲	فائدة:	۲۱۰
۱۵۷		اخکال:	۲۳۸	۱۴۳	امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۲۱۱
۱۵۷		پہلا جواب:	۲۳۹	۱۴۳	احراف رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۲۱۲
۱۵۷		دوسراء جواب:	۲۴۰	۱۴۴	توث:	۲۱۳
۱۵۸		صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۲۴۱	۱۴۵	فائدة:	۲۱۴
۱۵۸		امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۲۴۲	۱۴۶	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تاسع:	۲۱۵
۱۵۸		فائدة:	۲۴۳	۱۴۸	پہلا حل:	۲۱۶
۱۵۹		پہلی صورت:	۲۴۴	۱۴۸	تریکیب:	۲۱۷
۱۶۰		دوسرا صورت:	۲۴۵	۱۴۸	دوسرا حل:	۲۱۸
۱۶۰		تیسرا صورت:	۲۴۶	۱۴۸	تیسرا حل:	۲۱۹
۱۶۰		چوتھی صورت:	۲۴۷	۱۴۹	رانچ قول:	۲۲۰
۱۶۰		امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۲۴۸	۱۴۹	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے:	۲۲۱
۱۶۰		صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۲۴۹	۱۵۳	پہلا فرق:	۲۲۲
۱۶۰		امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب:	۲۵۰	۱۵۳	دوسرا فرق:	۲۲۳
۱۶۲		ہدایت کی عبارت پر اخکال:	۲۵۱	۱۵۳	كتاب القسمة	۲۲۴
۱۶۲		پہلا جواب:	۲۵۲	۱۵۳	لغوی معنی:	۲۲۵
۱۶۲		دوسرا جواب:	۲۵۳	۱۵۳	شرعی معنی:	۲۲۶
۱۶۳		تیسرا جواب:	۲۵۴	۱۵۳	شرط:	۲۲۷

۱۷۸	مزارعہ کی آٹھ شرائط:	۲۸۲	۱۶۵	راجح قول:	۲۵۵
۱۸۰	جاڑے صورتیں:	۲۸۳	۱۶۵	فائدہ:	۲۵۶
۱۸۱	ناجاڑے صورتیں:	۲۸۳	۱۶۷	فائدہ:	۲۵۷
۱۸۱	وجہ حصر:	۲۸۵	۱۶۸	راجح قول:	۲۵۸
۱۸۳	راجح قول:	۲۸۶	۱۶۹	راجح قول:	۲۵۹
۱۸۳	ترتیب:	۲۸۷	۱۷۰	صاحب حدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے:	۲۶۰
۱۸۳	فائدة:	۲۸۸	۱۷۰	صاحب حدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی تردید:	۲۶۱
۱۸۵	كتاب المسافة	۲۸۹	۱۷۰	متن کی روایت کی دلیل:	۲۶۲
۱۸۵	لغوی معنی:	۲۹۰	۱۷۱	فائدة:	۲۶۳
۱۸۵	شرعی معنی:	۲۹۱	۱۷۳	اختلافی صورت:	۲۶۴
۱۸۵	سبب:	۲۹۲	۱۷۳	بغیثین اتفاقی صورتیں:	۲۶۵
۱۸۵	رکن:	۲۹۳	۱۷۳	فائدة:	۲۶۶
۱۸۵	شرط:	۲۹۳	۱۷۵	شرعی معنی:	۲۶۷
۱۸۵	صفت:	۲۹۵	۱۷۵	شرط:	۲۶۸
۱۸۵	حکم:	۲۹۶	۱۷۵	صفت:	۲۶۹
۱۸۷	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا اعتراض:	۲۹۷	۱۷۵	دلیل:	۲۷۰
۱۸۸	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کو جواب:	۲۹۸	كتاب المزارعة		۲۷۱
۱۸۸	عبارت کی صحیح:	۲۹۹	۱۷۶	لغوی معنی:	۲۷۲
۱۸۸	نوت:	۳۰۰	۱۷۶	شرعی معنی:	۲۷۳
۱۸۹	احناف کی دلیل:	۳۰۱	۱۷۶	رکن:	۲۷۴
۱۹۰	جوزاً کا حیلہ:	۳۰۲	۱۷۶	شرط:	۲۷۵
۱۹۱	كتاب الذبائح	۳۰۳	۱۷۶	صفت:	۲۷۶
۱۹۱	رکن:	۳۰۳	۱۷۶	دلیل:	۲۷۷
۱۹۱	شرط:	۳۰۵	۱۷۷	امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۲۷۸
۱۹۱	حکم:	۳۰۶	۱۷۷	صحابین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:	۲۷۹
۱۹۲	ذیج سے مراد:	۳۰۷	۱۷۸	راجح قول:	۲۸۰
۱۹۳	لغوی تحقیق:	۳۰۸	۱۷۸	فائدة:	۲۸۱

۲۱۵	راجح قول:	۳۳۶	۳۰۹ احتاف رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل:
۲۱۶	لغوی معنی:	۳۳۷	۳۱۰ شوافع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل:
۲۲۰	شرعی معنی:	۳۳۸	۳۱۱ احتاف کا جواب:
۲۲۰	صفت:	۳۳۹	۳۱۲ لغوی تحقیق:
۲۲۰	سبب:	۳۴۰	۳۱۳ فائدہ:
۲۲۰	دلیل:	۳۴۱	کتاب الاضھیۃ
۲۲۱	حکم:	۳۴۲	۳۱۴ لغوی معنی:
۲۲۱	اشکال:	۳۴۳	۳۱۵ شرعی معنی:
۲۲۱	جواب:	۳۴۴	۳۱۶ شرائط:
۲۲۱	اعتراض:	۳۴۵	۳۱۷ سبب:
۲۲۲	جواب:	۳۴۶	۳۱۸ رکن:
۲۲۲	نوت:	۳۴۷	۳۱۹ حکم:
۲۲۲	راجح قول:	۳۴۸	۳۲۱ راجح قول:
۲۲۵	پہلا حیله:	۳۴۹	۳۲۲ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ سے تابع:
۲۲۵	دوسرا حیله:	۳۵۰	۳۲۳ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:
۲۲۵	تیسرا حیله:	۳۵۱	۳۲۴ راجح قول:
۲۲۵	چوتھا حیله:	۳۵۲	۳۲۵ فائدہ:
۲۲۵	لطیفہ:	۳۵۳	کتاب الكراہیۃ
۲۲۷	معافۃ کا حکم:	۳۵۴	۳۲۶ راجح قول:
۲۲۷	معافۃ کی قسمیں:	۳۵۵	۳۲۷ کراہت تزہی و تحریکی میں فرق:
۲۲۷	فائدة:	۳۵۶	۳۲۹ کھانے کے درجات:
۲۲۷	بوسہ کا حکم:	۳۵۷	۳۳۰ راجح قول:
۲۲۷	بوسہ کی اقسام:	۳۵۸	۳۳۱ فائدہ:
۲۲۸	مساففہ کا حکم:	۳۵۹	۳۳۲ طفیف:
۲۲۸	شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تابع	۳۶۰	۳۳۳ صحیح عبارت:
۲۲۸	فائدة:	۳۶۱	فصل
۲۳۱	راجح قول:	۳۶۲	۳۳۴ لباس کے درجات:

۲۸۳		راغب قول:	۲۸۳	۲۳۱		امام عظیم کی دلیل:	۳۶۳
۲۸۴	کتاب الاشربة		۲۸۵	۲۳۱		اصل:	۳۶۴
۲۸۵		لغوی معنی:	۲۸۶	۲۳۲		لفظ غل کی تحقیق:	۳۶۵
۲۸۶		شرعی معنی:	۲۸۷	۲۳۲		راغب قول:	۳۶۶
۲۸۷		لفظ خمر کی تحقیق:	۲۸۸	۲۳۳		لفظ "احتکار" کی وضاحت:	۳۶۷
۲۸۸		تعريف میں اختلاف:	۲۸۹	۲۳۳		راغب قول:	۳۶۸
۲۸۹		راغب قول:	۲۹۰	۲۳۳		احکام حرام کی شرائط:	۳۶۹
۲۹۰		دس احکامات:	۲۹۱	۲۳۳		فائدة:	۳۷۰
۲۹۱		نوٹ:	۲۹۲	۲۳۳		راغب قول:	۳۷۱
۲۹۲	کتاب الصید		۲۹۳	۲۳۵		کتاب احیاء الموات	۳۷۲
۲۹۳		لغوی معنی:	۲۹۳	۲۳۵		لغوی معنی:	۳۷۳
۲۹۴		شرعی معنی:	۲۹۵	۲۳۵		شرعی معنی:	۳۷۴
۲۹۵		رکن:	۲۹۶	۲۳۵		دلیل:	۳۷۵
۲۹۶		حکم:	۲۹۷	۲۳۵		حکم:	۳۷۶
۲۹۷		دلیل:	۲۹۸	۲۳۵		محاسن:	۳۷۷
۲۹۸		شرائط:	۲۹۹	۲۳۶		ارض موات کی تعریف:	۳۷۸
۲۹۹		شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے:	۳۰۰	۲۳۶		راغب قول:	۳۷۹
۳۰۰		شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کو جواب:	۳۰۱	۲۳۶		راغب قول:	۳۸۰
۳۰۱		راغب قول:	۳۰۲	۲۳۷		حجیر کی تحقیق:	۳۸۱
۳۰۲		فرق:	۳۰۳	۲۳۷		راغب قول:	۳۸۲
۳۰۳		تیر سے شکار کرنے کی شرائط:	۳۰۴	۲۳۸		فصل	۳۸۲

کتاب الاجارات

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب کتاب الحبہ کے بیان سے فارغ ہوئے کہ جس میں عین کا بلا عوض مالک بنایا جاتا ہے تو اب اجارت کے بیان کو شروع فرمایا جس میں منافع کا اجرت کے ساتھ مالک بنایا جاتا ہے۔

[فتح القدير: ۲/۸]

لغوی معنی:

اجرت میں اجارت کا اطلاق عمل کے بد لے کسی کو کچھ عوض ادا کرنے پر ہوتا ہے اس کی مزید تشریح شرح میں آئے گی۔ ان شاء اللہ۔

شرعی معنی:

اجارت کی شرعی تعریف: ”ہی بیع منفعة معلومة باجر معلوم“ (اجارت منفعت معلومہ کی اجرت معلومہ کے بد لے بیع ہے۔) اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف ”ہی بیع نفع معلوم بعوض كذلك دین او عین“ (معلوم نفع کی معلوم عوض کے بد لے بیع کرنا ہے عوض دین ہو یا عین ہو) رکن:

اجارت کا رکن ایجاد اور قبول ہے۔

شرطائط:

اجارت کی تمام شرائط چار قسموں پر مشتمل ہیں۔

(۱) شرائط الانعقاد۔ (۲) شرائط الغافذ۔ (۳) شرائط الصحة۔ (۴) شرائط المزوم۔

شرط الانعقاد کا مطلب یہ ہے کہ جن شرائط کی وجہ سے اجارت منعقد ہو گا اور وہ شرائط یہ ہیں۔ (۱) عاقدین کا عاقل ہونا۔ (۲) عاقد کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ (۳) معقود علیہ موجود ہو۔ (۴) معقود علیہ مال متفق ہو۔ (۵) قبول ایجاد اور قبول کے موافق ہو۔ (۶) عقد صیغہ ماضی کے ساتھ ہو۔ (۷) مجلس متحد ہو یعنی ایک ہی مجلس میں ایجاد و قبول ہو۔

شرط الغافذ کا مطلب یہ ہے کہ جن شرائط کی وجہ سے عقد اجارت بیع ہو گا وہ شرائط یہ ہیں۔ (۱) شی معقود علیہ آجر کی ملکیت ہو۔ (۲) عقد مطلق ہو یعنی اس میں کوئی خیار نہ ہو۔

شرط الصحة کا مطلب یہ ہے کہ جن شرائط کی وجہ سے عقد اجارت صحیح ہو گا وہ شرائط یہ ہیں۔ (۱) عاقدین عقد پر راضی ہوں۔ (۲) معقود علیہ کی تعینات کی گئی ہو۔ (۳) اجرت اور اس کا وصف معلوم ہو۔ (۴) منافع معلوم ہوں۔ (۵) مدت کو بیان کیا گیا ہو۔ (۶) معقود علیہ کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ اس کو کس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ (۷) معقود علیہ کو سپرد کرنا مالک کے اختیار میں ہو۔ (۸) معقود علیہ شرعاً مباح ہو۔ (۹) معقود علیہ ایسی شی ہو جس پر اجرت لینا معروف ہو۔ (۱۰) اجرت معقود علیہ کی جنس میں سے نہ ہو۔

شرط المزوم کا مطلب یہ ہے کہ جن شرائط کی وجہ سے یہ عقد پختہ ہو گا، وہ شرائط یہ ہیں۔ (۱) اجرت پر دی جانے والی شی ہر اس عیب

سے پاک ہو جس کی وجہ سے لفظ اٹھانے میں خلل ہو۔ (۲) ایسا عذر پیش نہ آئے جو اس عقد اجارہ کو فتح کر دے۔

مشروعیت:

اجارہ کی مشروعیت قرآن کریم کی مختلف آیات سے ثابت ہے جن میں سے ایک آیت یہ ہے ”قالت احدها میا با ب استاجرہ ان خیر من استاجرہ القوی الامین قال انی ارید ان انکھک احدی ابنتی هاتین علی ان تاجر نی ثمانی حجج“ وجا ستدلال یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کے چرانے کا معاملہ اجرت معلومہ کے ساتھ کیا۔

حدیث شریف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”اعطِ الاجر اجرہ قبل ان یجف عرقہ“

اجارہ کی مشروعیت اجماع سے بھی ثابت ہے۔ علامہ صاحب حاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعیان کے منافع پر عقد اجارہ کرنا جائز ہے اور یہ تمام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات تابعین حبهم اللہ تعالیٰ اور فقہاء کرام کا قول ہے۔

صفت:

عقد اجارہ لازم ہو جاتا ہے جب کہ خیار شرط یا خیار عیب یا خیار رؤیت نہ ہو اور بلا عذر فتح نہیں کیا جاسکتا۔ (یہ کلام مولانا زبیر اشرف کے مقالہ ”جدید معاشری نظام میں اسلامی قانون اجارہ“ سے لیا گیا ہے جس میں اجارہ کے متعلق مفید بحوث ہیں۔

من شاء فلیراجعہ [ص: ۱۳]

اقسام:

اجارہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) اجارہ صحیحہ۔ (۲) اجارہ فاسدہ۔ پھر اجارہ صحیحہ اور فاسدہ کی بہت سی اقسام ہیں جن کو طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔

اجرت کی اقسام:

اجرت کی چار اقسام ہیں۔ (۱) مجلہ۔ (۲) موجہ۔ (۳) قحط وارد یا (۴) مسکوت عنہا۔ (و فیہ بحوث مفيدة مذکورة فی الفتاوی النتف ۲۲۱)



كتاب الاجارات

عبارت:

قال بعض اهل العربية الاجارة فعالة من المفاعة واجر على وزن فاعل لا افعل لان الاجار لم يجئ فالمضارع يواجر واسم الفاعل المواجر وفى عين الخليل اجرت زيداً مسلوکی او اجره ايجارا وفى الاساس اجر و هو موجر ولم يقل مواجر فانه غلط و مستعمل فى موضع قبيح و هي اسم للاجرة كالجملة اسم للجعل و اجر ياجر من باب طلب اي اعطاء الاجرة فهو اجر فوضع الفرق بين الموجر والاجر و الاجارة فعالة من اجر ياجر بمعنى الاجرة لكن في الشرع نقل الى العقد فقال و هي بيع نفع معلوم بعوض كذلك دين او عين.

ترجمة:

بعض اہل عربیت نے فرمایا ہے کہ اجارہ مفاعلہ سے فعالة کے وزن پر ہے اور ”اجر، فاعل“ کے وزن پر ہے۔ ”افعل“ کے وزن پر نہیں ہے اس لیے ”ایجار“ نہیں آیا پس مضارع ”یواجر“ ہوگا اور اسم فاعل ”المواجر“ ہوگا اور ”عین الخلیل“ میں ہے ”اجرت زیداً مسلوکی او جرہ ايجارا“ اور ”اساس“ میں ”اجر“ ہے اور وہ ”مؤجر“ ہوگا اور ”مؤجر“ نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ غلط ہے اور فتح جگہ میں مستعمل ہے اور اجارہ اجرت کا نام ہے جیسے ”جعلة“ ”جعل کا نام ہے اور ”اجر ياجر“ ”طلب“ کے باب سے ہے لیکن اس کو اجرت دی تو وہ آجر ہے پس موجر اور آجر میں فرق واضح ہوگا اور اجارہ ”اجر يؤجر“ سے ”فعالة“ کے وزن پر ہے اجرت کے معنی میں ہے لیکن شرع میں عقد کی طرف نقل کر دیا گیا ہے۔

تشریح:

قال بعض اس عبارت میں شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اجارہ کے مأخذ اشتقاق میں اختلاف اور اس میں تین اقوال بیان کیے ہیں۔

پہلا قول:

پہلا قول بعض اہل عربیت کا ہے کہ ”اجارہ، مفاعلہ“ سے ”فعالة“ کے وزن پر ہے جب باب ”مفاعلہ“ سے ہے تو ”اجر، فاعل“ کے وزن پر ہوگا اور ”فاعل“ باب مفاعلہ سے امر کا صیغہ ہے اور ”اجر، افعل“ کے وزن پر نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ ”افعل“ کے وزن پر ہو تو اس کا باب ”الفعل“ یعنی ”ایجار“ ہوگا جو کہ اہل عرب سے منقول نہیں ہے لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ ”اجارہ“ مفاعلہ سے ہے اور اجر فاعل کے وزن پر ہے اور مضارع ”یواجر“ ہوگا اور اسم فاعل ”مواجر“ ہوگا اور مفاعلہ کے باب سے ہونے کی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا۔ باہم اجارہ کا معاملہ کرنا۔

دوسرا قول:

دوسرا قول امام خلیل کی کتاب ”اعین“ میں مذکور ہے کہ انہوں نے فرمایا ”اجرت زید مسلوکی او جرہ ايجارا“ پس معلوم

اجارہ باب افعال سے ہے اور اسی طرح "اساس" میں مذکور ہے کہ "اجر و هو موجر" یعنی یہ باب افعال سے ہے اور "مواجر" نہیں کہا جائے گا کیونکہ "مواجر" کہنا غلط ہے اور یہ فتح جگہ میں مستعمل ہے اس لیے "مواجر" اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے اہل کوزنا کروائے پس یہ بات معلوم ہوئی کہ اجارہ افعال سے ہے اور یہ اجرت کا نام ہے جیسے "بعالۃ" جعل کا نام ہے حال وہ مال ہوتا ہے جس کو مولی اس شخص کے لیے مقرر کرتا ہے جو اس کا بھاگ ہو اغلام والپس لائے۔

تیراقول:

تیراقول یہ ہے کہ "اجارہ" اجر یا جر " سے مشتق ہے جو "طلب یطلب" کے باب سے ہے، اس کا معنی "کسی کو اس کے عمل کی جزا دینا" ہے۔

خلاصہ کلام:

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پہلے قول کے مطابق اجارہ باب مفاعلہ سے فعالہ کے وزن پر ہے اور دوسرے قول کے مطابق اجارہ باب افعال سے ہے اور تیسرا قول کے مطابق اجارہ باب نصر بنصر سے ہے فوضوع الفرق سے دوسرے اور تیسرا قول کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ دوسرے قول کے مطابق اسم فاعل کا صیغہ موجر ہو گا اور تیسرا قول کے مطابق اسم فاعل کا صیغہ "اجر" ہو گا اب شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے قول کے مطابق اجارہ "اجرہ" کا نام ہے اور تیسرا قول کے مطابق اجارہ اجرت عطا کرنے کا نام ہے اسی وجہ سے موجر اور اجر کے درمیان فرق ہو جائے گا۔

والاجارة سے اجارہ کا الغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں اجارہ اجرت کے معنی میں تاپھر شریعت نے اس کو عقد اجارہ کی طرف نقل کر دیا ہے۔ لہذا اجارہ عقد کے معنی میں حقیقت شرعیہ ہے اور اجرت کے معنی میں حقیقت لغویہ ہے۔

عبارت:

و يعلم النفع بذكر المدة كسكنى الدار و زراعة الأرض مدة كذا طالت او قصرت . لكن في الوقف لا تصح فوق ثلات سنين في المختار كيلا يدعى المستاجر انه ملكه فعلة عدم الجواز اذا كانت هذا المعنى لا تصح الاجارة الطويلة بعقود مختلفة كما جوزها البعض تجاوز الله عنهم . و بذكر العمل كصيغة الثوب و خياطة و حمل قدر معلوم على دائبة مسافة علمت و بالاشارة كنقل هذا الى ثمه . و لا تجب الاجرة بالعقد خلافا للشافعی رحمة الله تعالى فان الاجرة عنده تجب بنفس العقد بل بتعميلها فان المستاجر اذا عجل الاجرة فالمعجل هو الاجرة الواجبة بمعنى انه لا يكون له حق الاسترداد او بشرطه فإنه اذا شرط تعجيل الاجرة تجب معجلة او باستيفاء النفع او التمكين منه . فتجب لدار قبضت و لم يسكنها و تسقط بالغضب بقدر فوت تمکنه .

ترجمہ:

اور نفع مدت کو ذکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے جیسے گھر میں ایک مدت تک رہنا اور زمین کی کاشت اتنی مدت تک کرنا مدت لمبی ہو یا چھوٹی ہو لیکن وقت کی صورت مفارقہ کے مطابق تین سال سے زائد صحیح نہیں ہے، تاکہ مستاجر یہ دعوی نہ کرے کہ یہ اس کی ملک ہے پس جائز نہ ہونے کی علت جب اس معنی میں ہو تو یہ اجارہ طویلہ کو مختلف عقود کے ساتھ صحیح نہیں کر سکتی جیسا کہ بعض نے جائز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے درگز رفرمائے اور عملہ ذکر کرنے سے نفع معلوم ہو جاتا ہے جیسے کہڑے کو رنگنا اور اس کو سینا اور معلوم مقدار کو کسی جانور پر معلوم

مسافت تک لدوا نا اور اشارے سے نفع معلوم ہو جاتا ہے جیسے اس سامان کو یہاں سے وہاں منتقل کرنا ہے اور اجرت عفہ سے واجب نہیں ہوتی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک اجرت نفس عقد سے واجب ہوتی ہے بلکہ اجرت کی تعییل سے واجب ہوتی ہے کیوں کہ مستاجر جب اجرت جلدی دے گا تو متعین وہ اجرت واجب ہو گی اس معنی میں کہ مستاجر کو واپس لینے کا حق نہ ہو گا یا تعییل کی شرط لگانے سے واجب ہوتی ہے کیونکہ جب اجرت کی تعییل کی شرط لگائی جائے گی تو وہ متعین واجب ہو گی اور نفع کو وصول کر لینے یا نفع کے وصول پر قدرت پالینے سے اجرت واجب ہو گی پس اجرت اس گھر پر واجب ہو گی اس پر بعضہ کر لیا گیا ہو اور مستاجر اس میں نہ رہتا ہو اور اجرت غصب کرنے سے اس کی قدرت کے فوت ہونے کے بقدر ساقط ہو گی۔

نتیریح:

ماقلہ میں یہ بات گزرچکی ہے کہ منفعت کا معلوم ہونا ضروری ہے تواب و یعلم النفع سے مصنف ان تین امور کو بیان کر رہے ہیں جن سے منفعت معلوم ہو جاتی ہے۔

پہلا امر:

بذكر المدة سے پہلا امر ذکر کیا ہے کہ کبھی اجرت شئی سے منفعت کی مدت ذکر کرنے سے معلوم ہوتی ہے جیسے ایک شخص نے گھر کرایہ پر لیا اب گھر سے منفعت کا حصول مدت پر موقوف ہے، پھر اس نے کہا کہ میں ایک ماہ رہوں گا نو گھر سے منفعت کا حصول معلوم ہو گیا اور اسی طرح اگر زمین کو کاشت کے لیے کرایہ پر لیا ہے تو مدت بیان کرنے سے اس کی منفعت معلوم ہو جائے گی لیکن زمین تو کرایہ پر لینے کی صورت میں اس شئی کا بیان بھی ضروری ہے جس شئی کو زمین میں کاشت کیا جائے گا ورنہ اجارہ درست نہ ہو گا، اب ہمارے نزدیک مدت کو ذکر کرنے سے منفعت معلوم ہو جاتی ہے خواہ مدت لمبی ہو یا چھوٹی ہو دونوں صورتوں میں اجارہ درست ہو گا۔ لکن فی الوقف سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اجارہ پر دی جانے والی شئی وقف کی ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ متولی وقف نے اجارہ کی مدت کی شرط لگائی ہے یا نہیں لگائی اگر متولی وقف نے شرط لگائی ہو تو پھر اس شرط سے زیادہ مدت تک اجارہ ناجائز ہے اور اگر موجر نے شرط نہ لگائی ہو تو اب شئی کو دیکھا جائے گا کہ وہ منقولی شئی ہے یا غیر منقولی شئی ہے اگر منقولی شئی ہو تو ایک سال تک اجارہ پر دیکھا جائز ہے اور اگر غیر منقولی شئی ہو تو تین سال تک دیکھا جائز ہے اس مدت سے زائد دیکھا جائز ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اگر زائد مدت پر دیکھا جائز ہے اور گواہ سرجائیں تو مستاجر اس بات کا دعویٰ کر دے کہ یہ شئی میری ہے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اجارہ ناجائز ہونے کی علت یہ ہے کہ ممکن ہے مستاجر ملکیت کا دعویٰ کر دے، اسی وجہ سے جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ شئی موقوفہ کو طویل مدت تک مختلف عقود کے ساتھ اجارہ پر دیکھا سے جائز ہے یعنی ہر تین سال کے بعد یا عقد کر لیا جائے تو ان حضرات کا قول صحیح نہیں ہے کیونکہ دعویٰ کرنے کی علت اس میں بھی موجود ہے۔ ہمارے زمانے میں احتیاط جمہور علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے قول (کہ غیر منقولی شئی کو تین سال کے لیے اور منقولی شئی کو ایک سال کے لیے اجارہ پر دیکھا جائز ہے) میں ہے اور منقولی شئی کو لیجی ہے۔ [الغاییہ: ۷۸]

دوسرہ امر:

وبذکر العمال سے منفعت رحمہ اللہ تعالیٰ منفعت معلوم کرنے کا دوسرا امر ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی منفعت عمل و ذرائع کر دینے سے منفعت معلوم ہو جاتی ہے جیسے بیک کپڑے کو رنگنا اور اس میں تین اشیاء شرط ہیں اس کپڑے کی تعیین اور رنگ کی تعیین اور رنگ کی مقدار اور منفعت کپڑے کو سینے کے ساتھ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ شرطیکہ کپڑا معلوم ہو اور اسی طرح اگر جانور کو کرایہ پر لیا اور بوجھ کی مقدار اور مسافت

کی مقدار بیان کر دی تو بھی منفعت معلوم ہو جائے گی۔ بشرطیک وقت یا مقام کو بیان کیا جائے۔ [بخاری: ۵۰۷]

تیسرا مرد:

وبالاشارة سے مصنف منفعت معلوم کرنے کا تیر امر ذکر کر رہے ہیں۔ کہ بھی منفعت اشارہ کرنے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو فلاں بستی تک لے جانا ہے تو یہ بھی صحیح ہے اس لیے کہ اجیر کو وہ شی جس کو قل کرنا ہے اور وہ جگ جہاں تک نقل کرنا ہے دکھانے سے منفعت معلوم جائے گی۔

ولا تجب الاجرة سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اجرت کے نفس و جوب کا بیان کر رہے ہیں کہ اجرت کا نفس و جوب چار امور میں سے کسی ایک امر سے ہو گا کیوں کہ احتفاظ حجمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف عقد کرنے سے اجرت کا نفس و جوب نہیں، وہ تجب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف عقد کرنے سے اجرت کا نفس و جوب ہو جاتا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نافع معلوم تھے تو عقد کو صحیح کرنے کی وجہ سے منافع موجود ہو جائیں گے۔ جب منافع موجود ہوں گے تو یہ اجرت کے بد لے ہوں گے۔ لہذا اجرت صرف عقد سے واجب ہو جائے گی۔

بل بتعجیلها سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلا امر ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے اجرت واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب دو شخصوں میں عقد اجارہ ہوا اور مستاجر نے جلدی اجرت دے دی تو یہ جلدی دی جانے والی اجرت واجب ہے، واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مستاجر اس کو واپس نہیں لے سکتا۔

شرطہ سے دوسرا امر ذکر کیا ہے کہ جب اجرت کی تعییل کی شرط رکھی گئی تو بھی یہ اجرت واجب ہو گی دراں حالاں کم محل ہو گی باستفہا سے تیسرا امر ذکر کیا ہے کہ جب مستاجر نے شی سے نفع حاصل کر لیا تو بھی اجرت واجب ہو جائے گی۔

السمکن منه سے چوتھا امر ذکر کیا ہے کہ جب مستاجر کو شی مستاجر سے نفع حاصل کرنے پر قدرت دے دی گئی ہو خواہ اس نے نفع حاصل نہ کیا ہو بت بھی اجرت واجب ہو جائے گی، جیسے ایک شخص نے گھر کرایہ پر لیا اور اس پر بقۂ کر لیا لیکن ابھی رہنا شروع نہ کیا تھا تو اجرت واجب ہو گی۔

و تسقط بالغصب سے یہ بیان کیا ہے کہ جب مستاجر سے کسی نے شی مستاجر غصب کر لی تو اب دیکھا جائے گا اگر تو مدت کے شروع ہوتے ہی شی غصب کر لی گئی تو اجرت بالکل یہ ساقط ہو جائے گی اور اگر کچھ مدت نفع حاصل کرنے کے بعد غصب کی گئی تو پھر حقی مدت مستاجر نے نفع حاصل کیا ہے اس کے بعد اجرت وصول کی جائے گی۔ مصنف نے ”تسقط“ کا لفظ استعمال کیا ہے جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ غصب کرنے کی وجہ سے عقد فتح ہو جائے گا اور غصب کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مستاجر اور شی کے درمیان حائل ہو گیا کہ مستاجر کو شی سے نفع حاصل کرنے نہیں دے رہا اور حقیقی غصب مراد نہیں ہے کیونکہ زمین میں ہمارے نزدیک حقیقی غصب جاری نہیں ہوتا۔ [بخاری: ۵۱۲]

عبارت:

وللسم جر طلب الاجرة للدار والارض بكل يوم وللدار قبل كل مرحلة. وللقصارة والخياطة اذا تمت و ان عمل في بيت المستاجر انما قال هذا لان الخياط اذا عمل في بيت المستاجر فخاط بعض الثوب ثم سرق اثواب فله الاجرة بقدر ما خاطه فهذا دليل على ان الاجرة تجب بقدر العمل لكن نقول بالسرقة انتهى عمله على

البعض وهو معلوم بالنسبة الى الكل فتجب اجرة ما عمل بخلاف ما اذا لم ينته العمل على البعض فانه لا يمكن ان يطلب الاجرة بكل عمل قليل ولا تقدير للابعاض فيتوقف الطلب على كل العمل. وللخجز بعد اخراجه من التنور شأن احترق بعد ما اخرج فله الاجرة وقبله لا ولا غرم فيهما هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى لانه امانه عنده وعند هما يضمن مثل دقیقہ و لا اجر له و ان شاء ضمنه الخجز و اعطاء الاجرة. وللطبخ بعض الغرف. ولضرب البن بعد الاقامة هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و قالا لا يستحق حتى يشرحه لأن التشريع من تمام العمل و عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى هو زائد كالنفل.

ترجمہ:

اور موہر کے لیے گھر اور زمین کی اجرت ہر روز طلب کرنا جائز ہے اور جانور کی اجرت ہر منزل پر طلب کرنا جائز ہے اور دھوپی اور درزی کے لیے جب عمل مکمل ہو جائے (تو اجرت طلب کرنا جائز ہے) اگرچہ وہ مستاجر کے گھر میں کام کرے سوائے اس کے نہیں کہ یہ کہا اس لیے کہ درزی نے جب مستاجر کے گھر میں کام کیا اور کچھ کپڑا اوہاں سیا پھر کپڑا اچوری ہو گیا تو اس کے لیے اس کی سلامی کے بعد راجرت ہو گی پس یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اجرت عمل کے بعد رواجہ ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ چوری کی وجہ سے اس کا عمل بعض کپڑے پر پورا ہو گیا اور یہ کل کی طرف نسبت کرتے ہوئے علوم ہے۔ لہذا اس کی عمل کے اجرت واجہ ہو گی، بخلاف اس صورت کے ہے جب بعض شیئی پر عمل مکمل نہ ہو کیوں کہ ممکن نہیں ہے کہ ہر عمل قلیل کی اجرت طلب کی جائے اور ابعاض کو مقرر کرنا نہیں ہے پس اجرت کو طلب کرنا پورے عمل پر موقف ہو گا اور روٹی کی اجرت اس کو تصور سے نکالنے کے بعد میں جائے گی پس اگر وہ نکالنے کے بعد جل گئی تو اس کی اجرت ہو گی اور نکالنے سے پہلے (جل گئی تو) اجرت نہ ہو گی اور ان دونوں میں تباہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اس لیے کہ یہ ان کے نزدیک امانت ہے اور صاحبین رحمہمَا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے آئے کی مثل کا ضامن ہو گا اور اس کے لیے اجرت نہ ہو گی اور اگر چاہے تو اس کو روٹی کا ضامن بنادے اور اس کو اجرت دے دے اور پکانے کی اجرت نکال کر دینے کے بعد ہو گی اور کچھ ایشیں بنانے کی اجرت ان کو بنانے کے بعد ملے گی۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہمَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اجرت کا مستحق نہ ہو گا یہاں تک کہ وہ ان کو ترتیب سے لگادے کیوں کہ ترتیب سے لگانا تمام عمل میں سے ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نفل کی طرح زائد ہے۔

ترجمہ:

وللموجر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان اوقات کو بیان کر رہے ہیں جن میں موہر اجرت کو طلب کرنے کا مستحق ہو جاتا ہے اب دو سورتیں ہیں یا تو اجرت کے استحقاق کے زمانے کو عقد میں بیان کیا جائے گا اگر بیان نہ کیا جائے گا اگر بیان کیا جائے مثلاً ایک ماہ یا دو ماہ بعد اجرت لینا تو موہر اس وقت سے قبل مطالبه نہیں کر سکتا اور اگر وقت کو بیان نہیں کیا گیا تو دیکھا جائے گا اگر گھر یا زمین کا اجارہ ہو تو موہر کے لیے ہر دن اجرت طلب کرنا جائز ہے اس لیے کہ مستاجر منفعت مقصود پر ہر دن قبضہ کر رہا ہے تو موہر کے لیے بھی ہر دن کی اجرت لینا جائز ہے اور اگر شیئی مستاجرہ جانور ہو تو ہر منزل پر اجرت لینا جائز ہے کیونکہ ہر منزل کا چنان مقصود ہے اور اگر اچیر دھوپی یا درزی ہو تو پھر ان کے لیے عمل مکمل کرنے سے قبل اجرت طلب کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک نے جب بعض کام کیا تو وہ مفید نہیں ہے جب وہ مفید نہیں ہے تو اجرت بھی واجب نہ ہو گی۔ لہذا کام مکمل کرنے کے بعد اجرت ملے گی۔

و ان عمل فی سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دھوپی اور درزی کو کام مکمل کرنے کے بعد اجرت ملے گی اگر پہ یہ متناجر کے گھر میں کام کر رہے ہوں اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اضافہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ جب درزی نے متناجر کے گھر میں کام کیا ہے تو جتنا کام کرے گا وہ اس نے متناجر کے حوالے کر دیا۔ لہذا ب درزی کے لیے اپنے عمل کے بقدر اجرت طلب کرنا جائز ہونا چاہیے تو اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوزیا کہ درزی خواہ متناجر کے گھر میں کام کرے پھر بھی اجرت کا مستحق اسی وقت ہو گا جب اپنا کام مکمل کر چکے جو قول صاحب وقاریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے کہ وہ اجرت کا مستحق عمل مکمل کرنے سے قل نہ ہو گا خواہ اپنے گھر میں ہو یا متناجر کے گھر میں ہو، اسی قول کو صاحب حدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ لیکن اکثر فقهاء کرام حرمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دھوپی یا درزی جب متناجر کے گھر میں کام کرے گا تو جتنا کام کرے گا اسی کے بقدر اجرت لے سکتا ہے، بہ قول فتاویٰ فاضی خان، مسبوط، ذخیرہ، المغنى، المتر تاشی اور فوائد ظہیریہ میں مذکور ہے۔

بعض کے قول کا رد:

انما قال هذا سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتارہ ہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”وان عمل الخ“ کی قید کیوں لگائی ہے تو اس وجہ یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ درزی جب متناجر کے گھر میں کپڑا اسلامی کرے اور ابھی اس نے کچھ حصہ سلامی کیا تھا پھر کپڑا چوری ہو گیا تو درزی کو اس کے عمل کے بقدر اجرت ملے گی یہ صورت اتفاقی ہے تو یہ صورت مذکورہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجرت عمل کے مکمل ہونے پر واجب نہیں بلکہ عمل کے بقدر واجب ہوتی ہے، اس نے جتنا عمل مکمل کیا تو اس کی اجرت واجب ہو گی کیونکہ اگر اجرت واجب ہونے کے لیے عمل کا مکمل کرنا ضروری ہوتا تو اس درزی کو کچھ نہ ملتا اس لیے کہ کپڑا عمل مکمل ہونے سے پہلے چوری ہو گیا چنان چہ جب اس کو اجرت مل رہی ہے تو یہ دلیل ہے کہ اجرت بقدر عمل واجب ہوتی ہے، تو اس قول کو رد کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”وان عمل فی کی قید لگائی اب رہی یہ بات کہ اس چوری کی صورت میں ہمارے نزدیک بھی درزی کو اس کے عمل کے بقدر اجرت ملے گی تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ شارح لکن نقول سے بیان کر رہے ہیں کہ کپڑا چوری ہونے کی صورت میں اجرت کاملاً اس وجہ سے نہیں ہے کہ اجرت عمل کے بقدر واجب ہوتی ہے بلکہ اجرت کاملاً اس وجہ سے ہے کہ جب کپڑا چوری ہو گیا تو اس درزی نے جتنا کپڑا اسی تھا اس پر عمل مکمل ہو گیا تھا اور یہ سیاہوا کپڑا کل کپڑے کی نسبت معلوم ہے، مثلاً کل کپڑا اچھے گز تھا اور درزی نے ابھی تین گز سیاہ کہ کپڑا چوری ہو گیا تو اب تین گز کل کپڑے کا نصف ہے اس لیے نصف اجرت کا مستحق ہو گا۔ بخلاف ما سے شارح یہ بتارہ ہے ہیں کہ بعض کپڑے پر عمل مکمل نہ ہوا یعنی درزی نے متناجر کے گھر میں بعض کپڑا اسلامی کیا اور کپڑا چوری نہیں ہوا تو درزی کا عمل بعض کپڑے پر مکمل نہیں ہوا واجب بعض کپڑے پر عمل مکمل نہیں ہوا تو اب درزی کے لیے ہر تھوڑے تھوڑے عمل کی اجرت مانگنا ممکن نہیں ہے اور چونکہ یہ کپڑا چوری نہیں ہوا اس لیے بعض کپڑے کو میمن کرنا بھی درست نہ ہو گا پس اس صورت میں جب کپڑا چوری نہ ہو اور درزی کا اجرت طلب کرنا پورا کام کرنے پر موقوف ہو گا پس یہ بات معلوم ہوئی کہ کپڑا چوری ہونے کی صورت میں بعض کپڑے کی اجرت کا واجب ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اجرت عمل کے بقدر ہوتی ہے جیسا کہ بعض نے اس سے سمجھا ہے بلکہ اجرت کا واجب اس لیے ہے کہ چوری کی وجہ سے عمل مکمل ہو گیا تھا۔ لہذا اگر چوری نہ ہوئی تو عمل مکمل نہ ہو گا تو اجرت کا مطالیہ صحیح نہ ہو گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک اجرت کا واجب عمل کے مکمل ہونے کے بعد ہے اب عمل کا مکمل ہونا عام ہے خواہ حقیقتہ مکمل ہو کہ جب درزی نے سارا کپڑا اسلامی کر دیا ایمان عمل کے مکمل ہو جیسا کہ بعض کپڑا اسلامی کے بعد چوری ہو گیا تو اجرت عمل کے مکمل ہونے سے قبل واجب نہ ہو گی خواہ متناجر کے گھر میں عمل ہو یا کسی غیر کے گھر میں عمل ہو۔ واللہ اعلم بالعواب

و للجز بعد سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی کورٹی پکانے کے لیے اجرت پر لیا تو اب جس وقت یہ شخص روٹی پکا کر نکال دے گا تو اس وقت اجرت واجب ہوگی اس مسئلے سے دو باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات یہ کہ اجرت کا مستحق عمل سے فارغ ہونے کے بعد ہوگا اور دوسری بات یہ کہ فراغت کسی کے ساتھ ہوگی اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلق ذکر کیا ہے۔ لہذا اگر اس نے بعض روٹیاں نکالی تو انہی کی بقدر مستحق ہوگا اور یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب مستاجر کے گھر میں روٹیاں پکائی جائیں ہوں لہذا اگر مستاجر کے گھر سے باہر روٹیاں پکائی جائیں خواہ اجیر کے گھر میں ہوں یا نہ ہوں تو پھر اجیر اجرت کا مستحق اس وقت ہوگا جب روٹیاں مستاجر کے حوالے کر دے۔

[بحراۃق ۷/۵۱۳، عناویہ: ۸/۱۶]

فان احترق سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر روٹیاں تور سے نکالنے کے بعد جل گئی تو اجیر کو اجرت ملے گی اور اگر نکالنے سے قبل جل گئیں تو اجرت نہ ملے گی اور دونوں صورتوں (نکالنے کے بعد اور نکالنے سے پہلے) میں اجیر پر کسی قسم کا تاوان نہ آئے گا اب نکالنے کے بعد روٹیوں کے جل جانے کے باوجود اجرت کاملاً امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے جب کہ صاحبین رجمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستاجر کو اختیار ہے خواہ اس کو آئے کا ضامن بنادے اور اجرت نہ دے یا پھر اجرت دے دے اور روٹی کی قیمت کا ضامن بنادے جب کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روٹی اس کے پاس امانت تھی اور امانت کے بلا تعدی ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان نہیں ہوتا۔

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ سے تاجع:

و لا غرم فيهما مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روٹیاں خواہ نکالنے کے بعد جلیں یا نکالنے سے قبل جلیں دونوں صورتوں میں اجیر پر ضمان نہیں ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں تاجع ہے۔ صاحب در در رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول حدایہ کی شروحدات کے مخالف ہے کیونکہ ان میں مذکور ہے کہ نکالنے سے قبل روٹیاں جل جانے کی صورت میں اجیر پر تاوان ہے اور غایۃ البیان میں بھی یہی بات مذکور ہے کہ اجیر پر تاوان کالازم نہ ہو تا صرف اس صورت میں ہے جب روٹیاں تور سے نکالنے کے بعد علی ہوں بہر حال اگر نکالنے سے قبل جلی ہوں تو ضمان لازم ہوگا۔

[حاشیہ: علپی ۲۰۳/۲۰، بحر الراۃق ۷/۵۱۳]

و للطبع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کو کسی تقریب میں کھانا پکانے کے لیے اجرت پر لایا گیا تو وہ اجرت کا مستحق اس وقت ہوگا جب کھانا دیگوں سے نکال کر دے دے یا اس وقت ہے جب اس بات کی شرط نہ ہو کہ صرف کھانا پکانا ہے۔ لہذا اگر یہ شرط ہو تو پھر صرف پکانے سے اجرت کا مستحق ہو جائے گا اور یہ کھانا نکال کر دینا اس وقت ضروری ہے جب کسی تقریب دیگر کے لیے کھانا پکایا جائے اور اگر صرف ایک گھر کے لیے کھانا پکایا جائے تو پھر نکال کر دینا ضروری نہیں ہے۔

[بحراۃق ۷/۵۱۲، الکفاۃ: ۸/۲۰]

لضرب اللین سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک شخص کو ایٹھیں بنانے کے لیے اجرت پر لایا گیا تو یہ شخص ایٹھیں بنانے کے بعد اجرت کا مستحق ہوگا یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین رجمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایٹھیں بنانے کے بعد ان کو ترتیب سے رکھنا بھی ضروری ہے۔ صرف ایٹھیں بنانے سے اجرت کا مستحق نہ ہوگا کیونکہ ترتیب سے رکھنا عمل کے پورا کرنے میں سے ہے اور اجیر اجرت کا مستحق عمل پورا کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترتیب سے رکھنا عمل سے زائد ثمنی ہے عمل ایٹھیں بنانے سے مکمل ہو گیا تھا۔ مذکورہ اختلاف کا شرہ اس صورت میں نکلنے گا جب یا ایٹھیں ترتیب سے رکھنے سے قبل

ضائع ہو گئی امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کے زد دیک اجیر ضامن نہ ہو گا اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے زد دیک ضامن ہو گا اور یہ بھی اس وقت ہے جب ممتاز جر کی زمین میں اینٹیں بنائے اور اگر اجیر نے اپنی زمین میں اینٹیں بنائی تو اس وقت اجرت کا مستحق ہو گا جب ان اینٹوں کو ممتاز جر کے حوالے کر دے گا۔

راجح قول:

مشائخ رحمہما اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو ترجیح دی ہے۔

عبارت:

و من لعمله اثر فی العین ای شئی من ماله قائم بتلک العین کصبا غ و قصار يقصر بالنشاء و البيض له حبسها للاجر فان حبس فضاع فلا غرم و لا اجر هذا عند ابی حنیفة رحمہما اللہ تعالیٰ و عندهما العین كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده ثم هو بالخيار عندهما ان شاء ضمنه قيمته غير معمول و لا اجر و ان شاء ضمنه معمولاً و لـه الا جـرـوـ. ومن لا اثر لعمله ای ليس شئی من ماله قائمـ بتـلـکـ العـینـ کـالـحـمـالـ وـ الـمـلـاحـ وـ غـاسـلـ الشـوبـ لـاـ حـبـسـ لـهـ بـخـلـافـ رـادـ الـأـبـقـ فـانـ الـأـبـقـ کـانـ عـلـیـ شـرـفـ الـهـلـاـکـ فـکـانـهـ اـحـیـ وـ باـعـ مـنـهـ بـالـجـعـلـ وـ عـنـدـ زـفـرـ رـحـمـهـ اللـہـ تـعـالـیـ لـیـسـ لـهـ حـقـ الحـبـسـ سـوـاءـ کـانـ لـعـملـهـ اـثـرـ فـیـ العـینـ اـمـ لـاـ. وـ لـمـ يـطـلـقـ لـهـ الـعـملـ اـنـ يـسـتـعـملـ غـیرـهـ فـانـ قـيـدـهـ بـيـدـهـ فـلـاـ کـمـاـ اـذـ اـمـرـهـ اـنـ يـخـيـطـهـ بـيـدـهـ. وـ لـاـ جـيـرـ المـجـنـىـ بـعـيـالـهـ اـنـ مـاتـ بـعـضـهـ وـ جـاءـ بـمـنـ بـقـىـ اـجـرـهـ بـحـسـابـهـ وـ حـاـمـلـ خـطـ اوـ زـادـ الـىـ زـيـدـ بـاـجـرـ انـ رـدـهـ لـمـوـتـهـ لـاـ شـئـ لـهـ هـذـاـ عـنـدـ اـبـیـ حـنـیـفـةـ رـحـمـهـماـ اللـہـ تـعـالـیـ وـ اـبـیـ يـوسـفـ رـحـمـهـماـ اللـہـ تـعـالـیـ وـ عـنـدـ مـحـمـدـ رـحـمـهـماـ اللـہـ تـعـالـیـ لـهـ اـجـرـ الـذـهـابـ فـیـ الـخـطـ اـیـ الـكـتـابـ وـ فـیـ الزـادـ لـاـ شـئـ لـهـ اـتـفـاقـ حـیـثـ نـقـضـ عـملـهـ بـالـرـدـ.

ترجمہ:

اور وہ حس کے عمل کا عین میں اثر ہو یعنی اس کے مال میں سے کوئی شئی اس میں کے ساتھ قائم ہو جیسے رنگ ساز اور دھوپی جو کپڑے کو نشاء اور بیض (کپڑے سے میل دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے جیسے ہمارے زمانے میں صابن ہے۔) سے دھوتا ہے تو اس کے لیے شئی کو اجرت کے لیے روکنا جائز ہے اور اگر اس نے شئی روکی پھر وہ ضائع ہو گئی تو اس پر تاو ان نہیں ہے اور اس کے لیے اجرت نہیں ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے زد دیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے زد دیک عین روکنے سے پہلے مضمون تھی تو اسی طرح روکنے کے بعد مضمون ہے، پھر صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے زد دیک ممتاز جر کو اختیار ہے اگرچا ہے تو اجیر کو عین کی قیمت کا ضامن بنائے دراں حالاں کہ عین پر عمل نہ کیا گیا ہوا اور اجیر کے لیے اجرت نہ ہو گی اور اگرچا ہے تو عین کا ضامن بنائے دراں حالاں کہ اس پر عمل کیا گیا ہوا اور اس کے لیے اجرت ہو گی اور وہ شخص جس کے عمل کا عین میں اثر نہ ہو یعنی اس کے مال میں سے کوئی شئی اس عین کے ساتھ قائم نہ ہو جیسے مزدور اور ملاح اور کپڑا دھونے والا تو اس کے لیے روکنا صحیح نہیں ہے بخلاف بھاگے ہوئے غلام کو واپس کرنے والے کے ہے کیوں کہ بھاگنے والا بلاکت کے کنارے پر تھا تو گویا واپس کرنے والے نے اس کو زندگی دی اور موٹی کو جعل کے بد لے فروخت کر دیا اور امام زفر رحمہما اللہ تعالیٰ کے زد دیک اجیر کو عین روکنے کا حق نہیں ہے خواہ اس کے عمل کا عین میں اثر ہو یا نہ ہو اور جس شخص کے لیے عمل کرنا مطلق رکھا گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں غیر کو استعمال کرے پھر اگر ممتاز جرنے اس کے ہاتھ کی قید لگائی ہو تو دوسرے کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے جیسا کہ

متاجر نے اس کو حکم دیا کہ وہ کپڑا اپنے ہاتھ سے سلاٹی کرے اور انسان کی اہل و عیال کو لانے والے اجیر کے لیے اگر ان میں سے بعض مر گئے اور وہ باقی کو لے آیا اجرت اس کے حساب سے ہوگی اور زید کی طرف اجرت کے ساتھ خط یا تو شے لے جانے والا اگر اس خط یا تو شے کو زید کی موت کی وجہ سے واپس لے آیا تو اجیر کے لیے کچھ نہیں ہے یہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف علیہ السلام کے نزدیک ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے خط لے جانے کی اجرت ہے اور تو شے کی صورت میں اتفاقاً اس کے لیے کوئی شئی نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس کا عمل واپس کرنے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔

تشریح:

و من لعملہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس اجیر کے عمل کا اثر عین میں ظاہر ہو تو اس اجیر کے لیے اپنی اجرت کا مطالبہ کرنے کے لیے اس شئی کو روکنا جائز ہے۔
”اثر سے مراد“

اثر سے مراد کیا میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک اثر سے مراد یہ ہے کہ اجیر کی کوئی شئی یا اجزاء اس عین کے ساتھ لگے ہوئے ہوں جیسے رنگ ساز جب کپڑا رنگ لیتا ہے تو کپڑے کے ساتھ رنگ کے اجزاء لگ جاتے ہیں اور دھوپی جب وہ کپڑے کو نشاء اور بیض سے دھوتا ہے تو یہ کپڑے کے ساتھ قائم ہوتی ہیں اور بعض کے نزدیک اثر سے مراد یہ ہے کہ عمل کا وجود شئی میں نظر آئے جیسے لکڑی کو کاغذ اور گندم پیساو غیرہ لیکن اکثر فتحاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلا قول اسی ہے اور شارح نبھی اسی شئی من سے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ [الکفاریہ: ۲۱/۸]

فوائد:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس اجیر کے لیے شئی کو روکنا جائز ہے یہ اس وقت ہے جب اجرت نقد دینا طے ہوئی تھی۔
بہر حال اگر اجرت مذکور طے ہوئی ہو تو پھر اس کے لیے شئی کو روکنا ناجائز ہے۔

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ”حبسها“، کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کام اجیر نے اپنے گھر یا اپنی دکان میں کیا ہو بہر حال اگر اجیر نے متاجر کے گھر میں کام کیا تو اس کے لیے جسیں صحیح نہیں ہے۔ [بحral الت: ۷/۵۱۵]

فان حبس سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اجیر نے اس شئی کو روکا اور پھر اس کے قبضے میں وہ شئی بلا تعدی ہلاک ہوگئی تو اب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجیر اس شئی کا ضامن نہ ہوگا اور نہ اس کو اجرت ملے گی۔ کیونکہ یہ شئی امامت تھی اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک متاجر کو اختیار ہے اگرچا ہے تو اجیر کو اس شئی کی قیمت کا ضامن بنائے جس پر کام کیا گیا ہو تو اس صورت میں اجیر کو اجرت ملے گی اور اگرچا ہے تو صرف اپنی شئی کی قیمت کا ضامن بنائے تو اس صورت میں اجرت نہیں ملے گی۔

و من لا اثر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس اجیر کے عمل کا شئی میں اثر نہ ہو یعنی اجیر کے مال میں سے کوئی شئی اس عین کے ساتھ قائم نہ ہوئی ہو تو یہ اجیر اس شئی کو اپنی اجرت وصول کرنے کے لیے نہیں روک سکتا۔ جیسے مزدور اور کپڑے دھونے والا بشرطیکہ صرف پانی کے ساتھ دھوئے اور اگر صابن وغیرہ کے ساتھ دھوئے گا تو یہ اجرت وصول کرنے کے لیے کپڑوں کو روک سکتا ہے اور اگر اس نے (جس کے عمل کا شئی میں اثر نہیں ہے) شئی کو روک لیا تو یہ غاصب شمار ہوگا اور غاصب کا ضامن بھرے گا لیعنی متاجر کو اختیار ہے خواہ اس کو شئی کی قیمت کا ضامن عمل کو ساتھ شمار کر کے بنائے تو اس صورت میں اس کو اجرت دے گا اور اگرچا ہے تو شئی کی قیمت کا ضامن بل اعلیٰ شمار کیے بنائے تو اس صورت میں اجرت نہیں دے گا۔ [بحral الت: ۷/۵۱۵]

اشکال:

بخلاف راد الابق سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس اجیر کے عمل کا شئی میں اثر نہ ہو تو اس کے لیے شئی کو روکنا صحیح نہیں ہے حالانکہ اگر ایک شخص کا غلام بھاگ جائے اور جو اس غلام کو لے کر آئے تو وہ اس غلام کو مولیٰ سے جعل (وہ رقم جو مولیٰ غلام واپس لانے والے کو دیتا ہے) کے لیے روک سکتا ہے اب اس شخص کے عمل کا غلام میں اثر نہیں ہے حالانکہ اس کے لیے غلام کو روکنا جائز ہے۔

جواب:

فان الابق سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی اشکال کا جواب دیا ہے کہ بھاگنے والا غلام ہلاکت کے کنارے پر تھا جو شخص اس کو لے کر آیا ہے تو گویا اس نے غلام کو دوبارہ زندگی دے دی ہے (زندگی سے مراد ہلاکت سے خلاصی دینا ہے کیونکہ حقیقی زندگی صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے) اور اس نے غلام کو مولیٰ ہاتھ فروخت کیا ہے چنانچہ اس کے لیے روکنے کا حق ہے۔ [العنایہ: ۸/۲۱، الکفاۃ: ۸/۲۱]

و عند زفر سے امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کا رد ہب نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک خواہ اجیر کے عمل کا اثر شئی میں ظاہر ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں اجیر کے لیے شئی کو روکنا صحیح نہیں ہے۔

ولمن يطلق سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتارہ ہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اجیر سے مطلق عمل کا مطالبہ کیا تو اب اجیر کی مرضی ہے کہ وہ یہ کام کسی دوسرے سے کروا لے کیونکہ مقصود منفعت کا حصول ہے اور اگر مستاجر نے قید لگائی ہو کہ آپ بذات خود یہ کام کریں گے تو اب اجیر کے لیے کسی دوسرے سے کام کروانا ناجائز ہے لیکن امام اکمل الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر یہ اجیر اپنے سے بہتر کام جانے والے سے وہ کام کروائے تو مناسب یہ ہے کہ یہ جائز ہوگا۔

و لا جير المعجى سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کے اہل و عیال جن کی تعداد چار تھی کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے اس شخص نے ایک آدمی کو اجرت کے بدے اہل و عیال لانے کے لیے کہا اور چار سورو پے اجرت طے ہوئی وہ اجیر گیا تو ان میں سے دو مرپکے تھے وہ بقیہ دو کو لے کر آ گیا تو اس کو دوسرو پے اجرت ملے گی۔

و حامل خط سے یہ بتارہ ہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی خط یا تو شدیا کہ وہ زید تک پہنچا کر آئے وہ شخص گیا تو زید مرپکا تھا اور وہ خط یا تو شدیا کے آیا تو اب شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو اجرت نہ ملے گی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خط کی صورت میں خط لے جانے کی اجرت ملے گی اور تو شدی کی صورت میں بالکل اجرت نہ ملے گی۔

فائدة:

ہمارے موجودہ زمانے میں چونکہ خط پہنچانے کا نظام مکملہ ڈاک کی صورت میں ہے اور مکملہ ڈاک خط پہنچانے کی اجرت ملک کی صورت میں وصول کرتا ہے تو اگر کسی بجائہ مکملہ ڈاک نے خط بہنچا لیکن وہ مذکورہ شخص وہاں سے منتقل ہو چکا تھا یا اس کا انتقال ہو گیا تھا اور خط واپس آ گیا تو مکملہ ڈاک کے ذمے اس خط کی اجرت کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ [مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:] (جدید معاشری نظام میں اسلامی قانون اجارتہ ۲۵۷)

عبارت:

و صبح استیجار دار او دکان بلا ذکر ما یعمل فيه فان العمل المتعارف فيهمما سکنی فینصرف اليه و له كل

عمل سوى مو亨 البناء كالقصارة و الحدادة . لو استاجر ارضا لبناء او غرس صحيحاً اذا انقضت المدة سلمها فارغة الا ان يغرن الموجر قيمته مقلوعاً و يتملكه بلا رضى المستاجر ان نقص القلع الارض و الا فبرضاه او يرضى بتركه فيكون البناء و الغرض لهذا و قوله و يتملكه بالنصب عطف على ان يغرن و قوله والا اي و ان لم ينقص القلع الارض و قوله او يرضى عطف على قوله ان يغرن فالحاصل انه يجب على المستاجر ان يسلمهها فارغة الا اي يوجد احد الا مرين الاول ان يعطى الموجر قيمة البناء او الغرس مقلوعاً و يتملكه وهذا الاعطاء والتملك يكون جبراً على تقدير ان ينقص القلع الارض و يكون برضاء المستاجر على تقدير ان لا ينقص الامر الثاني ان يرضى الموجر بترك البناء و الغرس في ارضه هذا الذي ذكره في وجوب القلع و عدم وجوبه و فهم منه ولاية القلع للمستاجر و عدمها فانه قد ذكر انه ان نقص القلع الارض يتملكه بلا رضى المستاجر فحلاً لا يكون للمستاجر القلع و في غير هذه الصورة يكون و الرابطة كالشجرة فان لها بقاء في الارض بخلاف الزرع فانه اذا انقضت المدة لا يجبر على القطع قبل او ان الحصاد .

ترجمة:

اور گھر یا دکان کو اس عمل کا ذکر کیے بغیر جو اس میں کیا جائے گا اجرت پر لینا جائز ہے کیونکہ عمل متعارف سکنی (رہنا) ہے پس عمل اس طرف پھرے گا اور مستاجر کے لیے ہر عمل کرنا جائز ہے سوائے عمارت کو مکروہ کرنے والے عمل کے، جیسے کچھے دھونا اور لوہار کا کام کرنا اور اگر زمین کو عمارت بنانے یا پودے لگانے کے لیے اجرت پر لیا تو صحیح ہے اور جب مدت گزر جائے تو زمین فارغ کر کے اس کے حوالے کر دے گا، مگر یہ کہ موجر عمارت اکھڑی ہوئی قیمت کا تاوان بھر دے اور موجر مستاجر کی رضاء کے بغیر مالک بن جائے اگر اکھڑا نازیں کو نقصان دے ورنہ اس کی رضاء کے ساتھ یا اس کو چھوڑ نے پر راضی ہو جائے پس عمارت اور پودے مستاجر کے ہوں گے اور زمین موجر کی ہوگی۔ متن کا قول ”و يتملكه“ نصب کے ساتھ ہے، ”ان يغرن“ پر عطف ہے اور اس کا قول ”والا“ یعنی اگر اکھڑا نازیں کو نقصان نہ دے اور اس کا قول ”او يرضي“ کا اس کے قول ”ان يغرن“ پر عطف ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ مستاجر پر واجب ہے کہ زمین کو فارغ کر کے حوالے کرے مگر یہ کہ دو امور میں سے ایک پایا جائے پہلا یہ کہ موجر اکھڑی ہوئی عمارت یا پودوں کی قیمت دے دے اور موجر اس کا مالک بن جائے اور یہ اعطایہ اور تمثیل جبراً ہو گا اس تقدیر پر کہ اکھڑا نازیں میں کمی کر دے گا اور اکھڑا نامستاجر کی رضاء سے ہو گا اس تقدیر پر کہ اکھڑا نازیں میں کمی نہ کرے اور امر ثانی یہ ہے کہ موجر عمارت یا پودوں کو اپنی زمین چھوڑ نے پر راضی ہو جائے یہ بات جس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وجب قلع اور عدم وجب نہیں ہے اور اسی سے مستاجر کے لیے اکھڑا نے کی ولایت اور عدم ولایت سمجھی گئی ہے کیونکہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر اکھڑا نے زمین میں کمی کر دی تو موجر اس کا مستاجر کی رضاء کے بغیر مالک بن جائے گا پس اس وقت مستاجر کے لیے اکھڑا نہیں ہے اور اس صورت کے علاوہ میں اکھڑا نہ ہے اور ”ربطہ“ درخت کی طرح ہے کیونکہ اس کے لیے زمین میں بقاء ہے بخلاف کھتی کے ہے کیونکہ جب مدت گزگئی تو پکنے کے وقت سے قبل کامنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

تشریح:

و صبح استیجار ... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دکان اور مکان کو مطلقاً اجرت پر لینا جائز ہے اب مستاجران میں وہ کام کرے گا جو عرف عام میں کیے جاتے ہیں، جیسا ”رہنا“ اور ان کو ایسے کاموں میں استعمال نہیں کرے گا جن سے دکان یا مکان

کونقصان ہو جیسے دھوپی کا کام یا پچکی لگانا یا لوہار کا کام کرنا ان میں چونکہ عمارت کمزور ہو جاتی ہے اس لیے مطلق عقد کی صورت میں دکان کے اندر اس طرح کے کام کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے بلکہ اگر کسی کو یہ کام کرنے ہوں تو مستاجر کو چاہیے کہ وہ مالک سے دکان کو ان مقاصد میں استعمال کرنے کے لئے یا مستاجر کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مالک دکان کو ان مقاصد میں استعمال کرنے پر راضی ہے اور مالک کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر ان مقاصد میں استعمال کرنا جائز ہے اور ذکانوں اور مکانوں کا اجارہ کرتے وقت یہ بات ضروری ہے کہ اجارہ کی مدت اور اس کا کرایہ پہلے طے کر لیا جائے ورنہ عقد ناجائز ہو گا۔ [جد معاشر نظام میں اسلامی قانون اجراہ ۱۳۶۱]

لو استاجر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی سے زمین اجرت پر لی تاکہ وہ اس میں عمارت بنائے یا پودے لگائے تو صحیح ہے اور جب مقررہ مدت گزر جائے گی تو مستاجر پر واجب ہے کہ زمین خالی کر کے حوالے کر دے کیونکہ ان دونوں (عمارت اور پودے) کو باقی رکھنے میں مالک کو ضرر دینا ہے چنانچہ جب زمین کو خالی کرنا لازم ہے تو اب زمین کو خالی کرنے سے زمین کا نقصان ہو گا اگر خالی کرنے سے زمین کا نقصان ہوتا ہو تو مالک کو اختیار ہے چاہے تو مستاجر کو اکھڑے ہوئے درختوں اور عمارت کی قیمت دے دے اور زمین کا خود مالک بن جائے خواہ مستاجر راضی ہو یا راضی نہ ہو اور اگر چاہے تو اس صورت میں موجز زمین کو اس کے پاس چھوڑ دے تو زمین موجر کی ہو گی اور درخت اور عمارت مستاجر کے ہوں گے اور اگر زمین کو خالی کرنا زمین کو نقصان نہ دیتا ہو تو بھی مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ مستاجر کو اکھڑے ہوئے درختوں اور عمارت کی قیمت دے دے اور زمین کا مالک بن جائے بشرطیکہ مستاجر راضی ہو یہی مطلب شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت فالحاصل انه يجب سے او الغرس فی ارضه کا ہے۔

هذا الذى ذكره سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ متن میں جو مسئلہ مذکور ہوا کہ جب مالک مطالبہ کرے تو اکھڑنا واجب ہے اور اگر مالک راضی ہو جائے تو اکھڑنا واجب نہیں ہے مذکورہ مسئلہ سے یہ بات سمجھ آئی کہ مستاجر کے لیے بھی اکھڑنے کی ولایت ہے جب اکھڑنا زمین کو نقصان نہ دے اور اگر اکھڑنا زمین کو نقصان دے تو مستاجر کے لیے اکھڑنے کی ولایت نہیں ہے کیونکہ یہ بات گزر بھی ہے کہ اگر اکھڑنا زمین کو نقصان دیتا ہو تو موجر اس کا مستاجر کی رضاۓ کے بغیر مالک بن جائے گا۔ لہذا اس صورت میں مستاجر کو ولایت نہ ہو گی اور اس کے علاوہ دوسری صورت میں مستاجر کو ولایت ہو گی کہ اکھڑ دے۔

فائدہ:

متن میں جو یہ بات مذکور ہوئی کہ موجر درختوں اور عمارت کی قیمت کا تاو ان بھردا۔ تو اب قیمت معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمین کی قیمت ان درختوں اور عمارت کے بغیر لگائی اور پھر زمین کی قیمت اکھڑے ہوئے درختوں اور عمارت کے ساتھ لگائی جائے چنانچہ جو فرق ہو گا تو موجر اس کا ضامن ہو گا اب آیا اس مذکورہ حکم میں عام زمین اور وقف کی زمین برابر ہے یا نہیں ہے اس میں مفصل بحث ہے جو "منحة الخالق على هامش البحر" میں مذکور ہے۔ [من شاء فليراجعه: ۷/۵۱۹]

عبارت:

و ضمن بارداد رجل معه وقد ذكر رکوب المستاجر من غير ذكر الرديف نصف قيمتها بلا اعتبار الشقل فان الخفيف الجاهل بالفروسيه قد يكون اضر من النقل العالى بها و بالزيادة على حمل ما زاد الشقل ان اطاقت حملها والاكل قيمتها اي ضمن بالزيادة على حمل ما زاد ان كان الحمل بحيث تطيقه هذه الدابة و ان لم يكن الحمل كذلك يضمن كل قيمتها. كعطبها بضربيه و كبعده العطب الهلاك و كبع المجام

جذبه الی نفسہ عنقاً یعنی ضمن بھلاک الدابة بسبب الضرب او کبح اللجام کل قیمتہا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ و عندہما لا الا ان یکون ضرباً او کبحاً غیر متعارف

ترجمہ:

اور اپنے ساتھ کسی آدمی کو پیچھے بٹھانے کی وجہ سے متاجر ضامن ہوگا دراں ہالکا اس کے سوار ہونے کا ذکر کیا گیا تھا یعنی متاجر کے سوار ہونے کا ردیف کا ذکر کے بغیر اثقل کا اعتبار کیے بغیر نصف قیمت کا (ضامن ہوگا) ضامن ہوگا کیونکہ وہ ہلاک آدمی جو گھر سواری سے جاہل ہو کبھی اس وزنی انسان سے زیادہ جانور کے لیے مضر ہوتا ہے جو گھر سواری کو جانتا ہوا اور بوجہ سے زائد اٹھانے پر زیادتی کا ضامن ہوگا اگر جانور اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، دریں کل قیمت کا ضامن ہوگا یعنی بوجہ سے زائد اٹھانے پر زیادتی کا ضامن ہوگا اگر بوجہ سے اس طرح کا ہو کہ جانور اس کی طاقت رکھتا ہوا اگر بوجہ اس طرح کا نہ ہو تو تمام قیمت کا ضامن ہوگا جیسے کہ جانور کا مارنے کی وجہ سے ہلاک ہو جانا اور اس کو کھینچنے سے "عطب" یعنی ہلاک ہوتا ہے اور "کبح لگام" یعنی اس کو اپنی طرف زبردستی کھینچنا یعنی مارنے یا لگام کھینچنے کی وجہ سے جانور کے ہلاک ہونے کی صورت میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام قیمت کا ضامن ہوگا اور صاحبین رحمہمَا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن نہ ہوگا مگر یہ کہ مارنا اور کھینچنا متعارف نہ ہو (تو ضامن ہوگا)

تشریح:

و ضمن بار داف..... یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو بیان کر رہے ہیں جن میں متاجر پر ضمان آتا ہے۔ پہلی صورت و ضمن بار داف..... سے بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص نے جانور کو اپنے سوار ہونے کے لیے کرایے پر لیا اور پھر دوسرے شخص کو اپنے پیچھے بٹھالیا چنانچہ وہ جانور مر گیا تو متاجر اس جانور کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ متاجر نے صرف نصف میں تعدی کی ہے اور بوجہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مثلاً اگر متاجر کا وزن پیچھے بیٹھنے والے کے وزن سے دو گلہے تو بھی متاجر نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور یہ نہ کہے گا کہ ردیف کا وزن تمام تمام وزن کا ثلث تھا اس لیے ثلث قیمت بطور ضمان لازم ہوگی کیونکہ کبھی ایک شخص وزن کے اعتبار سے ہلاک ہوتا ہے لیکن گھر سواری نہ جانے کی وجہ سے وہ گھڑے پر اس شخص سے زیادہ مضر ہوتا ہے جو گھر سواری جانتا ہوا اور وزنی ہو۔

نوائد قیود:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ردیف کے بارے میں "رجل" کہا ہے اگر ردیف پچھے ہو تو متاجر اس کے وزن کے بقدر ضمان دے گا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے "ضمن" کو مطلق ذکر کیا ہے۔ لہذا ملک کو اعتیار ہے اگر چاہے تو ردیف کو ضامن بنائے اور اگر چاہے تو متاجر کو ضامن بنائے۔

اور متاجر پر نصف ضمان اس وقت لازم ہوگا جب جانور ان دونوں کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو لہذا اگر جانور دونوں کو اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو پھر پوری قیمت کا ضمان لازم ہوگا۔

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے "ارداف" کی قید لگائی ہے لہذا اگر ایک شخص خود سوار ہوا اور اپنے ساتھ سامان رکھ لے تو اب سامان ضامن ہوگا۔

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے "ارداف رجل" کی قید لگائی ہے لہذا اگر ایک شخص خود سوار ہوا اور اپنے ساتھ سامان رکھ لے تو اب سامان کی مقدار کے بقدر ضامن ہوگا۔

دوسری صورت و بالزیادہ علی حمل سے بیان فرمائی ہے کہ اگر ایک شخص نے جانور کو اجرت پر لیا تاکہ اس پر بیس کلوگنڈم اٹھائے پھر اس نے جانور پر کچیس کلوگنڈم اٹھائی تو اب زیادتی کا ضامن ہو گا یعنی جانور کی قیمت کو تمام بوجھ پر تقسیم کیا جائے گا۔ جتنی مقدار زیادتی کے مقابل آئے گی تو اس کا ضامن ہو جائے گا مثلاً جانور کی قیمت دس ہزار روپے تھی اور اس نے کچیس کلووزن اٹھایا چنانچہ پانچ کلوگنڈم کے مقابل دو ہزار روپے ہیں۔ الہذا شخص دو ہزار روپے کا ضامن ہو گا۔

فواہد قیود:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”ان اطاقت“ کی قید لگائی ہے کہ زیادتی کا ضامن اس صورت میں ہو گا جب جانور مسکی بوجھ کو زیادتی کے ساتھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، بہر حال اگر جانور زیادتی کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں پورے جانور کی قیمت کا ضامن ہو گا۔ متناجر زیادتی کا ضامن اس وقت ہو گا جب اس نے زیادتی کو خود رکھا ہو۔ لہذا اگر زیادتی کو کسی دوسرے نے رکھا ہو تو متناجر ضامن نہ ہو گا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”بالزیادة“ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ شیء کسی بوجھ کی جنس میں سے ہو۔ لہذا اگر متناجر نے بوجھ کے ساتھ زیادتی کسی دوسری جنس کی اٹھائی تو نوری قیمت واچ ہو گی۔

متاجر زیادتی کا ضامن اس وقت ہو گا جب زیادتی کو مسکی بوجھ کے ساتھ اٹھائے بہر حال اگر اس نے مسکی بوجھ کو الگ اور زیادتی کو الگ اٹھایا تو تمام قیمت کا ضامن ہو گا۔ [بحر الرائق: ۵۲۵/۸]

تیسری صورت ”کعطفہا بضربہ“ سے بیان کی ہے کہ اگر ایک شخص نے جانور کو اجرت پر لیا اور پھر اس کو مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا یا اس جانور کو لگام سے پکڑ کر اپنی طرف زبردستی کھینچا جس کی وجہ سے وہ مر گیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستاجر ضامن ہو گا اور صاحبین رحہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستاجر ضامن نہ ہو گا جب کہ مارنا اور کھینچنا متعارف ہو اور اگر متعارف نہ ہو تو ضامن ہو گا۔

فواز

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”ضرب“ اور ”الکبح“ کی قید لگائی سے الہاگر سوق (ہائکنے) سے جانور مر گیا تو متناجر ضامن نہ ہوگا۔ مخشی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا اختلاف حقیقی نہیں ہے کیونکہ جانور کو ایسا مارنا جس سے جانور ہلاک نہ ہوا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے جس کو صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے ضرب متعارف فرمایا ہے اور جانور کو ایسا مارنا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے تو ایسی صورت میں متناجر ضامن ہوگا اسی کو صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے ضرب غیر متعارف فرمایا ہے۔ الہا حقیقی اختلاف نہیں ہے کہ جس کا شمرہ ظاہر ہو۔

عبارت:

و جوازها بها ما استوجرت اليه ولو ذاهباً و جائياً و ردتها اليه قوله و ردتها بالجر عطف على جوازها اى يضمن بجواز الدابة عن مرضع استوجرت اليه ثم ردتها الى ذلك الموضع و ان كان الاستيجار ذاهباً و جائياً و انما قال هذا اني بالما قيل انه انما يضمن اذا استاجرها ذاهباً فقط لان الاجارة قد انتهت بالوصول الى ذلك الموضع فيضمن بالجواز عنه واما اذا استاجرها ذاهباً و جائياً فجائز عن ذلك الموضع ثم ردتها اليه لا يضمن كالموعد اذا خالف ثم عاد الى الوفاق لكن الصحيح الضمان اقول ان هلكت الدابة في ذلك الموضع بسبب تيقن بأنه لا مدخل لجوازها عن ذلك الموضع فيتحقق ذلك السبب يفتى بعدم الضمان و ان هلكت بسبب

لا تيقن بذلك بل يمكن ان يكون له مدخل يفتى بالضمان . و نزع سرج حمار مكتزى و ايكافه مطلقاً و اسراجه بما لا يسرج بمثله دون ما يسرج بمثله اي ان اكترى حماراً مسرجاً فنزع السرج او كفه و حمل عليه فهلك ضمن سواء كان الاكاف مما يوكف هذا الحمار بمثله او لا و ان نزع السرج و اسرجه بسرج اخر فان كان هذا السرج مما لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن و ان كان يسرج بمثله لا يضمن الا اذا كان في الوزن زائداً على الاول فيضمن بحسباته و هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و عندهما ان او كفه باكاف يوكف بمثله لا يضمن الا اذا كان زائداً في الوزن على السرج الذى نزعه فيضمن بقدر الزيادة . و سلوك الحمال طریقاً غير ماعینه المالک و تفاوتاً او لا يسلکه الناس او حمله في البحر فله الا جر ان بلغ اى تحمل الاجر في جميع ما ذكر ان بلغ المنزل لحصول المقصود . و من استاجر ارضًا لزرع بر فزرع رطبه ضمن ما نقضت بلا اجر لانه صار غاصباً و حكم الغصب هذا . و من دفع ثوباً ليحيطه قميصاً فخاطه قباءً ضمن قيمة ثوبه او اخذ القباء باجر مثله و لم يزيد على المسمى عندنا في الاجارة الفاسدة و الله اعلم .

ترجمہ:

اور جانور کو اس جگہ سے تجاوز کروانے کی وجہ سے جہاں تک اجرت پر لیا گیا ہے متناجر ضامن ہو گا اگرچہ جاتے ہوئے ہو یا آتے ہوئے ہوا اور اس جانور کو اس جگہ تک لوٹانے کی وجہ سے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”وردها“ جر کے ساتھ ہے ”جو ازها“ پر عطف ہے یعنی جانور کو اس جگہ سے جہاں تک اجرت پر لیا گیا ہے، تجاوز کروانے کی وجہ سے پھر اس کو اس جگہ تک لوٹانے کے ساتھ ضامن ہو گا اگرچہ اجرت پر لیا آنے اور جانے دونوں کے لیے ہوا اور سوائے اس کے نہیں یہ کہا اس بات کی نفعی کرتے ہوئے جو کہ یہ کیا گیا کہ صرف اسی وقت ضامن ہو گا جب اس جانور کو فقط جانے کے لیے اجرت پر لیا ہواں لیے کہ اس جگہ تک پہنچنے کی وجہ سے اجارہ مکمل ہو گیا پس اس سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ضامن ہو گا اور بہر حال جب اس کو آنے اور جانے کے لیے اجرت پر لیا اور اس جگہ سے تجاوز کر گیا پھر جانور کو اس جگہ تک واپس لے آیا تو یہ مودع کی طرح ضامن نہ ہو گا جب مودع خالفت کرے پھر موافقت کی طرف لوٹ آئے لیکن صحیح قول ضامن کا ہے میں کہتا ہوں اگر جانور اس جگہ میں ایسے سبب کے ساتھ ہلاک ہو جائے کہ اس بات کا یقین ہو کہ جانور کو اس جگہ میں ایسے سبب کے ثابت ہونے میں دخل نہیں ہے تو عدم ضامن کا فتویٰ دیا جائے گا اور اگر جانور ایسے سبب سے ہلاک ہو جس کے بارے میں یقین نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ اس سبب کا دخل ہو تو ضامن کا فتویٰ دیا جائے گا اور کرائے پر لیے ہوئے گدھے کی زین کو اتارنے اور اس پر مطلقاً پالان رکھنے یا اس کو وہ زین پہنانا جس کی مثل زین نہیں پہنانی جاتی تو اس کی وجہ سے ضامن ہو گا نہ کو وہ زین جس کی مثل پہنانی جاتی ہے لیکن اگر زین والے گدھے کو کرایے پر لیا پھر زین اتار دی اور اس پر بوجھلا دیا پھر وہ مر گیا تو متناجر ضامن ہو گا برابر ہے کہ پالان ان میں سے ہو جس کی مثل کا پالان اس گدھے پر رکھا جاتا ہے یا نہیں اور اگر زین کو اتارا اور دوسری زین رکھ دی پھر اگر زین ان میں سے ہو جس کی مثل اس گدھے کو زین نہیں پہنانی جاتی تو یہ ضامن ہو گا اور اگر اس کی مثل زین پہنانی جاتی ہے تو یہ ضامن نہ ہو گا مگر جب وہ وزن میں پہلی زین سے زیادہ ہو پس اس کے حساب سے ضامن ہو گا اور یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس پر ایسا پالان رکھا جس کی مثل رکھا جاتا ہے تو یہ ضامن نہ ہو گا مگر جب وہ وزن میں اس زین سے زائد ہو۔ اس کو اس سے اتارا گیا ہے پس وہ زیادتی کے بقدر ضامن ہو گا اور مزدور کے ایسے راستے پر

چنے کی وجہ سے جس کو مالک نے متعین نہیں کیا اور وہ دونوں راستے جدا جدہ ہیں یا اس رستے پر لوگ نہیں چلتے یا اس کو مندرجہ میں سے اٹھا کر لایا تو اس کو اجرت ملے گی اگر وہ پہنچ جائے یعنی مزدور کے لیے مذکورہ تمام صورتوں میں اجرت ہے اگر وہ منزل پر پہنچ گیا مقصود کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے اور جس نے زمین گندم کھتی کرنے کے لیے اجرت پر لی پھر اس میں رطبه کاشت کی تو وہ اس نقصان کا ضامن ہو گا اجرت کے بغیر اس لیے کہ وہ غاصب ہو گیا اور غصب کا حکم یہ ہے اور جس کو کپڑا دیا گیا تاکہ وہ اس کی قیمت سی دے پھر اس نے قبایل دیا تو وہ اس کے کپڑے کی قیمت کا ضامن ہو جائے یا قبایل کو اس کی اجرت مثل کے بدالے لے اور اجر مثل کو مسمی پر زائد نہ کرے اس لیے کہ ہمارے نزدیک اجارہ فاسدہ میں اجر مثل مسمی پر زائد نہیں کی گی۔ واللہ اعلم

ترتیج:

و جوازها سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے جانور کو کوفہ تک جانے کے لیے اجرت پر لیا پھر وہ کوفہ سے آگے کسی دوسری بستی میں چلا گیا اور دوبارہ کوفہ آیا اور جانور مر گیا تو یہ ضامن ہو گا۔

اختلاف:

ولو ذاہبا و جائیا سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جہور کے نزدیک مستاجر معینہ جگہ سے جانور کو آگے لے جانے کی وجہ سے ضامن ہو گا خواہ اس نے معینہ جگہ تک جانے اور آنے دونوں کے لیے جانور کو اجارہ پر لیا ہو جب کہ بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستاجر صرف اس وقت ضامن ہو گا جب اس نے اس جگہ (کوفہ) تک صرف جانے کے لیے جانور کو اجرت پر لیا ہوتا کہ جب وہ اس جانور کو واپس کوفہ لائے تو مالک کی طرف لانے والا شمارہ ہو کیونکہ جب اس نے صرف کوفہ تک جانے کے لیے اجرت پر لیا تھا اور واپس آنے کے لیے اجرت پر نہیں لیا تھا تو کوفہ سے آگے بڑھنے کی صورت میں غاصب بن جائے گا اور جب واپس لوئے گا تو بھی غاصب ہی رہے گا کیونکہ واپس آنے کے لیے جانور اجرت پر نہیں لیا لیکن اگر اس نے کوفہ تک جانے اور واپس آنے کے لیے جانور اجرت پر لیا تھا تو جب وہ کوفہ سے تجاوز کر گیا اور پھر دوبارہ جانور کو فی میں لے آیا تو یہ ضامن نہ ہو گا جیسے مودع کو جب امانت اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا گیا اس نے کسی دوسرے کے حوالے کر دی اور پھر دوبارہ اپنے قبضے میں لے لی اور وہ ہلاک ہو گئی تو یہ ضامن نہ ہو گا کیونکہ جب وہ شئی اس کے قبضے میں ہلاک ہوئی تو بطور امانت ہلاک ہوئی اسی طرح مستاجر نے جب آنے اور جانے دونوں کے لیے اجرت پر لیا ہے اور وہ جانور کو فہ میں مر گیا تو یہ ضامن نہ ہو گا چنانچہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”لو ذاہبا و جائیا“ سے اسی قول کو رد کیا ہے کہ خواہ اس نے آنے اور جانے دونوں کے لیے جانور اجرت پر لیا ہو لیکن جب وہ جانور کو اس معین جگہ سے آگے لے گیا پھر اگر چہ واپس لے آیا تو اب بھی ہلاک ہونے کی صورت میں مستاجر ضامن ہو گا۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے:

اقول ان سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ جب مستاجر جانور کو مذکورہ معین جگہ سے آگے لے گیا اور دوبارہ جانور کو اسی جگہ لے آیا اور جانور مر گیا تو اب جانور کے مرنے کے سبب کو دیکھا جائے گا اگر سبب ایسا ہے کہ مذکورہ جگہ سے تجاوز کرنے کو اس سبب کے ثابت ہونے میں یقینی طور پر دخل نہیں ہے تو اب مستاجر پر عدم ضمان کا فتویٰ دیا جائے گا اور اگر سبب ایسا ہے کہ مذکورہ جگہ سے تجاوز کرنے کو یقینی طور پر اس میں دخل نہیں ہے لیکن امکان ہے کہ تجاوز کرنے کو اس سبب کے ثبوت میں دخل ہو تو پھر مستاجر پر ضمان کا فتویٰ دیا جائے گا۔ (ج) رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں خواہ تجاوز کرنے کو سبب کے ثبوت میں دخل ہو یا دخل نہ ہو، ضمان لازم

ہونا چاہیے کیوں کہ ہمارے زمانے کے زیادہ مناسب یہی ہے۔ [والله اعلم بالصواب]
و نزع سرج سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے گدھے کو اجرت پر لیا اور گدھے پر زین رکھی ہوئی تھی اس شخص نے زین اتاری اور اس کی جگہ دوسرا زین رکھ دی تو اب اس زین کو دیکھا جائے گا کہ اس کی مثل زین گدھے پر رکھی جاتی ہے یا نہیں رکھی جاتی اگر اس کی مثل زین گدھے پر رکھی جاتی ہو تو یہ ضامن نہ ہو گا البتہ اگر دوسرا زین پہلی زین سے وزن میں زائد ہو تو پھر یہ زیادتی کا ضامن ہو گا اور اگر اس زین کی مثل گدھے پر نہیں رکھی جاتی تو پھر یہ شخص تمام قیمت کا ضامن ہو گا۔

اور اگر اس شخص نے زین اتار کر اس کی جگہ پالان رکھ دیا تو اب پالان کو دیکھا جائے گا اگر اس مثل کا پالان اس گدھے پر نہیں رکھا جاتا تو یہ شخص ضامن ہو گا اور اگر اس مثل کا پالان گدھے پر رکھا جاتا ہے تو اب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن ہو گا لیکن ضامن کی مقدار میں دوراً تین مذکور ہیں جامع صغیر کی روایت کے مطابق تمام قیمت کا ضامن ہو گا اور دوسرا روایت یہ ہے کہ زیادتی کے بقدر ضامن ہو گا اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامع صغیر کی روایت کو اسخ فرمایا ہے لہذا تمام قیمت کا ضامن ہو گا اور صاحبین رحہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن نہ ہو گا مگر اس وقت جب پالان کا وزن زین سے زائد ہو پس یہ زیادتی کی بقدر ضامن ہو جائے گا۔

[العنایہ: ۸/۳۱، الکفاریہ: ۸/۳۲]

سلوک الحمال سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی کو سامان اٹھانے کے لیے اجرت پر لیا اور اس کو راستہ بتا دیا لیکن وہ مزدور سامان لے کر دوسرے راستے سے چل پڑا تو اب تین صورتیں ہیں۔ یا تو اس راستے پر لوگ چلتے ہوں گے یا نہ چلتے ہوں گے اگر لوگ چلتے ہوں تو پھر دونوں راستوں (مالک کے معین کیے ہوئے راستے اور مزدور کے اختیار کردہ راستے) میں بہت زیادہ فرق ہو گا یا فرق نہ ہو گا اگر فرق ہو تو سامان ہلاک ہونے کی صورت میں مزدور ضامن ہو گا اور اگر فرق نہ ہو تو سامان ہلاک ہونے کی صورت میں مزدور ضامن نہ ہو گا اور اگر مزدور کا اختیار کردہ راستہ ایسا ہو جس پر لوگ نہ چلتے ہوں تو سامان ہلاک ہونے کی صورت میں مزدور ضامن ہو گا۔

او حملہ سے یہ بتایا کہ اگر مالک نے خشکی کا راستہ بتایا اور وہ سمندری راستے سے چل پڑا تو سامان ہلاک ہونے کی صورت میں ضامن ہو گا البتہ ان تمام صورتوں میں اگر سامان ہلاک نہ ہو اور مزدور سامان کو اس جگہ تک پہنچا دے تو اس کو اجرت ملے گی کیونکہ مقصود سامان کو اس جگہ تک پہنچانا تھا اور وہ حاصل ہو گیا ہے۔

[العنایہ: ۸/۳۳]



باب الاجارة الفاسدة

عبارت:

الشرط يفسدها والمراد شرط يفسد البيع، وفيها اجر المثل لا يزيد على المسمى هذا عندنا وعند زفرو الشافعى رحمة الله تعالى يحب بالغاً ما بلغ كما في البيع الفاسد تجب قيمة العين باللغة ما بلغت ولنا ان المنافع غير متقومة بنفسها بل بالعقد وقد اسقطوا الزيادة فيه. وصح اجارة دار كل شهر بكذا فى واحد فقط وفى كل شهر سكن ساعة فى اوله هذا عند بعض المشايخ فإنه حين يهل الهلال يكون لكل واحد حق الفسخ فإذا مضى اذن زمان لزム العقد فى هذا الشهر وفى ظاهر الرواية لكل واحد منها حق الفسخ فى الليلة الاولى مع اليوم الاول من الشهر اذ فى اعتبار او ان رؤية الهلال حرج وفى كل شهر علم مدته باق قيل اجرت لستة اشهر كل شهر بكذا.

ترجمة:

شرط اجارة كوفاسد کرتی ہے اور مراد ایسی شرط ہے جو بعث کوفاسد کرتی ہو اور اجارة فاسدہ میں اجر مثل ہو گی جو مکی سے زائد نہ کی جائے گی یہ بھارے نزدیک ہے اور امام زفر اور امام شافعی رحمة الله تعالى کے نزدیک اجر مثل واجب ہو گی جہاں تک پہنچ جائے، جیسے بعث فاسد میں عین کی قیمت واجب ہوتی ہے جہاں تک عین کی قیمت پہنچ جائے اور بھاری دلیل یہ ہے کہ منافع بذات خود متقومه نہیں ہو اکرتے بلکہ عقد کی وجہ سے متقوم ہوتے ہیں دراں حالکہ متعاقدين نے عقد میں زیادتی ساقط کر دی ہے اور گھر کو کرا یے پر دنیا "کل شهر بكذا" کی صورت میں فرض ایک ماہ میں اجارة صحیح ہو گا اور ہر اس ماہ میں بھی صحیح ہو جائے گا جس کے شروع میں ایک گھری گھر میں سکونت اختیار کر لی یہ بعض مشانخ کے نزدیک ہے کیونکہ جس وقت نیا چاند نکلے گا تو ہر ایک کو فتح کرنے کا حق ہو گا پس جب تھوڑا ساز ماہ گزر گیا تو اس ماہ میں عقد لازم ہو جائے گا اور "ظاهر الرواية" میں یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو مہینے کی پہلی رات میں پہلے دن کے ساتھ فتح کرنے کا حق ہو گا اس لیے کہ چاند دیکھنے کے وقت کا اعتبار کرنے میں حرج ہے اور اس ماہ میں بھی اجارة صحیح ہو جائے گا جس کی مدت معلوم ہو اس کی صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے میں نے چھ ماہ کے لیے کرا یے پر دیا ہر ماہ اتنے روپے کے بد لے میں ہے۔

تفصیل:

یہ بات جانی چاہیے کہ اجارة کی وقایتیں ہیں۔

(۱) اجارة فاسدہ۔ (۲) اجارة باطلہ۔

اجارة فاسدہ:

اجارة فاسدہ وہ ہے جو اصل کے اعتبار سے مشروع ہو اور وصف کے اعتبار سے مشروع نہ ہو اور اجارة باطلہ وہ ہے جو اصل اور وصف دونوں کے لحاظ سے مشروع نہ ہو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اجارة فاسدہ میں شئی کو استعمال کرنے کی وجہ سے اجرت مثل واجب ہوتی

[دریتار: ۶/ ۲۵]

ہے جب کہ اجارہ باطلہ میں شئی کو استعمال کرنے کی وجہ سے اجرت مثل واجب نہیں ہوتی۔

اجارہ فاسدہ کی وجہ:

اجارہ فاسد ہونے کی دل وجہو ہیں۔

(۱) جہالت، خواہ اجرت میں ہو یا معقود علیہ میں ہو۔

(۲) اجرت ایسی شئی ہو جو متفقہ اور مباح نہ ہو جیسے شراب یا خزیر۔

(۳) عقد اجارہ میں کوئی ممنوع شرط لگائی گئی ہو۔

(۴) عقد اجارہ میں شبہہ رہا ہو۔

(۵) شئی مستاجر کو حوالے کرنے پر قادر نہ ہو۔

(۶) عقد اجارہ میں کوئی شرط فاسد لگائی گئی ہو مثلاً ایسی شرط جس میں موجر یا مستاجر کا نفع ہو۔

(۷) عقد اجارہ کی مدت طے نہ کی گئی ہو۔

(۸) معقود علیہ سے فی الحال نفع اٹھانا ناممکن ہو۔

(۹) شئی مستاجر کو ہلاک کیے بغیر نفع حاصل کرنا ناممکن ہو۔

(۱۰) اجرت یا عمل میں تردید ہو۔

اجارہ باطلہ کی وجہ:

اجارہ باطل ہونے کی پانچ وجہو ہیں۔

(۱) مالک کا راضی نہ ہونا مثلاً کسی مسکین سے زبردستی اجارہ پر شئی لے لینا پھر اس شئی کی اپنی مرضی سے اجرت طے کر لینا۔

(۲) عائد کا اہل نہ ہونا مثلاً عائد پاگل ہو۔

(۳) معقود علیہ مال متفقہ نہ ہو۔

(۴) معقود علیہ ایسی شئی ہو جس کا انسان مالک نہیں بن سکتا جیسے تسبیح کرنے کی اجرت وغیرہ۔

(۵) وہ شئی معقود علیہ نہ بن سکتی ہو مثلاً نماز جنازہ پڑھانے کی اجرت یعنی (هذا الوجوه ماخوذ من العاشرية و فيه تفصيل من

شاء فلیر اجمعه)

اجارہ فاسدہ کا حکم:

و فيها اجر المثل سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اجارہ فاسدہ کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ جب اجارہ فاسدہ میں مستاجر نے شئی سے نفع حاصل کر لیا تو اب مستاجر کے ذمے اس شئی کی اجرت مثل ہو گی اور جو اجرت دونوں کے مابین طے ہوئی تھی وہ نہ ہو گی اجرت لازم مثل معلوم کرنے کا طریقہ کاریہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ اگر ایسی شئی کو اتنی مدت کے لیے اجارہ پر دیا جائے تو اس کی اجرت کتنی ہو گی تو اب جو اجرت معلوم ہو گی وہی اجرت مثل کہلائے گی اور یہ اجرت مثل اس اجرت سے زائد نہ کی جائے گی جو اجرت عقد میں طے ہوئی تھی۔ مثلاً عقد میں ہزار روپے اجرت طے ہوئی تھی اور اجرت مثل بارہ سوروپے ہے تو اب ہزار روپے ادا کرے گا اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اجرت مثل کو اجرت مسکی سے زائد نہ کیا جائے گا، یا اس وقت ہے جب اجارہ شرط کی وجہ سے فاسد ہوا ہو البتہ اگر اجارہ اجرت میں جہالت یا

اجرت کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے فاسد ہوا ہو تو اس وقت اجرت مثل ہی واجب ہو گئی خواہ کسی سے بڑھ جائے۔ اجارة فاسدہ میں اجرت مثل کا مسمی سے زائد واجب نہ ہونا ہمارا نہ ہب ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجرت مثل واجب ہو گئی خواہ اس کی مقدار اجرت مثل سے بڑھ جائے۔ [البنایہ: ۱۳/۲۰]

امام زفر اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:

کما فی البيع الفاسد سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ ان حضرات نے اجارة فاسدہ کو نوع فاسد پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح بعض فاسد میں بیچ کی قیمت واجب ہوتی ہے خواہ قیمت کی مقدار میں سے بڑھ جائے اسی طرح اجارة میں شئی کی اجرت مثل واجب ہو گئی خواہ وہ اجرت مسمی سے بڑھ جائے ان کی دلیل کامد اراس پر ہے کہ منافع اعیان کی طرح ہیں۔ [العنایہ: ۸/۳۵]

اختلاف کی دلیل:

ولنا ان المنافع سے شارح رحمہما اللہ تعالیٰ اختلاف رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ منافع بذات خود متقوم نہیں ہوتے اس لیے کہ متقوم وہ شئی ہوتی ہے جس کو حفاظت سے رکھا جائے اور منافع کو حفاظت سے نہیں رکھا جائے سلسلہ اللہ تعالیٰ متقوم نہیں ہیں البتہ عقد کی وجہ سے شرعاً یہ متقوم بن گئے ہیں کیوں کہ لوگوں کو اجارة کی حاجت ہے اس لیے منافع کا تقویم بے اب اس پر ایک ہلاکسا اشکال ہوا کہ جب منافع متقوم ہو گئے تو اب اجرت مثل واجب ہوئی چاہیے خواہ اس کی مقدار مسمی سے بڑھ جائے تو اس کا جواب ”قد اسقطا سے دیا کہ دونوں متعاقدين جب عقد فاسد میں ایک معین مقدار پر متفق ہو گئے ہیں تو ان دونوں نے مقدار معین پر زیادتی ساقط کر دی ہے لہذا اجرت مثل مسمی سے زائد واجب نہ ہو گی۔ [البنایہ: ۸/۲۰، ۱۳/۳۵]

و صح اجارة دار سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی سے گھر کرنے پر بیان اور اس سے کہما ”کل شهر بعشرة دراهم“ (ہر ماہ دس دراهم کے بدلتے ہے) تو اب بیاجارة صرف ایک ماہ میں صحیح ہو گایا تمام نہیں میں صحیح رہے گا؟ بعض مشائخ رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک ماہ میں اجارة صحیح ہو اے اور باقی مہینوں میں اجارة فاسد ہو گیا۔ اللہ اور سرے ماہ کا چاند نظر آنے کے وقت ہر ایک کو عقد فتح کرنے کا اختیار دیا جائے گا اور اگر انہوں نے عقد فتح کیا اور تحوث اساز مانہ گزر گیا تو اس دوسرے ماہ میں بھی عقد لازم ہو جائے گا اب اس تحوثے زمانے کی مقدار میں اختلاف ہے۔ بعض نے دن کی ایک گھنٹی مرادی ہے اور بعض نے پہلا دن اور پہلی رات مرادی ہے اور امام رملی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تین دن اور تین راتیں مرادی ہیں اور اسی پر فتویٰ ہے۔ [شامی: ۶/۵۰]

ظاہر الرویہ کے مطابق جب ایک شخص نے ”کل شهر بعشرہ دراهم“ کے ساتھ عقد کیا تو یہ عقد تمام مہینوں میں درست ہو جائے گا البتہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے ماہ کے پہلے دن اور پہلی رات عقد فتح کرنے کا اختیار ہو گا کیونکہ چاند دیکھنے کے وقت کی گھنٹی کا اعتبار کرنا حرج میں ڈال دے گا لہذا ایک دن اور رات کا اعتبار ہو گا اور ظاہر الرویہ پر فتویٰ ہے۔ [بجر الرائق: ۸/۳۱، البنایہ: ۱۳/۲۳]

عبارت:

و اجارتها سنہ بکدا و ان لم یسم قسط کل شهر و اول المدة ما سمی و الا فوقت العقد فان كان حين یهل يعتبر الاهلة و الا فلايات كالعدة اى ان كان عقد الاجارة عند الاهلة يعتبر الاهلة و ان كان في اثناء الشهر فعد ابی حنيفة رحمہ اللہ تعالیٰ يعتبر الكل بالایام كل شهر ثلثون يوماً و عندهما يعتبر الاول بالایام و الباقی بالاهلة

فان اجر فی عاشر ذی الحجه سنة فعند ابی حنیفة رحمه اللہ تعالیٰ بقع على ثلث مائة و ستين يوماً و عندهما الشہر الاول يعتبر بالایام و هو ثلثون يوما فذروا الحجه ان تم على ثلثین يوما فالسنة تتم على عاشر ذی الحجه و ان تم على تسعہ و عشرین يوما فالسنة تتم على الحادی العشر من ذی الحجه و الحق ان يتم السنة على عاشر ذی الحجه على کل حال اذا لو تم على حادی عشر يدخل العاشر في تمام السنة فلزم تکرار البعد الاضحی فی سنة و احدة احدهما في اول المدہ و الثاني في اخرها و هل سمعت ان عید الاضحی يتکرار في سنة واحدة .

ترجمہ:

اور گھر کو سال کے لیے اتنی رقم کے بدے کرایے پر لیتا صحیح ہے۔ اگرچہ ہر ماہ کے حصے کو ذکر نہ کیا جائے اور اول مدت وہ ہو گی جو ذکر کر کی جائے ورنہ عقد کا وقت، پھر اگر عقد چاند نکلنے کے وقت ہوا تو چاند نکلنے کا اعتبار کیا جائے گا ورنہ دنوں کا اعتبار ہو گا عدت کی طرح یعنی اگر عقد اجارہ چاند نکلنے کے وقت ہوا تو چاند نکلنے کا اعتبار کیا جائے گا اور اگر مہینے کے درمیان میں عقد ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مدت کا دنوں سے اعتبار کیا جائے گا ہر مہینہ تیس دن کا شمار ہو گا اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے مہینے کا دنوں سے اور باقی مہینوں کا چاند نکلنے سے اعتبار کیا جائے گا لہذا اگر ایک شخص نے دس ذی الحجہ کو ایک سال کے لیے گھر کرایے پر دیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقد تین سو ساٹھ دنوں پر واقع ہو گا اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے مہینے کا دنوں سے اعتبار کیا جائے گا اور وہ تیس دن کا ہو گا پس ذی الحجہ اگر تیس دن پر ختم ہوا تو سال دس ذی الحجہ پر پورا ہو گا اور اگر ذی الحجہ تیس دن پر پورا ہو تو دس ذی الحجہ سال گیارہ ذی الحجہ کو پورا ہو گا اور حق بات یہ ہے کہ سال ہر حال میں دس ذی الحجہ پر پورا ہو گا اس لیے کہ سال اگر گیارہ پر پورا ہوا تو دس ذی الحجہ سال پورا ہونے میں داخل ہو گا۔ لہذا عید الاضحی کا ایک سال میں تکرار ہو جائے گا ایک عید مدت کے شروع میں اور دوسری مدت کے آخر میں اور کیا آپ نے یہ بات سنی ہے کہ عید الاضحی کا ایک سال میں تکرار ہوا ہو۔

ترجمہ:

واجارتها سنتے سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو گھر ایک سال کے لیے کرایے پر دیا اور ہر ماہ کا کرایہ الگ الگ متعین نہیں کیا تو یہ صحیح ہے اب اجارہ کی مدت کی ابتداء اس وقت سے ہو گی جو انہوں نے ذکر کی ہو مثلاً یہ طے ہوا تھا کہ رجب کے ماہ سے ایک سال کے لیے کرایہ پر دوں گا تو اب رجب کا مہینہ اجارہ کی مدت کا ابتدائی مہینہ ہو گا اور اگر انہوں نے اول مدت کا ذکر نہیں کیا تو اپنے اول مدت اس وقت سے شمار ہو گی جس وقت ان کا آپس میں عقد ہو رہا ہے، اب دیکھا جائے گا کہ عقد کی ابتداء چاند نکلنے کے وقت ہوئی ہے یعنی مہینے کے شروع میں ہوئی ہے تو اب اجارہ کی مدت کا اعتبار چاند نکلنے سے کیا جائے گا یعنی اگر ”۲۹“ کا چاند نکلنے ہو تو اجارہ کا مہینہ بھی ”۲۹“ دن کا ہو گا اور اگر ”۳۰“ کا چاند ہو تو اجارہ کا مہینہ بھی ”۳۰“ دن کا ہو گا اور اگر عقد کی ابتداء چاند نکلنے کے پچھے دنوں بعد یعنی مہینے کے درمیان میں ہوئی ہو تو اب اجارہ کی مدت کا اعتبار دنوں سے ہو گا یا چاند کے لحاظ سے مہینوں کے ساتھ ہو گا اس بیکار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجارہ کی تمام مدت کا اعتبار دنوں سے ہو گا اپنے ایک سال میں با رہ مہینے ہوتے ہیں اور ہر ماہ میں تیس دن ہوتے ہیں اس لحاظ سے اجارہ کی پوری مدت تین سو ساٹھ دن ہو گی۔ جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلا مہینہ جس کے درمیان عقد ہوا ہے اس کا اعتبار دنوں سے کیا جائے گا اور ایک مہینہ

تیس دن کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام نہیں کا اختبار چاند کے لحاظ سے ہو گا لہذا اگر عقد دس ذی الحجه کو ہوا اور یہ ذی الحجه تیس دن کا تھا تو اب اجراء کی مدت کا اختتام اگلے سال کی دس ذی الحجه کو ہو گا کیونکہ ذی الحجه کے تیس دن اس وقت پورے ہو گئے۔ تیس دن پچھلے ذی الحجه میں اور دس دن اس ذی الحجه میں اور اگر گز شتر سال کا ذی الحجه انتیس دن کا تھا تو اجراء کی مدت کا اختتام اگلے سال کی گیارہ ذی الحجه کو ہو گا کیونکہ ذی الحجه کے تیس دن پورے کرنے ہیں۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا اشکال:

والحق ان یتم سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اشکال کر رہے ہیں کہ جس ذی الحجه میں عقد ہوا تھا وہ ذی الحجه خواہ انتیس دن کا ہو یا تیس دن کا دو نوں صورتوں میں اگلا سال دس ذی الحجه کو ختم ہو گا اس لیے کہ اگر سال کا اختتام گیارہ ذی الحجه کو ہو تو دوسرا ذی الحجه کی تاریخ بھی سال کے اندر شمار ہو گی اور یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح عید الاضحی (جو دس تاریخ کو ہوتی ہے) کا تکرار لازم آئے گا کہ ایک عید الاضحی اس سال کے شروع میں ہوئی اور دوسرا عید الاضحی اس سال کے آخر میں ہوئی حالانکہ آپ نے بھی ایک سال میں عید الاضحی کا تکرار نہ تھا ہو گا۔ لہذا سال کا اختتام گیارہ ذی الحجه نہیں بلکہ دس ذی الحجه کو ہو گا۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کو جواب:

علامہ شای رحمہ اللہ تعالیٰ نے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشکال کا جواب دیا ہے کہ دس ذی الحجه کی تاریخ کا تکرار اس سال میں لازم آ رہا ہے جو سال اجراء کی مدت متعین کر رہا ہے جہاں تک عرفی سال (جو حرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجه پر ختم ہوتا ہے) کا تعلق ہے تو اس میں دس ذی الحجه کی تاریخ صرف ایک بار آئی ہے اور عرفی سال میں عید الاضحی کا تکرار منوع ہے اور اس سال میں منوع نہیں ہے جس کے ذریعے اجراء کی مدت کی تعین کی گئی۔

عمارت:

واجرة الحمام والحمام والظفر باجر معين وبطعامها وكسوتها هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وعند هما لا يجوز للجهالة وهو القياس وله ان الجهالة لا تفضي الى المبالغة لان العادة التوسيعة على الاظياط شفقة على الاولاد و هو الاستحسان. وللزوج وطيتها الا في البيت المستاجر فان البيت ملكه فيمنعه ايه و له في نكاح ظاهر فسخها ان لم يأذن بها فان القراءة بنكاحه لا ان اى كان النكاح ظاهرا بين الناس او يكون عليه شهود للزوج فسخ الاجارة صيانة لحة اما ان علم النكاح بالقرارها لا و لا هل الصبي فسخها ان مرضت او حبت لان لبنيها يضر بالولد. و عليها غسل الصبي و ثيابه و اصلاح طعامه و دمه لا ثمن شئ منها و هو واجره واجب على ابيه فان ارضعته بلن شاة او غذته بطعمه و مضرت المثلثة فلا اجر. و لم يصح للاذان و الامامة و الحج و تعلم القرآن و الفقه. و الغناء والنوح و الطاعات و لا على المعاشرى لكن لما وقع الفتور في الامور الدينية يفتى بصحتها لتعليم القرآن و الفقه تحرزاً عن الاندراس. ويجب المستاجر على دفع ما قيل و يحبس به و على الحلوة المرسومة الحلوة بفتح الحاء الغير المعجمة هدية تهدى الى المعلمين على رؤس بعض سور القرآن سميت بها لان العادة اهداء الحلواى هي لغة يستعملها اهل ما وراء النهر.

ترجمہ:

اور حمام اور حجام اور دودھ پلانے والی کو اجر میں اور اس کے کھانے اور کپڑے کے بد لے اجارت پر لینا صحیح ہے یہ امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہالت کی وجہ سے یہ ناجائز ہے اور یہ قیاس ہے اور امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ یہ جہالت بھگڑے کی طرف نہیں لے جاتی اس لیے کہ عادت دودھ پلانے والیوں پر وسعت کرنے کی ہے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے اور یہ احسان ہے اور شوہر کے لیے دودھ پلانے والی عورت سے وطی کرنا جائز ہے مگر متاجر کے گھر میں (وطی نہ کرے) کیونکہ گھر اس کی ملکیت ہے پس وہ اس کو اس میں روکے گا اور شوہر کے لیے نکاح ظاہر کی صورت میں اجارت کو فتح کرنا جائز ہے اگر شوہر نے اس کو اجازت نہیں دی اور اگر عورت نے اس کے نکاح کا اقرار کیا تو اجارت فتح نہیں کر سکتا یعنی اگر نکاح لوگوں کے ماہین ظاہر ہے اور اس نکاح پر گواہ ہیں تو شوہر کے لیے اپنے حق کو بچانے کے واسطے اجارت کو فتح کرنا جائز ہے بہر حال اگر نکاح عورت کے اقرار سے معلوم ہو تو فتح نہیں کر سکتا۔

اور بچے والوں کے لیے بھی اجارت فتح کرنا جائز ہے اگر دودھ پلانے والی بیمار ہو گئی یا حاملہ ہو گئی اس لیے کہ اس کا دودھ بچے کے لیے مضر ہے اور دودھ پلانے والی کے ذمے بچے کو نہلا نا اور اس کے کپڑے اور اس کے کھانے اور تیل لگانے کو درست رکھنا ان میں سے کسی شی کا شن واجب نہیں ہے اور یہ اشیاء اور دودھ پلانے والی کی اجرت بچے کے باپ پر واجب ہے پھر اگر اس عورت نے بچے کو بکری کا دودھ پلایا کھانے کی غذادی اور مدت گزر گئی تو اس کے لیے اجرت نہیں ہے اور اذ ان اور امامت اور حج اور تعلیم قرآن اور فقہ اور گانے اور نوحہ اور گانے کے آلات اور زکوڑ چڑھانے کی اجرت لینا صحیح نہیں ہے اور آج کے زمانے میں قرآن اور فقہ کھانے کے اجارت کے صحیح ہونے پر فتوی دیا گیا ہے اور ہمارے نزدیک اصل یہ ہے کہ طاعات اور معاصی پر اجارت ناجائز ہے لیکن جب امور دینیہ میں سنتی واقع ہو گئی تو قرآن اور فقہ کھانے کے اجارت کے صحیح ہونے پر فتوی دیا جائے گا ختم ہو جانے سے بچنے کے لیے اور متاجر کو اس اجرت کے دینے پر جو کہیں کوئی تمی مجبور کیا جائے گا اور اس کے بد لے قید کیا جائے گا اور مروجہ طلوے پر مجبور کیا جائے گا "الخوذة" "حام غیر محبه" کے فتح کے ساتھ ہے وہ ہدیہ ہے جو معلمین کو قرآن کی بعض سورتوں کے انتظام پر دیا جاتا ہے اس کا نام "حلوة" رکھا گیا ہے اس لیے کہ عادت طلوے کو حدیہ کرنے کی تھی یہ وہ لفت ہے جس کو ماوراء الہبہ والے استعمال کرتے ہیں۔

تشریح:

و اجارت الحمام سے مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حمام اور حجام اور دودھ پلانے والی کو اجرت پر لینا جائز ہے ان تینوں کا ذکر مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ نے اجارت فاسدہ میں اس لیے کیا کہ ان میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک ان کا اجارت صحیح نہیں ہے، و بطعمہما و کسوتها سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ دودھ پلانے والی کو کھانے اور کپڑے کے بد لے اجرت پر لینا صحیح ہے یہ امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کا ذہب ہے جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ کھانے اور کپڑے میں جہالت ہے اور جب اجرت میں جہالت ہو تو اجارت فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا اس طرح اجارت کرنا صحیح نہیں ہے۔

امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:

وله ان الجھالة سے شارح رحمہما اللہ تعالیٰ امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل لفظ کر رہے ہیں کہ اس صورت میں جہالت ایسی ہے جو بھگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو اپنی اولاد سے شفقت ہوتی ہے اس لیے وہ دودھ پلانے والی عورت پر

کھانے اور کپڑے کی وسعت کرتے ہیں اور جھگڑے کی نوبت بغل کی وجہ سے آتی ہے پس جب یہ جہالت جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے تو اس جہالت کی وجہ سے عقدِ اجارہ فاسد نہ ہو گا۔

رانج قول:

[بخاری: ۳۸، المباب: ۲/ ۳۸]

رانج قول امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔
و للزوج و طیها سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دودھ پلانے والی عورت کا شوہراس سے ولی کر سکتا ہے اگرچہ شوہرنے اس کو دودھ پلانے کی اجازت دی ہو اور مستاجر اس کو ولی کرنے سے روک نہیں سکتا کہ مبادا حمل نہ شہر جائے اور شوہرا پنے گھر میں ولی کرے گا اور مستاجر کے گھر میں ولی نہیں کرے گا کیونکہ ممکن ہے کہ مستاجر اس کو روک دے اور اگر شوہر اور دودھ پلانے والی عورت کا نکاح ظاہر ہو یعنی لوگوں کے درمیان معروف ہو یا اس کے گواہ موجود ہوں اور شوہرنے بیوی کو دودھ پلانے کی اجازت نہ دی ہو تو شوہراس عقدِ اجارہ کو فتح کر سکتا ہے لیکن اگر نکاح مشہور و معروف نہ ہو بلکہ عورت نے اقرار کیا ہو تو ایسی صورت میں شوہر عقد کو فتح نہیں کر سکتا۔

طاعت پر اجرت لینا:

ولم يصح للاذان سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ طاعات پر اجرت لینا صحیح نہیں ہے اس مسئلے کی بنیاد ایک اصل پر ہے وہ یہ ہے کہ کل طاعة یختص بہا المسلم لا یجوز الاستیجار علیه، (ہر وہ طاعت جو مسلمان کے ساتھ خاص ہے اس پر اجرت لینا ناجائز ہے) لہذا جو طاعت مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کافر بھی اس کو کرتے ہیں تو اس پر اجرت لینا صحیح ہے، جیسے تورات کو سکھنے، سکھانے کی اجرت جائز ہے۔ پس اذان، امامت، حج، تعلیم قرآن، فقه وغیرہ پر اجرت دینا اور لینا صحیح نہیں ہے۔

متاخرین کا مذہب:

لکن لما وقع سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ متاخرین کا مذہب بیان کر رہے ہیں، ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ جب سے دینی امور میں سستی واقع ہو گئی ہے تو تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، ان حضرات نے اہل مدینہ کا قول لیا ہے اور یہ حضرات متقد میں کے مذہب کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں لوگوں میں تعلیم قرآن کی رغبت تھی اور قرآن سکھنے والے بھی بلا کسی شرط کے سکھانے والے کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے لیکن ہمارے زمانے میں دونوں باتیں نہیں ہیں اس لیے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے تاکہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ختم نہ ہو جائے اور بعض مشائخ حرمہم اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کے ساتھ فقہ کی بھی زیادتی کی ہے اور بعض مشائخ حرمہم اللہ تعالیٰ نے اذان اور امامت اور وعظ کی بھی زیادتی کی ہے۔

[الکفاۃ: ۶، الشامی: ۸/ ۴۰، ۶/ ۵۵]

رانج قول:

تعلیم قرآن، فقہ، اذان، امامت پر اجرت لینا صحیح ہے۔ شامی: ۶/ ۵۵، البنایہ: ۱/ ۱۷، بخاری: ۳۳/ ۸/ ۱/ ۱۳] اور اگر آپ اس مسئلے کی منفصل اور مدلل وضاحت چاہتے ہیں تو علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ "شفاء العلیل و بل الغلیل فی حکم الوصیة بالختمات و التھالیل" کا مطالعہ کریں جس میں اس مسئلے کے بارے میں مفید بحوث و فصول ہیں۔ (مجموعہ رسائل اہن عابدین: ۱۵۱)

و یجسر المستاجر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب فتوی اس پر ہے کہ اجرت لینا جائز ہے تو اب مستاجر کو اس بات پر مجبور کیا جاسکتا ہے کہ جو اجرت طے ہوئی تھی اس کو ادا کرے ورنہ مستاجر کو اس اجرت کے بد لے قید کر لیا جائے اور اگر کسی علاقے میں ختم قرآن پر حد یہ دینے کی عادت ہے تو اس کو حد یہ دینے پر مجبور کیا جائے گا اس حد یہ کو طوہ کا نام دیا گیا ہے اس لیے

کہ عام طور پر جلوہ دینے کی عادت تھی اور یہ ماء و راء انہر کی لغت ہے۔

معصیت پر اجرت لینا:

الغناء والنوح سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ معصیت پر اجرت لینے کو بیان کر رہے ہیں معصیت پر اجرت لینے کی تین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم:

پہلی قسم یہ ہے کہ حرام شئی کا ذکر نہ عقد میں ہو اور نہ ہی شرط میں ہو بلکہ مستاجر نے اس سے حرام شئی کا ارتکاب کیا مثلاً ایک شخص نے کرایے پر گھر دے دیا گھر لینے والے نے اس میں رقص و گانا شروع کروادیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں اجرت واجب ہو گی اور یہ فعل حرام ہے اور اس کا گناہ ہو گا۔

دوسری قسم:

دوسری قسم یہ ہے کہ حرام شئی کا ذکر عقد میں نہیں کیا البتہ شرط میں ذکر کر دیا مثلاً ایک شراب فروخت کرنے والے نے کسی مزدور کو اجرت پر لیا تو اب عقد میں حرام شئی کا ذکر نہیں ہے لیکن مزدور کو معلوم ہے کہ یہ مجھ سے شراب اٹھائے گا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اجرت واجب ہو گی اور اس فعل کو چھوڑنا واجب ہے۔ [هذا الكلام ماخوذ من الحاشیة]

تیسرا قسم:

تیسرا قسم یہ ہے کہ حرام شئی کا ذکر عقد میں کیا جائے مثلاً گانے کے لیے یارونے کے لیے عورت کو اجرت پر لیا گیا تو اس کی اجرت لینا ناجائز ہے۔ اگر اجرت لے لی تو اپس کرنا واجب ہے اس لیے کہ عقد اجارہ میں معقود علیہ کو شرعاً حوالے کرنا ضروری ہونا چاہیے اور انسان پر ایسی شئی حوالے کرنا ضروری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ گناہ گار بنتا ہو۔ لہذا گانے اور یارونے کی اجرت لینا صحیح نہیں ہے اور اسی طرح گانے کے آلات مثلاً ڈھول، پانسی، باجے وغیرہ کی اجرت لینا بھی صحیح نہیں ہے البتہ اگر ڈھول کو اعلان جنگ کے لئے یا شادی کے اعلان کے لیے اجرت پر لیا تو صحیح ہے اور اس کی اجرت ادا کرنا واجب ہو گی اور اسی طرح رُجانور کو مادہ سے جفتی کروانے کی اجرت لینا صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کافر مان ہے۔ ”ان من السحت عسب اليتس“ یعنی اس کی اجرت لینا حرام ہے کیونکہ یہ اجرت منی کے مقابلے میں ہو گی اور منی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لہذا اس پر عقد کرنا باطل ہے۔ [الکفاية: ۸/۴۹، بحر الرائق: ۳۵/۸]

غمارت:

ولا اجارة المشاع الا من الشريك هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و قالا يصح اجارة المشاع من الشريك وغيره. ولو دفع الى اخر غزل لا ينسجه بنصفه او استاجر حماراً ليحمل عليه زاداً ببعضه او ثوراً ليطحن برا له ببعض دقیقہ هذا یسمی قفیزا الطحان و قد نهى النبي صلی الله علیہ وسلم عنہ لانه جعل الاجر بعض ما یخرج من عمله والصورتان الاوليان فی معنی قفیزا الطحان او رجل لا یخیز له کذا الیوم بکذا ای اذا استاجر رجل لا یخیز له عشرة امناء الیوم بدرهم فان هذا فاسد عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و عندهما يصح اذا المعقود عليه العمل و ذكر الوقت للتعجیل له انه جمع بين العمل والوقت والاول یوجب کون العمل معقوداً عليه و فيه نفع للمستاجر والثانی یوجب کون تسليم النفس فی هذا الیوم معقوداً عليه و فيه نفع للاجر

فيفضى الى المنازعه ولو كان معقود عليه كليهما اي يعمل هذا العمل مستغرقاً لهذا اليوم فذلك مما لا قدرة عليه لا حد عادة حتى لو قال ليخبر لعشرة امناء في اليوم فعن ابي حنيفة انه يصح لأن كلمة في لا يقتضي الاستغراق.

ترجمه:

اور مشاع شئي کا اجارہ شریک کے ساتھ ہي صحیح ہے، یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشاع کا اجارہ شریک اور غیر شریک کے ساتھ صحیح ہے اور اگر ایک آدمی نے دوسرے کو کاتی ہوئی اون دی تاکہ وہ اس کو اس کے نصف کے بد لئے ہن دے یا گدھے کو اجرت پر لیا تاکہ اس پر سامان لادے کچھ سامان کے بد لے یا بیل کو اجرت پر لیا تاکہ وہ بیل کچھ آٹے کے بد لے متأجر کے لیے گندم پیسے اس کا نام فقیر طحان رکھا جاتا ہے اور آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ متأجر نے اجرت اس شئي کا بعض حصہ بنائی ہے جو اس کے عمل سے نکلے گی اور پہلی دونوں صورتیں فقیر طحان کے معنی میں ہیں یا کسی آدمی کو اجرت پر لیا تاکہ وہ اس کے لیے آج اتنے کے بد لے روٹی پکائے۔ یعنی جب ایک آدمی کو اجرت پر لیا تاکہ وہ اس کے لیے دس من آنا آج کے دن ایک درہم کے بد لے پکائے۔ پس یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاسد ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح ہے اس لیے کہ معقود علیہ عمل ہے اور وقت کا ذکر جلدی کروانے کیلئے ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ اس نے وقت اور عمل کو جمع کر دیا ہے اور پہلا عمل کے معقود علیہ ہونے کو ثابت کر رہا ہے اور اس میں متأجر کا نفع ہے اور دوسرا آج کے دن میں تسلیم نفس کے معقود علیہ ہو۔ زکوٰۃ بت کر رہا ہے اور اس میں اچیر کا نفع ہے، پس یہ جھگڑے کی طرف لے جائے گا اور اگر معقود علیہ دونوں ہوں یعنی وہ یہ کام کرے گا، دراں حاکمه اس دن کو گھیرے ہوئے ہو گا تو یہ ان میں سے ہے جس پر کسی کو عادۃ قدرت نہیں ہے لہذا اگر اس نے کہا ”تاکہ اس کے لیے آج کے دن میں دس من آنا پکائے“ تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ صحیح ہے اس لیے لکھ ”فی“ استغراق کا تقاضہ نہیں کرتا۔

ترجمہ:

ولا اجارة المشاع..... مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ مشاع شئي کے اجارہ کا حکم بیان کر رہے ہیں مشاع شئي کے اجارہ کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شریک دوسرے شریک کو اپنا حصہ اجارہ پر دے دے یہ صورت بالاتفاق صحیح ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں شریک کسی تیرے شخص کو اجارہ پر دے دیں یہ صورت بھی بالاتفاق صحیح ہے اور تیسرا صورت یہ ہے کہ ایک شریک کسی تیرے شخص کو اجارہ پر دے دے تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ صورت ناجائز ہے۔ خواہ وہ شئي تقسیم ہو سکتی ہو یا تقسیم نہ ہو سکتی ہو جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ صورت بھی جائز ہے۔ [هذا ما خود من الحاشية]

راجح قول:

بعض مشاع رحمہم اللہ تعالیٰ نے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو اور بعض مشاع رحمہم اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول ترجیح دی ہے۔ [درستار ۲/۳۸، تقریرات رافی: ۲/۲۶۲، بحر الرائق: ۱/۲۷، الباب: ۲/۳۸، خانیہ: ۲/۳۳۱، هندیہ: ۲/۳۳۸]

ولو دفع الی..... مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تین صورتیں بیان کر رہے ہیں جو ایک اموال پر مبنی ہیں۔

أصول:

اصل یہ ہے کہ اجر کے عمل سے جس شئي کا وجود آئے اس شئي میں سے بعض کو اجرت بنا صحیح نہیں ہے۔

اس کی تین صورتیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کاتا ہوا اون کسی کو دیا تاکہ وہ اس کو بنے اور اس کی اجرت اسی بنے ہوئے کپڑے کا چوتھا حصہ طے کر دی تو یہ ناجائز ہے اور دوسرا صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے گدھا سامان لادنے کے لیے کرایے پر لیا اور اجرت یہ طے کی کہ اس سامان میں سے کچھ دے دوں گا اور تیسرا صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے نیل کرایے پر لیا تاکہ اس کے ذریعے گندم سے آنانکا لے اور اس کی اجرت اس آٹے میں سے طے کر دی جو آٹا لکھے گا تو یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں جوشی عمل سے وجود میں آ رہی ہے اس کو اجرت بنایا گیا ہے، اس تیسرا صورت کو تقیز طحان کا نام دیا گیا ہے اور آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے اور پہلی دونوں صورتیں بھی تقیز طحان کے معنی میں ہیں کہ ان میں بھی اجرت عمل پر موقوف ہے۔

اور رجلاً يغبز له مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک شخص کو روٹی پکانے کے لیے کرایے پر لیا اور اس سے کہا ”اخبر لی عشرۃ امناء الیوم بدرهم“ (کو تیرے لیے آج کے دن دس من (ایک من ۶۸ تو لے اور ۳ ماشے کا ہوتا ہے) آٹا ایک درهم کے بد لے پکادے) تو یہ عقد اجارہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاسد ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح ہے۔

صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:

اذا المعقود سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ یہ عقد جائز ہے اس لیے کہ معقود علیہ عمل ہے جب معقود علیہ عمل ہے تو یہ عقد جائز ہے اور مستاجر نے جو ”الیوم“ کا لفظ ذکر کیا ہے اس سے متفقہ کام جلدی کروانا ہے نہ کہ عقد کو اس سے متعلق کرنا مقصود ہے۔ لہذا اگر وہ نصف دن میں فارغ ہو گیا تو اس کو پوری اجرت ملے گی اور اگر آج فارغ نہ ہو تو آئندہ کل بقیہ روٹی پکا اس کے ذمے لازم ہو گی۔ [العنایہ: ۵۶/۸]

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

لہ انه جمع بين سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ مستاجر نے دواشیاء کو جمع کر دیا ہے ایک شی عمل اور دوسرا شی وقت ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک معقود علیہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لیے کہ عمل کو ذکر کرنا نیا عمل کے معقود علیہ ہونے کو ثابت کر رہا ہے اور اس میں مستاجر کا نفع ہے، وہ اس طرح کہ جب معقود علیہ عمل ہے تو مستاجر پر اجرت اسی وقت واجب ہو گی جب عمل مکمل ہو جائے گا اور اسی طرح وقت کو ذکر کرنا منفعت کے معقود علیہ ہونے کو ثابت کر رہا ہے کہ اجر کے ذمے آج کے دن اپنے آپ کو مستاجر کے حوالے کرنا ہے اور اس میں اجر کا نفع ہے، وہ اس طرح کہ جب منفعت معقود علیہ ہے تو اجر آج کے دن اپنے آپ کو حوالے کر کے اجرت کا مستحق بن جائے گا خواہ وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ لہذا جب دونوں اشیاء معقود علیہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو یہ بات جائز ہے کہ اجر منفعت کو معقود علیہ سمجھتے ہوئے عمل پر اہونے سے پہلی اجرت کا مطالیب کرے اور مستاجر عمل کو معقود علیہ سمجھتے ہوئے اس کو اجرت عمل پر اہونے سے پہلے ادا نہ کرے پس اس طرح دونوں کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ عقد فاسد ہے۔

[العنایہ: ۱۲۳، ۱۰۰/۸، الکفاۃ: ۸]

ولو كان المعقود سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر دونوں اشیاء کو معقود علیہ بحالیا جائے مثلاً اجر دس من آٹا آج کے پورے دن میں پکائے گا تو یہ ایسا عقد جو جائے گا جس پر عام طور سے کوئی ایک قدرت نہیں رکھتا لہذا دونوں کو بھی معقود علیہ نہیں بنا

سکتے۔ البتہ اگر مستاجر نے ”الیوم“ کی بجائے ”فی الیوم“ کہا تو پھر امام حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت کے مطابق یہ عقد صحیح ہو جائے گا کیونکہ کلمہ ”فی“ استغراق کا تقاضہ نہیں کرتا بلکہ ام معقود علیہ عمل ہے خواہ و عمل نصف دن میں کردے یا دو دن میں کرے عمل پورا کرنے کے بعد اجرت کا مستحق ہو گا۔ [البنا یہ: ۱۳/۱۰۱]

عبارت:

او ارضًا بشرط ان يشنيها اي يكربها مرتين ان كان المراد يرده مكروبة فلا شک في فساده فانه شرط لا يقتضيه العقد و فيه نفع لاحد العاقدين و هو الموجر وان لم يكن المراد هذا فان كانت الارض لا تخرج الربع الا بالكراب مرتين لا يفسد العقد لان الشرط مما يقتضيه العقد و ان كانت تخرج بدونه فان كان اثره يبقى بعد انتهاء العقد يفسد اذفيه منفعة رب الارض و ان كان اثره لا يبقى لا يفسد او يكرى انهارها ذكر ان المراد الانهار العظام فان منفعة كريها يبقى بعد انقضاء العقد بخلاف الجد اول او يسرقتها فان منفعته يبقى بعد انقضاء العقد او يزرعها بزراعة ارض اخری فسدت اي استاجر ارضًا ليزرعها ويكون الاجرة ان يزرع الموجر ارضًا اخری هي للمستاجر لا يجوز عندنا و عند الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ يجوز لان المنافع بمنزلة الاعيان عنده و ننا ان الجنس بافراده يحرم النساء عندنا کبیع ثوب هروی بمثله واحدهما نسیة و قوله فسدت جواب الشرط و هو قوله ولو دفع الى اخره.

ترجمہ:

یاز میں ابترت پر دی اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کو دوہرا کرے گا۔ یعنی دو مرتبہ کھینچ کرے گا۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو کھینچ کی ہوئی زمین لوٹائے گا تو اس عقد کے فاسد ہونے میں شک نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضہ نہیں کرتا اور اس میں عاقدين میں سے ایک کا نفع ہے اور وہ موجر ہے اور اگر یہ مراد نہیں ہے پھر اگر زمین ایسی ہے کہ فصل نہیں نکلتی مگر دو مرتبہ کھینچ کرنے سے تو عقد فاسد نہیں ہو گا اس لیے کہ یہ شرط ایسی ہے جس کا عقد تقاضہ کرتا ہے اور اگر فصل اس کے بغیر نکل آتی ہے پھر اگر کھینچ کا اثر عقد کے ختم ہونے کے بعد باقی رہے گا نو عقد فاسد ہو جائے گا اس لیے کہ اس میں زمین والے کا نفع ہے اور اگر اس کا اثر باقی نہیں رہے گا تو عقد فاسد نہ ہو گا۔ یا (اس شرط کے ساتھ) کہ اس زمین کی نہریں کھودے گا یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مراد بڑی نہریں ہیں کیونکہ ان کے کھودنے کی منفعت عقد پورا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے۔ بخلاف چھوٹی نہریں کے ہے یا (اس شرط کے ساتھ کہ) اس میں گورڈلوائے گا کیونکہ اس کی منفعت عقد پورا ہونے کے بعد باقی رہے گی یا (اس شرط کے ساتھ کہ) وہ اس میں کاشت کرے گا دوسری زمین میں کاشت کے بدلتی صورتیں فاسد ہیں یعنی ایک شخص نے زمین اجرت پر لی تاکہ وہ اس کو کاشت کرے اور اجرت یہ ہو گی کہ موجر دوسری زمین کاشت کرے گا جو مستاجر کی ہے تو یہ ہمارے نزدیک ناجائز ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے اس لیے کہ منافع امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعیان کے مرتبہ میں ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ایکی جنس ادھار کو حرام کرتی ہے جیسے ہروی کپڑے کی بیج اسی کے مثل کپڑے کے بدله دراں حاکم ان دونوں میں سے ایک ادھار ہوا اس کا قول ”فسدت“ شرط کا جواب ہے اور وہ شرط اس کا قول ”ولو دفع الى اخره“ ہے۔

تشریح:

او ارضًا بشرط سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ زمین کے اجارہ کے فاسد ہونے کی صورتیں بیان کر رہے ہیں۔

پہلی صورت یہ بیان کی ہے کہ ایک شخص نے زمین اجارہ پر دی اور یہ شرط لگائی کہ متناجر اس کو "مشنیہ" (دوہرا) کرے گا۔ مشنیہ کی مراد میں اختلاف:

"مشنیہ" کرنے سے کیا مراد ہے اس میں مثابخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمین میں دو مرتبہ کھتی کرے گا جیسا کہ اس کی طرف شارح نے "ای یکر بھا مرتین" کے ساتھ اشارہ کیا ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کھتی شدہ زمین کو دوپس کرے گا اس کی طرف شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فان کان المراد سے اشارہ کیا ہے اگر دوسرا معنی مراد ہو تو اس کے فاسد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضہ نہیں کرتا چہ جائیکہ اس کے ساتھ عقد صحیح ہو جائے اور اس شرط میں موجر کا نفع ہے۔ لہذا دوسری تفسیر کے مطابق عقد کے فاسد میں شہہ نہیں ہے البتہ پہلی تفسیر (کہ اس سے مراد دو مرتبہ کھتی کرنا ہے) میں کچھ تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر زمین ایسی ہو کہ ایک مرتبہ کھتی کرنے سے پیداوار دیتی ہو اور اجارہ کی مدت بھی ایک سال ہو تو ایسی صورت میں دو مرتبہ کھتی کرنے کی شرط لگانے سے عقد فاسد ہو جائے گا۔ بشرطیکہ کھتی کرنے کا اثر عقد کے ختم ہونے تک باقی رہے کیونکہ اس میں زمین والے کا نفع ہے اور اگر اثر باقی نہ رہے تو عقد فاسد نہیں ہو گا۔

اور اگر زمین ایسی ہو کہ دو مرتبہ کھتی کرنے سے پیداوار دیتی ہو تو ایسی صورت میں اس شرط سے عقد فاسد نہ ہو گا بلکہ یہ ایسی شرط ہو گی جس کا عقد تقاضہ لرہا ہے اور اسی طرح اگر زمین ایسی ہے کہ ایک مرتبہ کھتی کرنے سے پیداوار دیتی ہے لیکن اجارہ کی مدت تین سال ہے تو بھی اس شرط کے لگانے سے عقد فاسد نہ ہو گا۔ یہی مطلب شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت "ای یکر بھا مرتین" سے و ان کان اثرہ لا یقی لا یفسد کا ہے۔ و فی عبارة الشارح رحمہ اللہ تعالیٰ ای یکر بھا مرتین فان کان المراد یہ دھا مکروہ اشکال و هو یظہر علی من تامل فی کتب الفقه والله اعلم.

دوسری صورت او یکری انہارہا سے بیان کی ہے کہ زمین اس شرط کے ساتھ اجارہ پر دی کہ متناجر اس میں نہیں کھو دے گا تو اس شرط کی وجہ سے عقد فاسد ہو جائے گا ب اب ان نہروں سے کون سی نہیں مراد ہیں اس میں اختلاف ہے بعض نے فرمایا ہے کہ چھوٹی اور بڑی دونوں نہیں اس میں داخل ہیں لیکن بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد صرف بڑی نہیں ہیں کیونکہ بڑی نہروں کی منفعت عقد پورا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی جہاں تک چھوٹی نہروں کا تعلق ہے وہ اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ان کی منفعت عقد پورا ہونے کے بعد باقی نہیں رہتی لہذا چھوٹی نہروں کی شرط لگانے سے عقد فاسد نہ ہو گا اور یہی قول صحیح ہے۔ [شامی، ۲۰/۶، بحر الرائق: ۳۳/۸]

تیسرا صورت او یسرقہا سے بیان کی ہے کہ زمین اس شرط کے ساتھ اجارے پر دی کہ متناجر اس میں گو بڑا لے گا تو یہ عقد فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس شرط میں موجر کا نفع ہے اس لیے کہ گو بڑا اثر زمین میں عقد کے بعد بھی باقی رہے گا۔

او یزوعها سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی سے زمین اجرت پر لی تاکہ وہ اس زمین کو کاشت کرے اور موجر کو اجرت میں اپنی زمین دے دے تاکہ وہ اس کو کاشت کرے تو یہ صورت ہمارے نزدیک ناجائز ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ صورت جائز ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

لان المنافع سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منافع اعیان کے مرتبے میں ہیں لہذا جس طرز ایک عین کو دوسری عین کے بد لے اجارہ پر لینا صحیح ہے اسی طرح منافع کو بھی ایک دوسرے

بدلے اجارے پر لینا صحیح ہے۔
احناف کی دلیل:

لنا ان النجس سے احناف حکمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ جب داشیاء کی جس ایک ہوتا ایک شی کو دوسرا کے بدلے ادھار فروخت کرنا ناجائز ہوتا ہے جس طرح "ھرودی" کپڑے کو ھرودی کپڑے کے بدلے ادھار فروخت کرنا منوع ہے، اسی طرح جب زمین کی جس ایک ہے تو ایک زمین کو دوسرا کے بدلے اجارہ پر دنیا منوع ہے۔

عبارت:

بخلاف استيجارها على ان يكر بها او يزرعها او يسقيها او يزرعها فانه يصح لان هذا شرط يقتضيه العقد.
فإن لم يذكر زراعتها او ما يزرع فيها او لم يصح ان لم يعمد بان قال ازرع فيها ما شئت و هذا بخلاف الدار فان استيجارها تقع على السكنى على ما مر فان زرعها و مضى الاجل عاد صحيحاً و هو الاستحسان ووجهه ان الجهة الة ارتفعت قبل تمام العقد و عند محمد رحمة الله تعالى لا يعود صحيحاً و هو القياس و من استاجر جملأ الى مصر و لم يسم حمله و حمله المعتاد فتفق لم يضمن لان الاجارة فاسدة فالعين امانة كما في الصحيحه و ان بلغ فعله المسمى اى استحساناً كما ذكرنا في مسألة الزراعة فان خاصماً قبل الزرع او العمل نقض عقد الاجارة اى ان خاصماً المستعاقد ان قبل الزرع في مسألة اجارة الارض بلا ذكر الزرع و قبل العمل في هذه المسألة ينقض القاضي العقد.

ترجمہ:

برخلاف زمین کو اجارہ پر لینا اس شرط کے ساتھ کہ مستاجر اس کو گھٹتی کرے گا اور اس نیں بچ ڈالے گا یا اس شرط پر کرہے اس کو سیراب کرے گا یا اس میں بچ ڈالے گا کیونکہ یہ صحیح ہے اس لیے کہ یہ ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضہ کرتا ہے پھر اگر اس نے زمین کی زراعت کایا جو شی اس میں بونے گا اس کا ذکر نہیں کیا تو یہ صحیح نہیں ہے اگر اس کو عام نہیں کیا اس طور پر کہ وہ یوں کہہ تو اس میں جو چاہے کاشت کر لے اور یہ گھر کے برخلاف ہے کیونکہ گھر کو اجرت پر لینا ہے پر شمار ہوتا ہے اس بناء پر جو گز رچا پھر اگر اس نے زمین کو بولیا اور مدت گزر گئی تو عقد صحیح ہو کر لوٹ آئے گا اور یہ احسان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت عقد پورا ہونے سے قبل مرفق ہو گئی ہے اور امام محمد رحمة اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقد صحیح ہو کرنہیں لوٹے گا اور یہ قیاس ہے اور جس نے اونٹ کو اجرت پر ایک شہر لے جانے تک لیا اور اس کے بوجھ کو ذکر نہیں کیا اور مقادشی اس پر لادی پھر وہ ہلاک ہو گیا تو یہ ضامن نہ ہو گا اس لیے کہ اجارہ فاسد ہے، پس عین امانت ہے جیسا کہ اجارہ صحیح میں امانت ہوتی ہے اور اگر وہ اس شہر تک بچنے گیا تو اونٹ والے کو اجرت مسکی ملے گی یعنی احسانا جیسا کہ ہم نے زراعت کے مسئلے میں ذکر کیا ہے پھر اگر وہ دونوں کیمیتی یا بوجھ اٹھانے سے قبل جھگڑا پڑے تو عقد اجارہ ختم ہو جائے گا یعنی دونوں عاقدین کھٹتی سے قبل جھگڑا پڑے زمین کو گھٹتی کا ذکر کیے بغیر اجارہ پر لینے کے مسئلے میں اور اس مسئلے میں بوجھ اٹھانے سے قبل جھگڑا پڑے تو قاضی عقد توڑ دے گا۔

ترشیح:

بخلاف استيجارها سے مصنف رحمة اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے زمین اجرت پر لی اور یہ شرط لگائی کہ مستاجر اس میں کھٹتی کرے گا اور بچ ڈالے گا یا یہ شرط لگائی کہ مستاجر اس کو بانی ڈے گا یا اس میں بچ ڈالے گا تو اس شرط کی وجہ سے عقد فاسد

نہ ہوگا بلکہ عقد جائز ہوگا اس لیے کہ عقد مقصود راعت ہے اور راعت ان ذکورہ اشیاء سے حاصل ہوگی لہذا یہ ایسی شرط ہے کہ عقد اس کا تقاضا کرتا ہے۔

فان لم يذکر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے زمین اجارہ پر لی اور یہ ذکر نہیں کیا کہ اس میں فصل کاشت کرے گایا کوئی دوسرا کام کرے گایا یہ بات تو ذکر کر دی کہ اس میں فصل کاشت کرے گا لیکن اس فصل کی قسم کو ذکر نہیں کیا تو عقد صحیح نہ ہوگا کیونکہ معقول علیہ دونوں صورتوں میں مجہول ہے اس لیے کہ زمین پر راعت بھی کی جاتی ہے اور عمارت وغیرہ بھی بنائی جاتی ہے اور اسی طرح فصلوں کی بھی اقسام ہیں کچھ فصلیں زمین کو نقصان دیتی ہیں اور کچھ نقصان نہیں دیتی۔ پس جب معقول علیہ مجہول ہے تو اس وجہ سے عقد فاسد ہو جائے گا البتہ اگر موجر نے تعیم کر دی مثلاً یوں کہا کہ ”ازرع فیها ماشت“ تو اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جائے گا زمین کے اجارہ کی صورت گھر کے اجارہ کے برخلاف ہے کیونکہ اگر گھر مطلقاً اجارہ پر لیا تو یہ بھی صحیح ہے کیونکہ گھر کا اجارہ فقط رہنے پر واقع ہوتا ہے۔

فان زرعها اس عبارت کا تلقین ماقبل سے ہے کہ اگر زمین میں کاشت کی جانے والی فصل کی تعیین نہیں کی تو یہ اجارہ فاسد ہے البتہ اگر اس نے زمین میں فصل کاشت کر لی اور مقررہ مدت گزر گئی تو اب موجر کو طے شدہ اجرت ملے گی لہذا یہ فاسد عقد صحیح ہو جائے گا اور یہ احسان ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ معقول علیہ میں جو جہالت تھی وہ جہالت عقد کے پورا ہونے سے پہلے فصل کاشت کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ پس یہ عقد جائز ہو گیا و عند محمد سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عقد صحیح نہ ہوگا اس لیے کہ عقد جس وقت فاسد ہو گیا تو وہ صحیح نہ ہوگا لہذا اجرش واجب ہو گی۔ دوسری کتب فقہ میں اس کو امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کا نامہ بہب بیان کیا گیا ہے۔

[البنا یہ ۱۳/۱۰۸]



باب من الاجارة

عبارات:

الاجير المشترک يستحق الاجر بالعمل فله ان يعمل للعامة انما ادخل الفاء في قوله فله لأن هذا مبني على ما سبق لأن الواجب عليه ان يعمل هذا العمل من غير ان يصير منافع الاجير للمستأجر فسمى بهذا اى بالاجير المشترک كالصبا و نحوه . ولا يضمن ما هلك في يده و ان شرط عليه الضمان و به يفتى اعلم ان المتعاقب في يده امانة عند ابی حنیفة رحمة الله تعالى فلا يضمن الا بالتعدي كما في الوديعة و عندهما يضمن الا اذا هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف انه و الحرق الغالب اما اذا سرق و الحال انه لم يقصر في المحافظة يضمن عندهما كما في الوديعة التي يكون باجر فان الحفظ مستحق عليه و ابو حنیفة رحمة الله تعالى يقول الاجر في مقابلة العمل دون الحفظ فصار كاللوديعة بلا اجر اما ان شرط الضمان فعند بعض المشايخ رحمة الله تعالى انه يضمن عند ابی حنیفة رحمة الله تعالى و عند البعض انه لا يضمن و في المتن اختيار هذا لأن شرط الضمان في الوديعة باطل لكن يمكن ان يقال اذا شرط الضمان هنا صار كان الاجرة في مقابلة العمل و الحفظ جميعاً ففارق الوديعة التي لا اجر فيها . بل ماتلف بعمله كدق القصار و نحوه كزرق الحمال و شد المکاری و مد الملاح و هذا عندنا و عند زفر رحمة الله تعالى و الشافعی رحمة الله تعالى لا يضمن لانه يعمل باذن المالک ولنا ان المأمور به العمل الصالح اقول ينبغي ان يكون المراد بقوله ماتلف بعمله عملاً جاوز فيه القدر المعتمد على ما يأتي في الحجام او عملاً لا يعتاد فيه المقدار المعلوم.

ترجمة:

اجير مشترک عمل کی وجہ سے اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے چنانچہ اس کے لیے جائز ہے کہ سب کے لیے کام کرے، سوائے اس کے نہیں کہ مصنف رحمة الله تعالى نے اپنے قول ”فله“ میں فاء داخل کی اس لیے کہ اس کی بنیاد ماسبق پر ہے کیونکہ اس پر واجب ہے کہ وہ یہ کام کرے علاوہ ازیں اس کے کہ اجیر کے منافع متاجر کے مملوک ہوں پس اس کے ساتھ یعنی اجیر مشترک کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے جیسا کہ رنگ ساز اور اس جیسے دوسرے اجیر اور اجیر اس شئی کا ضمن نہ ہو گا جو اس کے پاس ہلاک ہو گئی اگرچہ اس پر ضمان کی شرط رکھی گئی ہو اور اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے تو جان لے کہ امام ابوحنیفة رحمة الله تعالى کے نزدیک سامان اجیر مشترک کے قبضے میں امانت ہوتا ہے لہذا تعدي کی وجہ سے ہی ضامن ہو گا جیسا کہ ودیعت کی صورت میں ہوتا ہے اور صاحبین رحمة الله تعالى کے نزدیک اجیر مشترک ضامن ہو گا مگر جس وقت سامان ایسے سبب سے ہلاک ہوا ہو کہ اس سے پچنانہ ممکن نہ ہو جیسے اپنی موت مر جانا اور اکثر کا جل جانا بہر حال جب سامان چوری کر لیا گیا حالاں کہ اس نے حفاظت کرنے میں کی نہیں کی تو صاحبین رحمة الله تعالى کے نزدیک ضامن ہو گا جیسا کہ اس ودیعت میں جو اجرت

کے بد لے رکھوائی گئی ہو کیونکہ حفاظت اس پر ضروری ہوتی ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجرت عمل کے مقابل ہوتی ہے حفاظت کے مقابل نہیں ہوتی پس یہ بلا اجرت و دیعت کی طرح ہے، بہر حال اگر ضامن کی شرط لگائی گئی تو بعض مشانخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن ہو گا اور بعض کے نزدیک ضامن نہ ہو گا اور ”متن“ میں اسی کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اس لیے کہ و دیعت میں ضامن کی شرط لگانا باطل ہے لیکن ممکن ہے کہ یوں کہا جائے جب ضامن کی شرط بے یہاں لگائی گئی ہے تو یہ ایسے ہو گیا گویا اجرت عمل اور حفاظت تمام کے مقابل ہے پس وہ و دیعت جس میں اجرت نہیں ہے وہ جدا ہو گئی بلکہ اس شئی کا ضامن ہو گا جو اس کے عمل سے ضائع ہو جائے گا۔ جیسے دھوپی کا کپڑے کو کوٹنا وغیرہ جیسے مزدور کا پھسل جانا اور کرانے پر دینے والے کا سخت باندھنا اور ملاح کا کھینچنا اور یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن نہ ہو گا اس لیے کہ وہ مالک کی اجازت سے کام کر رہا ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مامور بہ عمل صارع ہے، میں کہتا ہوں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”ما تلف بعمله“ سے مراد ایسا عمل ہے جس میں وہ قدر معتاد سے تجاوز کر جائے اس بناء پر جو حجامت کی صورت میں آ رہا ہے یا ایسا عمل ہے جس میں مقدارِ معلوم معتاد نہ ہو۔

تشریح:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اجرہ صحیح اور اجرہ فاسدہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد ضامن کے احکامات کا بیان شروع کر رہے ہیں۔
پہلے یہ بات بطور تمہید جان لینی چاہیے کہ اجير کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اجير مشترک۔ (۲) اجير خاص

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اجير مشترک کا حکم بیان کیا ہے اس کے بعد اجير خاص کا حکم بیان کریں گے۔

اجير مشترک کی تعریف:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اجير مشترک کی تعریف بیان نہیں کی اس کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی ایک شخص کا اجير نہ ہو بلکہ وہ ہر کسی کا کام کرتا ہو مثلاً دھوپی، درزی وغیرہ یہ کسی فرد کا ملازم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کام اجرت لے کر کرتا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اجير کام کر کے اجرت کا مستحق ہو گا۔ مطلق تسلیم نفس سے اجرت کا مستحق نہیں ہو گا۔

انما ادخل سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتارہے ہیں کہ ”فلہ ان یعمل للعامة“ میں فاء تقریبہ ہے کیوں کہ اس سے ما قبل میں یہ بات ہے کہ اجير مشترک عمل کی وجہ سے اجرت کا مستحق ہو گا جب وہ عمل کی وجہ سے اجرت کا مستحق ہو گا تو اس کا عمل کسی فرد کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ وہ تمام لوگوں کے لیے کام کر سکتا ہے اس کا نام اجير مشترک رکھا گیا ہے۔

و لا يضمن ما هلك سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اجير مشترک کے پاس موجود سامان کا حکم بیان کر رہے ہیں جو اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے کہ آیا وہ اس کا ضامن ہو گا یا نہ ہو گا اس بارے میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہب:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجير مشترک کا معقول علیہ پر قبضہ امانت کے قبضے کی طرح ہے جس طرح امین کے قبضہ میں امانت بلا تعدی ہلاک ہو جائے تو اس کا ضامن نہیں آتا اسی طرح اجير مشترک کے قبضہ میں اگر معقول علیہ بلا تعدی ہلاک ہو جائے تو اس پر بھی تاو اس نہیں آئے گا۔

صاحبین رحیمہما اللہ تعالیٰ کا مذہب:

حضرات صاحبین رحیمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجیر مشترک کا معقول علیہ پر قبضہ ضمان کا قبضہ ہوتا ہے اور اجیر مشترک اپنے قبضہ میں ہلاک ہونے والی شئی کا ضامن ہوتا ہے اگرچہ بلا تعدی اور حفاظت میں کوتا ہی کے بغیر ہی وہ شئی ہلاک ہوئی ہو۔ ہاں البته اگر وہ شئی ایسے سب سے ہلاک ہو جائے جس سے بچان ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اجیر مشترک اس شئی کا ضامن نہ ہو گا۔ جیسے وہ اپنی موت مرگی اگر جاندار شئی ہو۔

راجح قول:

پونکہ آج کل فساد اور نفسلی خواہشات کی کثرت ہے اس لیے لوگوں کے اموال کی حفاظت کی خاطر مثاثع رحیمہما اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحیمہما اللہ تعالیٰ کے قول پر فتویٰ دیا ہے کہ اجیر مشترک معقول علیہ کا ضامن ہو گا۔

[شای: ۶/۲۵، بحر الرائق: ۲۸/۸، جدید معاشر نظام میں اسلامی قانون اجارة: ۸۸]

اما اذا سرق سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اجیر مشترک نے شئی کو محفوظ مقام پر رکھا اور اس کی حفاظت میں کمی نہیں کی اس کے باوجود وہ چوری ہو گئی تو اب صاحبین رحیمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ضامن ہو گا ان حضرات نے اس صورت کو اس پر قیاس کیا ہے کہ جب ایک شخص کے پاس دلیعت رکھوائی جائے اور وہ اس کی حفاظت کی اجرت لیتا ہو اور وہ دلیعت چوری ہو جائے تو دلیعت ہلاک ہونے کی صورت میں اس کا تادان ادا کرنا پڑتا ہے اسی طرح یہ اجیر مشترک بھی ضامن ہو گا اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن نہ ہو گا وہ فرماتے ہیں کہ اجیر کو جو اجرت مل رہی ہے وہ اس کے عمل کی وجہ سے مل رہی ہے حفاظت کی وجہ سے نہیں مل رہی چنانچہ جب حفاظت پر اجرت نہیں مل رہی تو یہ شئی اس دلیعت کی طرح ہو گئی جس پر اجرت نہ ملتی ہو تو جیسے اس دلیعت کے ہلاک ہونے کی صورت میں ضامن نہیں ہے اسی طرح اجیر مشترک پر بھی ضامن نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو قول کا اختیار کیا ہے۔

[بہشت زیور: حصہ ۵]

مندرجہ بالا جو امام صاحب کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ جو شئی اجیر مشترک کے قبضے میں ہو اس کے ہلاک ہونے سے اجیر مشترک ضامن نہ ہو گا اب اگر کسی نے اجیر مشترک کو شئی دیتے ہوئے کہا کہ ہلاک ہونے کی صورت میں تم پر ضمان ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں مشائن رحیمہما اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے بعض مشائن نے فرمایا ہے کہ اگر ضمان کی شرط لگائی ہو تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن ہو گا اور بعض مشائن رحیمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن کی شرط لگانے کے باوجود ضامن نہ ہو گا اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے کیونکہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شئی اجیر مشترک کے پاس امانت ہے اور امانت میں ضمان کی شرط لگانا باطل ہے۔ لہذا اس شرط کا اعتبار نہیں ہے۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا اعتراض:

ما قبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب اجیر مشترک کے قبضے سے شئی چوری ہو گئی تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شئی اس دلیعت کی طرح تھی جو بل اجرت ہو تو اب شارح رحمہ اللہ تعالیٰ لکن یمکن ان سے اسی پر اشکال کر رہے ہیں کہ جب ضمان کی شرط لگادی گئی تو اب اجرت عمل اور حفاظت دونوں کے مقابل ہو گئی جب اجرت دونوں کے مقابل ہو گئی تو یہ اس دلیعت سے الگ ہو گئی جس میں اجرت نہ ہو بلکہ اجرت والی دلیعت کے مقابل ہو گئی لہذا اب وہ شئی اس دلیعت کی طرح ہے جو اجرت کے مقابل ہو۔

نوث:

بندہ کی ناقص فہم کے مطابق (عصمہ اللہ عن الخسائ) جب صحیح مذہب کے مطابق خنان کی شرط لگانا ہی باطل ہے تو کس طرح اجرت عمل اور حفاظت دونوں کے مقابل ہو گی بلکہ اجرت صرف عمل کے مقابل ہے اور یہ شیء اس دعیت کی طرح ہے جو بلا جرت کے ہو۔
(واللہ عالم)

بل ماتفاق سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اجیر مشترک اس شیء کا ضامن ہو گا جو شیء اس کے عمل سے ہلاک ہوئی ہو جیسے دھوپی کے کوئے سے کپڑا پھٹ کیا یا مزدور کا پاؤں بھٹلنے سے سامان گر گیا یا سامان کو جس رتی سے باندھا تھا وہ رتی نوث گئی یا ملاح نے کشی کو سمجھا وہ غرق ہو گئی تو ان صورتوں میں اجیر مشترک پر خنان ہے اور یہ ہمارا مذہب ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجیر مشترک ضامن نہ ہو گا اس لیے کہ وہ مالک کی اجازت سے کام کر رہا ہے اور اجازت کے تحت درست اور عیب دار دونوں طرح کے کام داخل ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اجیر مشترک کو عمل صالح کا حکم دیا گیا ہے اور عمل غیر صالح ہے۔ لہذا یہ حکم کے تحت داخل نہیں ہے جب یہ حکم کے تحت داخل نہیں ہے تو اس کو کرنے سے اجیر مشترک ضامن ہو گا۔

ضامن کی شرائط:

جو شیء اجیر مشترک کے عمل سے ہلاک ہو جائے اجیر مشترک اس کا ضامن تین شرائط کے بعد بنے گا۔

(۱) اپنی شرط یہ ہے کہ اجیر مشترک کی قدرت میں اس فساد کو دور کرنا ہو لہذا اگر اس کی قدرت میں نہ ہو تو وہ ضامن نہ ہو گا جیسے کشتی مسند روی موجودوں سے ذوب گئی۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کے محل میں اجیر مشترک تھا ہو سامان کا مالک یا اس کا دکیل موجود نہ ہو ورنہ ضامن نہ ہو گا، جیسے کشتی میں مالک یا اس کا دکیل موجود ہو تو اجیر مشترک پر خنان نہیں ہے۔

(۳) تیسرا شرط یہ ہے کہ مضمون شیء ان میں سے ہو جن کا عقد کے ذریعے ضامن بن جاسکتا ہو۔ [بخارا نق: ۳۹/۸]

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے:

الفول یعنی سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ماتلف بعملہ میں عمل سے مراد یا عمل ہے جس میں اجیر مشترک مقدار معتاد سے تجاوز کر جائے یا پھر ایسا عمل مراد ہے جس میں مقدار معلوم معتاد نہ ہو لہذا اگر عمل معتاد سے شیء ہلاک ہو جائے تو اجیر مشترک اس کا ضامن نہ ہو گا۔

نوث:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر ”رمثا“ اور ”شامی“ کلام کیا گیا ہے، یہاں طوالت کی وجہ سے ذکر نہیں کیا جا رہا۔

[من شاء لله طالع ثمه، شامی ۶/۲۸]

عبارت:

و لا يضمن به ادميأ غرق في السفينة او سقط من دابة اي ادميأ غرق بسبب مدا السفينة او سقط من الدابة بسبب شد المكاري لأن الأدمي غير مضمون بالعقد بل بالجنائية و لهذا يجب على العاقلة الضمان و ضمان العقود لا يتحمله العاقلة و لا حجام او بزاغ او فصاد لم تتجاوز المعتاد. فان انكسر دن في طريق الفرات ضمن

الحمل قيمته في مكان حمله بلا اجر او في موضع كسره مع حصة اجره لانه لما اوجب الضمان فله وجهان احدهما ان يجعل فعله تعديا من الابتداء فان الحمل شئ واحد او يجعل الاول باذنه ثم صار تعديا عند الكسر فيختار ايا شاء.

ترجمة:

اور اجير مشترک عمل کی وجہ سے اس آدمی کا ضامن نہ ہو گا جو کشتی میں غرق ہو گیا یا جانور سے گر گیا یعنی وہ آدمی جو کشتی کے کھینچنے کے سبب سے غرق ہو گیا یا مکاری (کرائے پر دینے والا) کے سخت باندھنے کے سبب سے جانور سے گر گیا اس لیے کہ آدمی عقد کی وجہ سے مضمون نہیں ہوتا بلکہ جنایت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس وجہ سے عاقلہ پر ضمان واجب ہوتی ہے اور عقد کی ضمان کو عاقلہ برداشت نہیں کرتا اور وہ جام (پچھنا لگانے والا) اور بزار (نشتر لگانے والا) اور فصاد (رگ کھولنے والا) جو مقدارِ معتاد سے تجاوز نہ کریں وہ ضامن نہ ہوں گے اور اگر "فرات" کے راستے میں مٹکا ٹوٹ گیا تو مزدور بلا اجرت کے اس کے اٹھانے کی جگہ میں جو قیمت تھی اس کا ضامن ہو گا اس لیے کہ جب ضمان ثابت ہو گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں ان دونوں میں سے ایک یہ ہے اس کے فعل کو ابتداء سے ہی تعدی بنایا جائے کیونکہ بوجہ اٹھانا ایک شئی ہے یا پہلا اس کی اجازت سے بنایا جائے پھر وہ ٹوٹنے کے وقت تعدی بن گیا۔ پس وہ جس کو چاہے اختیار کر لے۔

تشریح:

ولا يضم..... من مصنف رحمه اللہ تعالیٰ یہ بتارہ ہے ہیں کہ اگر کشتی میں انسان سوار تھا اور ملاح کے کشتی کھینچنے کے سبب سے وہ کشتی غرق ہو گئی اور وہ انسان ذوب گیا یا پھر جانور پر آدمی سوار تھا کہ جانور والے نے اس کی رسی کو سخت کھینچا جس سے آدمی جانور سے گر کر مر گیا تو ان دونوں صورتوں میں اجير مشترک انسان کا ضامن نہ ہو گا کیونکہ انسان کی ضمان اس وقت لازم ہوتی ہے جب جنایت کی جائے اور اس صورت میں جنایت نہیں پائی گئی بلکہ عقدہ ہوا تھا اور عقد کی وجہ سے انسان کی ضمان نہیں آتی، اسی وجہ سے کہ انسان کی ضمان جنایت کی وجہ سے آتی ہے جانی کا قبیلہ اس کا تاو ان بھرتا ہے اور جہاں تک عقد کی ضمان کا تعلق ہے تو وہ صرف عاقد پر لازم ہوتا ہے اور قبیلے پر لازم نہیں ہوتا۔

فان انکسر دن من مصنف رحمه اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے مزدور کو مٹکا اٹھانے کے لیے اجارہ پر لیا اس اجير سے فرات کے راستے میں مٹکا گر کر ٹوٹ گیا تو اب مزدور مٹکے کا ضامن ہو گا اور اس کو ضمان ادا کرنے کے طریقے میں خیار ہو گا چاہے تو اجرت لے لے اور جس جگہ مٹکا ٹوٹا ہے اس کے لحاظ سے قیمت ادا کر دے اور اگر چاہے تو اجرت نہ لے اور جہاں سے مٹکا اٹھایا تھا اس کے مطابق قیمت دے دے بہر حال اس مٹکے کا ضامن تو اس وجہ سے ہے کہ وہ مٹکا اس کے عمل سے ضائع ہوا ہے اور اس کو ایسا کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو مفسدہ نہ ہو تو جب اس نے مفسدہ کام کر دیا تو یہ اس کے حکم کے تحت داخل نہیں ہے لہذا یہ اس کا ضامن ہو گا بہر حال اس کو خیار دوسرے اس لیے ملے گا کہ حمل (بوجہ اٹھانا) ایک شئی ہے لہذا تعدی ابتداء سے ہی واقع ہوئی ہے جب تعدی ابتداء سے واقع ہوئی ہے تو اس کو خیار ہے کہ جس جگہ مٹکا اٹھایا تھا وہاں اس کی ختنی قیمت تھی وہ ادا کر دے اور اجرت نہ لے اور دوسرا خیار اس لیے ملے گا کہ حمل کی ابتدأ چوکہ متناجر کے حکم سے ہوئی ہے اس لیے وہ اس میں تعدی کرنے والا نہیں ہے لیکن جب مٹکا ٹوٹا تو اس وقت اس میں تعدی کرنے والا ہو گیا تو اب اس کو خیار ہے کہ جس جگہ مٹکا ٹوٹا ہے وہاں کے مطابق قیمت ادا کر دے اور اپنی اجرت بھی اسی حساب سے لے لے۔ [بحر الرائق: ۱۵۱/۸]

فائدہ:

یہ جو کہا گیا ہے کہ مزدور پر ضمان لازم ہو گی یہ ضمان کا نزدوم اس صورت میں ہے جب اس نے جنایت کی ہو اور اگر کسی ایسے امر کی وجہ

سے ملکاٹوں جس امر سے پچنا ممکن تھا تو اس پر ضمان نہیں آئے گی۔

مصطف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”طريق“ (راستے) کی قید لگائی ہے۔ لہذا اگر متاجر کے گھر کے پاس پتیخ کر ملکاٹوں کیا تو اس پر ضمان نہیں ہے اور مزدور کو اجرت ملے گی۔

امام سنانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرات کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ فرات کے قریب ملکے فروخت ہوتے تھے۔

[النباۃ / ۱۲ / ۷۶]، بحر الرائق: ۵۱/۸]

عبارت:

و الاجیر الخاص يستحق الاجر بتسلیم نفسه مدهه و ان لم يعمل كالاجير للخدمة سنة او لرعى الغنم و يسمى اجيراً واحداً لانه لا يعمل لغيره. و لا يضمن ما تلف في يده او بعمله. و صح تردید الاجرة بالتردید في خياطة الثوب فارسيا او روميا و صبغه بعصر او زعفران و في اسكان البيت عطاراً او حداداً و في حمل الدابة الى الكوفة او واسط و في هذه الدار او هذه وفي حمل كبر او شعير عليها و يجب اجر ما وجد اى قيل ان خطته فارسياً بقدرهم ان خطته روميا بقدرهم و اجرتك هذه الدار شهرابدرهم او هذه الدار شهرابدرهمين و هكذا اذا كان في ثلاثة اشياء و في اربعة اشياء لا كما في البيع غير انه يشترط خيار التعيين في البيع دون الاجارة لان في الاجارة تجب الاجرة بالعمل و عند العمل يتعين بخلاف البيع فان الشمن يجب بنفس العقد و المبيع معهول و ذكر في الهدایة في مسألة العطار و الحداد و كر البر و العشير خلاف ابی يوسف و محمد رحمهما الله تعالیٰ و في الدابة الى کوفة او واسط احتمال الخلاف و مسألة الخياط و الصبغ متفق عليهما.

ترجمہ:

اور اجیر خاص اپنے آپ کو سپرد کرنے سے اجرت کا مستحق ہو گا اگرچہ وہ کام نہ کرے جیسے ایک سال خدمت کے لیے اجر لینا یا کم کریاں چرانے کے لیے اجیر لینا اور اس کا نام اجیر واحد رکھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ غیر کے لیے کام نہیں کرتا اور وہ اس شئی کا ضامن نہ ہو گا جو اس کے قبضے میں یا عمل سے ضائع ہوئی ہو اور کپڑے کی فارسی یا رومی میں سینے کی تردید کے ساتھ اجرت کی تردید کرنا صحیح ہے یا کپڑے کو عصر یا زعفران کے رنگ کی تردید کے ساتھ یا گھر میں عطار (خوشبو والا) یا حداد (لوہار) کو ٹھہرانے کی تردید کے ساتھ یا جانور کے کوفہ یا واسط تک بوجہ اٹھانے کی تردید کے ساتھ اور اس گھر میں یا اس میں اور جانور پر گندم یا ہو کے گراٹھانے کی تردید اور اس شئی کی اجرت واجب ہو گی جو پایا گیا یعنی کہا گیا اگر تو نے اس کو فارسی سلانی کیا تو ایک درہم اور اگر رومی سلانی کیا تو دو درہم کے بدے اور میں نے تجھے یہ کہ ایک ماہ پر ایک درہم کے بدے اجرت پر دیا اور یہ گھر ایک ماہ کے لیے دو درہم کے بدے دیا اور اسی طرح جب تین اشیاء کے درمیان ہو اور چار اشیاء کے درمیان صحیح نہیں ہے جیسا کہ بیج میں ہوتا ہے علاوہ ازیں کہ خیارات میں کی بیج میں شرط ہوتی ہے نہ کہ اجارہ میں اس لیے کہ اجارہ میں اجرت عمل سے واجب ہوتی ہے اور عمل کے وقت متعین ہوتی ہے۔ برخلاف بیج کے ہے کیونکہ شمن نفس عقد سے واجب ہوتا ہے اور بیج مجہول ہے اور ہدایہ میں عطار اور حداد اور گندم اور جو کے گرے مسئلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے اور کوفہ یا واسط تک جانور لے جانے کی صورت میں اختلاف کا اختلال ہے اور سینے اور رنگے کے مسئلے میں اتفاق ہے۔

تشریح:

والاجر السخاصل مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اجر خاص (یعنی جو کسی معین شخص یا جماعت کا اجر ہو) اجرت کا مستحق اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مستاجر کے حوالے کر دے اگرچہ وہ کام نہ کرے بشرطیکہ کام کرنے پر قادر ہو۔ لہذا اگر وہ کام پر قادر نہیں ہے تو اس کو اجرت نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو ایک سال خدمت کرنے کے لیے یا بکریاں چرانے کے لیے اجارہ پر لے لیا تو یہ اجر خاص ہے اور اس کا نام ”اجر وحد“ رکھا گیا ہے اس لیے کہ یہ ایک معین شخص یا جماعت کے علاوہ کے لیے کام نہیں کرتا۔ [شامی: ۲۶]

تصحیح عبارت:

بندہ کے سامنے شرح الوقایہ کا جو نسخہ ہے اس میں ”یسمی اجیراً واحداً“ کی عبارت مذکور ہے۔ جب کسی صحیح عبارت یوں ہے ”یسمی اجیراً واحداً“ ہے یعنی ” واحداً“ کی بجائے ” واحدا“ کا لفظ ہے۔ واد کے فتحہ اور حاء کے سکون یا فتحہ کے ساتھ ہے اور یہ وحد ایکی واحدا کے معنی میں ہے۔ [الہنایہ: ۱۳۱ / ۱۲۱]

و صلح تردید الاجر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ چھ صورتیں بیان کر رہے ہیں۔

پہلی صورت یہ بیان کی ہے کہ اگر ایک شخص نے درزی کو کپڑے دیتے وقت کہا کہ اگر ”فارسی“ طرز میں سلامی کیے تو ایک درہم دون گا اور اگر ”روی“ طرز میں سلامی کیے تو دو درہم دون گا۔ (فارسی سے مراد یہ ہے کہ کپڑوں میں ایک (جس کو ہمارے عرف میں سنگل سلامی کہا جاتا ہے) سلامی کی گئی ہو اور روی سے مراد یہ ہے کہ کپڑوں میں دو ہری سلامی کی گئی ہو) اس صورت کے جواز پر ائمہ ثلثۃ کا اتفاق ہے۔ دوسری صورت یہ بیان کی ہے کہ اگر ایک شخص نے رنگ ساز کو کپڑے دیتے اور اس سے کہا اگر تو نے عصفر سے زنگا تو ایک درہم دون گا اور اگر زعفران سے زنگا تو دو درہم دون گا تو یہ صورت ائمہ ثلثۃ کے نزدیک جائز ہے۔

تیسرا صورت یہ ہے کہ مو جرنے متاجر کو دو گھروں کے درمیان خیار دیا کہ میں تجھے یہ گھر ایک ماہ کے لیے دو درہم کے بد لے کرائے پر دیتا ہوں اور وہ گھر ایک ماہ کے لیے ایک درہم کے بد لے کرائے پر دیتا ہوں تو اب مستاجر جس گھر میں رہے گا تو اس کا کرایہ ادا کرے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی سے جانور اجارہ پر لیا اور مو جرنے کہا کہ اگر کوفہ تک لے کر جائے گا تو ایک درہم کرایہ ہے اور اگر واسطہ تک لے کر جائے گا تو دو درہم کرایہ ہے تو اب مستاجر جانور پر جس جگہ تک سفر کرے گا اسی کا کرایہ اس کو لازم ہو جائے گا۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کوڈ کاں اجارہ پر دی اور اس کو کہا اگر آپ اس میں خوبیوں کا کام کریں گے تو دو درہم کرایہ ہے تو اب امام ابو حیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ خیار صحیح ہے اور مستاجر جو کام کرے گا اس کی اجرت لازم ہو گی اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اجارہ فاسد ہے۔

چھٹی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے جانور اجارہ پر لیا اور مو جرنے کہا کہ تو نے اس پر گندم انھائی تو ایک درہم کرایہ ہے اور اگر بھو اٹھائے تو دو درہم کرایہ ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ خیار جائز ہے جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اجارہ فاسد ہے۔

مذکورہ بالا چھ صورتوں میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیار صحیح ہے جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک پہلی چار صورتوں میں خیار صحیح ہے اور آخری دو صورتوں میں خیار صحیح نہیں ہے اور ان دونوں صورتوں میں عقد اجارہ فاسد ہے۔

ہکذا ادا کان سے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بتارہ ہے ہیں کہ خیار کتنی اشیاء کے درمیان صحیح ہے تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ خیار کے

بارے میں اجارہ کو بعج پر قیاس کیا گیا ہے جس طرح بعج میں تین اشیاء سے زائد میں خیار یعنی صحیح نہیں ہے اسی طرح اجارہ میں بھی تین اشیاء سے زائد میں خیار یعنی صحیح نہیں ہے اور دونوں میں علیت مشترک ہے کہ جس طرح بعج کی صورت میں لوگوں کو ضرورت اور حاجت خیار یعنی کی ہوتی ہے اسی طرح اجارہ میں بھی بعج کی طرح خیار یعنی جائز ہے۔ لہذا اجارہ میں بھی بعج کی طرح خیار یعنی جائز ہے۔

اجارہ اور بعج میں فرق:

غیر انه یشتشرط سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اجارہ اور بعج کے مابین فرق بیان کر رہے ہیں کہ بعج میں خیار کی شرط (یعنی مشتری کے لیے کسی ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے) ہوتی ہے۔ لہذا جب کسی کو دو کپڑوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو اس کی مرتبی ہے جس کو چاہے لے لے اور اجارہ میں خیار کی شرط نہیں ہے اس لیے کہ اجرت عمل کے وقت واجب ہوتی ہے اور عقد کے ساتھ واجب نہیں ہوتی اور عمل کے وقت معقود علیہ معلوم ہو جائے گا۔ لہذا خیار کے شرط رکھنے کی ضرورت نہیں ہے برخلاف بعج کے ہے کیونکہ بعج میں اجرت نفس عقد سے واجب ہوتی ہے اور عقد کے وقت بعج مجہول ہوتی ہے اور جہالت جھگڑے کی طرف لے جائے گی اس لیے خیار کی شرط لگائی گئی ہے۔

ذکر فی الہدایۃ سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ مندرجہ بالا چھ صورتوں میں سے پہلی تین (خیاطت، صبغ، دار) صورتوں میں ائمہ تلاش کا اتفاق ہے اور چوتھی صورت (دار) میں اختلاف کا احتمال ہے اور آخری دو صورتوں (ذکان اور دار) میں امام ابو یوسف اور امام محمد جہما اللہ تعالیٰ کا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہے۔ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بدایہ میں مذکور ہے۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تاج:

بندہ کی ناقص فہم کے مطابق (عصمه اللہ عن الخطاء) شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے ”وفی الدابة الى کوفة او واسط احتمال الخلاف“ کہ صاحب حدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوفہ اور واسط والی صورت میں اختلاف ذکر کیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اصل میں صاحب حدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر آٹھ صورتیں ذکر کیں ہیں، چار صورتیں اتفاقی تین صورتیں اختلافی اور ایک صورت وہ ہے جس میں اختلاف کا احتمال ہے۔ جب کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں چھ صورتیں ذکر کی ہیں، چار اتفاقی اور دو اختلافی اس کے علاوہ ایک اختلافی صورت اور احتمالی صورت کا ذکر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا اور شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صاحب حدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوفہ اور واسط والی صورت کو بھی چار اتفاقی صورتوں میں ذکر کیا ہے اور شارح حدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ میں سے کسی نے بھی اس میں احتمال اختلاف کو ذکر نہیں کیا اور صاحب حدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں احتمال اختلاف کا ذکر کیا ہے اس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ لہذا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس صورت کو احتمال اختلاف والی صورت کہنا درست نہیں ہے بلکہ یہ صورت اتفاقاً جائز ہے واللہ اعلم (هذا الكلام ظهر لى ان كان صواباً فمن الله وان كان خطأً فمن الشيطان)

عبارت:

ولورد في خيطة اليوم او غداً عند أبي حنيفة وعندهما الشيطان جائزان و عند زفر رحمه الله تعالى
 fasadan lan ذكر اليوم للتعجيل و ذكر الغد للترفية لا التوقيت فيجتمع في كل يوم تسمياتان لهما ان كل واحد منها مقصود فصار كاحتلال النوعين و له ان ذكر اليوم ليس للتوقيت لأن اجتماع الوقت والعمل مفسد كما مر بل ذكره للتعجيل و ذكر الغد للتعليق فيجمع في الغد تسمياتان و لا يجاوز به المسمى ان اجر المثل ان

كان زائد اعلى نصف درهم لا يجب الزيادة و في الجامع الصغير لا يزيد على درهم و لا ينقص عن نصف درهم لكن الصحيح هو الاول لأن المسمى في الغد نصف درهم و في الاجارة الفاسدة اجر المثل لا يزيد على المسمى و ان خاطه في اليوم الثالث فاجر المثل لا يزيد على نصف درهم.

ترجمة:

اور اگر آج یا کل سلائی کرنے کے درمیان تردید کی یعنی جب اس نے کہا اگر تو نے اس لواح سلامی کیا تو ایک درهم کے بد لے ہوگی اور کل سلامی کرنے کی صورت میں نصف درهم کے بد لے ہوگی تو اجر کو وہ اجرت ملے گی جو اس نے ذکر کی ہے اگر اس نے آج سلامی کر دیا اور اس کو اجرت مثل ملے گی اگر اس نے کل سلامی کر کے دیا یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں شرطیں جائز ہیں اور امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں شرطیں فاسد ہیں اس لیے "یوم" کا ذکر تعلیق کے لیے ہے اور "غد" کا ذکر آساںش کے لیے ہے ہے کہ تو قیمت کے لیے پس ہر دن میں دو تسمیہ جمع ہو گئے۔ صاحبین رحمہمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مقصود ہے۔ پس یہ نو عین کے اختلاف کی طرح ہے اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ "یوم" کا ذکر تو قیمت کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ وقت اور عمل کا جماعت عقد کے لیے مسدہ ہے جیسا کہ گزر چاہلہ "یوم" کا ذکر تعلیق کے لیے ہے اور "غد" کا ذکر تعلیق کے لیے ہے۔ پس "غد" میں دو تسمیہ جمع ہو گئے اور اجرت مثل کے ساتھ مسکی سے تجاوز نہیں کیا جائے گا یعنی اجرت مثل اگر نصف درهم پر زائد ہے تو زیادتی واجب نہ ہوگی اور "جامع صغير" میں ہے کہ اجرت مثل درهم پر زائد نہیں کی جائے گی اور نصف درهم سے کم نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہی بات ہی صحیح ہے، اس لیے کہ "غد" میں مسکی نصف درهم ہے اور اجارہ فاسدہ میں اجرت مثل مسمی سے زائد نہیں کی جاتی اور اگر اس نے تیسرے دن کپڑے کو سلامی کیا تو اجرت مثل نصف درهم سے زائد نہیں کی جائے گی۔

ترجمہ:

ولورد فی خیاطة سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے درزی کو کپڑے دیے اور اس سے کہا اگر تو نے یہ کپڑے آج سی دیے تو ایک درهم دون گا اور اگر کل سی کر دیے تو آدھا درهم دون گا تو اب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس نے آج کپڑے سی دیے تو طے شدہ اجرت یعنی ایک درهم ملے گی اور اگر کل کپڑے سی کر دیے تو پھر اجرت مثل ملے گی یعنی شرط اوں صحیح ہے اور شرط ثانی فاسد ہے اور صاحبین رحمہمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں شرطیں جائز ہیں لہذا آج سینے کی صورت میں ایک درهم اور کل سینے کی صورت میں نصف درهم ملے گا اور امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں شرطیں فاسد ہیں لہذا اخواہ آج سینے یا کل سینے دونوں صورتوں میں اجرت مثل ملے گی۔

امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

لان ذکر الیوم سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نقش کر رہے ہیں دلیل کی وضاحت یہ ہے کہ "یوم" کا ذکر تعلیق یعنی جلدی کروانے کے لیے ہے اور تو قیمت کے لیے نہیں ہے اور "غد" کا ذکر آساںش اور خوشادگی کے لیے ہے تعلیق کے لیے نہیں ہے کیونکہ اگر متاجر صرف "یوم" کا لفظ ذکر کرتا اور یوں کہتا "خطہ الیوم بدراهم" تو تعلیق کے لیے ہوتا اور اسی طرح اگر متاجر صرف لفظ غذ ذکر کرتا اور یوں کہتا "خطہ غدا بنصف درهم" تو یہ آساںش کے لیے ہوتا۔ جب "یوم" کو اسی میں ذکر کرنے سے تعلیق مراد ہے اور غذ کو اسی میں ذکر کرنے سے آساںش مراد ہے تو جب ان دونوں کو ایک ہی عقد میں جمع کر دیا گیا تو ہر دن میں دو تسمیہ جمع

ہو گئے بہر حال پہلے دن میں اس طرح کہ وہ عقد جوکل کی طرف منسوب ہے وہ آج کے عقد کے ساتھ پہلے دن میں ثابت ہے اور کل کے دن میں دو تسمیہ اس طرح جمع ہو گئے کہ وہ عقد جو آج منعقد ہوا ہے باقی ہے لہذا وہ اس عقد کے ساتھ جمع ہو گیا جوکل کی طرف منسوب ہے جب ہر دن میں دو تسمیہ جمع ہو گئے ہیں تو ایک عمل کے مقابل دوبدلون کا ہوتا لازم آیا ہے جب ایک عمل کے مقابل دوبدل جمع ہو گئے تو بدل یعنی اجرت مجہول ہو گئی اور اجرت مجہول ہونے کی صورت میں اجارہ فاسد ہو جاتا ہے۔ [البناية: ١٢٦/١٣، العناية: ٨/١٧]

صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:

لَهُمَا أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ سے شارح رحمہما اللہ تعالیٰ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ تقبیل (جلدی کروانا) اور تاخیر دونوں مقصود ہوتے ہیں پس کبھی کسی غرض کی وجہ سے متاجر کی غرض تقبیل ہوتی ہے اور کبھی کسی غرض کی وجہ سے تاخیر مقصود ہوتی ہے۔ لہذا غرض کے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک عمل و مختلف نوعوں کی طرح ہو گیا یعنی تقبیل والا عمل الگ نوع والا ہے اور تاخیر والا عمل الگ نوع والا ہے جب دونوں کی نوع الگ الگ ہے تو متاجر کا دونوں شرطیں لگانا صحیح ہے۔ [البناية: ١٢٧/١٣]

امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:

وَ لَهُ اذْكُر سے شارح رحمہما اللہ تعالیٰ امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ توقیت "یوم" کا حقیقی معنی ہے اور "یوم" کو اس پر محول کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ "یوم" کو توقیت پر محول کرنے کی صورت میں وقت اور عمل جمع ہونے کی وجہ سے عقد فاسد ہو جائے گا لہذا "یوم" کو تقبیل پر جو اس کا مجازی معنی ہے محول کیا جائے گا اور "غد" کا ذکر تعلیق کے لیے ہے جو کہ "غد" کا حقیقی معنی ہے پس جب "یوم" اپنے مجازی معنی پر محول ہے تو "غد" میں دو تسمیہ جمع ہو گئے ہیں۔

او"یوم" میں دو تسمیہ جمع نہیں ہوئے لہذا شرط اول صحیح ہے اور شرط ثانی فاسد ہے۔ [البناية: ١٢٧/١٣]

و لا يحَاوِزْ بِهِ الْمَسْمُى سے مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر درزی نے دوسرے دن کپڑے سلاٹی کر کے دیے تو اجرت مثل واجب ہو گی اب اگر یہ اجرت مثل نصف درہم سے (جونصف درہم دوسرے دن سلاٹی کرنے کی صورت میں طے ہوا تھا) بڑھ جائے تو ایک روایت کے مطابق نصف درہم سے زائد اجرت واجب نہ ہو گی البتہ "جامع صغیر" کی روایت کے مطابق اجرت مثل درہم سے زائد واجب نہ ہو گی اور نصف درہم سے کم نہ کی جائے گی۔ لیکن پہلی روایت صحیح ہے کہ اجرت مثل نصف درہم سے زائد ہونے کی صورت میں زیادہ واجب نہ ہو گی کیونکہ دوسرے دن عمل کرنے کی صورت میں اجرت نصف درہم بٹے ہوئی تھی اور اجارہ فاسدہ میں اجرت مثل سمجھی سے زائد نہیں کی جاتی یہ روایات کا اختلاف اس صورت میں ہے جب درزی نے دوسرے دن کام کیا اور اگر درزی نے تیسرے دن کام کیا تو پھر اجرت مثل نصف درہم سے زائد نہ کی جائے گی۔

عبارت:

و لا يسافر بعد مستاجر للخدمة الا بشرطه. و لا يسترد مستاجر اجر ما عمل عبد محجور اجر عبد محجور نفسه فان اعطاه المستاجر الا جر لا يسترد له ان هذه الاجارة بعد الفراج صحيح استحسانا لان الفساد لرعایة حق المولى فبعد الفراج رعایة حقه في الصحة و وجوب الاجرة. و لا يضمن اكل غلة عبد غصبه فاجر هو نفسه اي رجل غصب عبدا فاجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الاجرة فاكله فلا ضمان عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى لان العبد لا يحرز نفسه فكذا ما في يده فلا يمكن متocomا و قالا يضمن لانه مال المولى و صاحب للعبد قبضها و يأخذها

مولاه قائلة هذا بالاتفاق لان بعد الفراغ يعتبر ما ذونا كما مر. ولو استاجر عبداً شهرين شهر باريعة وشهر اً بخمسة صح والاول باريعة والثاني بخمسة. وحكم الحال ان قال مستاجر لعبد مرض هو او أبق في اول المدة وقال الموجر في اخرها اصل هذه المسألة الطاحونة فان المالك اذا قال ماء الطاحونة كان جاري في اول المدة وقال المستاجر لم يكن جاري يحكم الحال. وصدق رب التوب في امرتك ان تعامله قباء او تصبغه احمر فلا اجر وقتل امرتني بما عملت لان الاذن مستفاد من رب التوب والمراد ان يصدق باليمين وفي عملت لي مجانا لا صانع قال بل باجر لان المالك ينكر تقوم عمل الصانع وعند ابى يوسف رحمه الله تعالى ان كان الصانع معاملأ له يجب الاجرة وعند محمد رحمه الله تعالى ان كان معروفا بهذه الصنعة للاجر يجب الاجرة وابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الظاهر لا يصلح حجة لاستحقاق الاجرة .

ترجمة:

اور اس غلام کو سفر میں نہیں لے جائے گا۔ جس کو خدمت کے اجرت پر لیا گیا ہو مگر سفر کی شرط کے ساتھ اور مستاجر اس کام کی اجرت کو واپس نہیں لے گا۔ جس کو عبد مجور نے کیا ہو۔ ایک عبد مجور نے اپنے آپ کو مزدوری پر دے دیا اگر مستاجر نے اس کو اجرت دے دی تو مستاجر اس کو واپس نہیں لے گا اس لیے کہ یہ اجارہ کام سے فارغ ہونے کے بعد استھانا صحیح ہو گیا ہے۔ کیونکہ فائدہ موٹی کے حق کی رعایت کی وجہ سے تھا اور کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کے حق کی رعایت عقد صحیح ہونے اور اجرت کے واجب ہونے میں ہے اور اس غلام کی کمائی کھاناے والا ضا من نہ ہو گا جس نے غلام کو غصب لیا ہو پھر غلام نے اپنے آپ کو مزدوری پر دے دیا پھر غاصب نے اجرت لے لی اور اس کو کھا لیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں یہ ضا من نہ ہے اس لیے کہ غلام کی ذات محزن نہیں ہے پس اسی طرح جو اس کے قبضے میں ہے الہا وہ مال متفقون نہیں ہے اور ضا من کو قائم شدہ حالت میں لے گا یہ بالاتفاق ہے اس لیے کہ فراغت کے بعد وہ غلام ماذون اجرت پر قبضہ کرنا صحیح ہے اور اس کا مولیٰ اس کو قائم شدہ حالت میں لے گا یہ بالاتفاق ہے اس لیے کہ فراغت کے بعد وہ غلام ماذون معینہ ہو گا جیسا کہ گزر چکا اور اگر کسی نے ایک غلام کو دو ماہ کے لیے اجرت پر لیا ایک ماہ چار درہم کے بدے اور ایک ماہ پانچ درہم کے بدے تو یہ صحیح ہے اور پہلا ماہ چار درہم کے بدے ہو گا اور دوسرا پانچ درہم کے بدے ہو گا اور استھانابحال سے فیصلہ کیا جائے گا اگر غلام کو ملک نے جب کہا گی کہ اس کا حکم دیا تھا یا بھاگ گیا تھا اور موجر نے کہا آخر حمدت میں یہاں ہوا تھا یا بھاگ تھا اس سکل کی اجرت پر لینے والے نے کہا غلام اولی مدت میں یہاں ہو گیا تھا یا بھاگ گیا تھا اور موجر نے کہا آخر حمدت میں یہاں ہوا تھا یا بھاگ تھا اس سکل کی اصل طاحونہ (چکی) ہے کیونکہ مالک نے جب کہا پہنچ کا پانی اولی مدت میں جاری تھا اور مستاجر نے کہا جاری نہیں تھا تو استھانابحال سے فیصلہ کیا جائے گا اور کپڑے والے کی تصدیق کی جائے گی اس صورت میں کہ میں نے تجھے قباء سنئے کا حکم دیا تھا کیا کپڑے کو سرخ رنگ دینے کا حکم دیا تھا تو اس کے لیے اجرت نہیں ہے اور دوسرے نے کہا تو نے مجھے اس کام کا حکم دیا تھا جو میں نے کیا ہے اس لیے کہ اجازت کپڑے والے کی طرف سے حاصل ہوتی ہے اور مراد یہ ہے کہ تم کے ساتھ تصدیق کی جائے گی اور اس صورت میں کہ تو نے میرے لیے مفت کام کیا ہے نہ کہ صانع کی طرح کیا ہے اور اس نے کہا بلکہ اجرت کے بدے کیا ہے اس لیے کہ مالک صانع کے عمل کے تقدم کا منکر ہے اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر صانع اس کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے تو اجرت واجب ہو گی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نزدیک اگر وہ صانع اس پیسے کے ساتھ اجرت لینے کے ساتھ معروف ہے تو اجرت واجب ہو گی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہراً اجرت کے متحقق ہونے کے لیے جست بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

تشریح:

ولا يسافر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے غلام کو خدمت کے لیے اجارہ پر لیا تو اب اس غلام کو سفر میں ساتھ لے جانا صحیح نہیں ہے البتہ اگر اجارہ پر لیتے ہوئے اس بات کی شرط لگائی تھی کہ سفر میں بھی لے کر جاؤں گا تو پھر سفر پر لے جانا صحیح ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”لا یسافر“ کی قید لگائی ہے لہذا سفر کے علاوہ بقیہ کام کروانا صحیح ہے۔ [بخاری ۱۷/۵۷]

ولا يسترد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک ایسے غلام نے جس کے آقانے اس کو تجارت وغیرہ سے روکا ہوا تھا اپنے آپ کو اجارہ پر دے دیا اور متاجر نے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کو اجرت دے دی تو اب چونکہ یہ غلام محور تھا اس لیے متاجر نے دوبارہ اس سے اجرت لینا چاہی تو اس کے لیے اجرت واپس لینا صحیح نہیں ہے یہ احسان ہے اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اجرت واپس لینا صحیح ہے۔ قیاس یہ ہے کہ مولیٰ نے غلام کو اجازت نہیں دی اس لیے متاجر غاصب بن گیا ہے اور غاصب کے ذمے اجرت نہیں ہوتی۔

الحسناً في دليل يريه کہ مولیٰ نے اس کو نقصان دہ تصرف سے روکا ہے اور نفع بخش تصرف سے نہیں روکا اور غلام جب کام سے صحیح و سالم فارغ ہو گیا اور اس کو اجرت مل گئی تو یہ نفع بخش تصرف ہوا تو اس لیے یہ عقد نافذ ہو گا کیونکہ عقد کو فاسد کرنا مولیٰ کے حق کی وجہ سے تھا اور فارغ ہونے کے بعد مولیٰ کا حق عقد کے صحیح ہونے اور اجرت واجب ہونے میں ہے۔ لہذا متاجر جرکا اجرت کو واپس لینا صحیح نہیں ہے۔

و حکم الحال مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے آقا سے غلام کو اجارہ پر لیا اور کچھ مدت کے بعد متاجر نے موجر (آقا) سے کہا کہ آپ کا غلام مدت کے شروع میں بیمار ہو گیا تھا یا بھاگ گیا تھا لہذا امیرے ذمے اجرت نہیں ہے اور موجر نے کہا نہیں وہ غلام مدت کے آخر میں بیمار ہوا تھا یا بھاگ ہوا ہو تو اس صورت میں ظاہر حال امیرے ذمے اجرت واجب ہے تو اب اس صورت میں ظاہر حال کو اگر جھگڑے کے وقت غلام بیمار ہو یا بھاگ ہوا ہو تو اس صورت میں ظاہر حال متاجر کے حق میں ہے کہ یہ غلام شروع مدت میں بھی بیمار تھا یا بھاگ ہوا تھا لہذا امیرے ذمے اجرت واجب نہ ہو گی اور جھگڑے کے وقت غلام صحت مند ہو یا موجود ہو تو اس صورت میں ظاہر حال موجر کے حق میں ہے کہ یہ غلام شروع مدت میں بھی صحت مند تھا اور موجود تھا لہذا امیرے ذمے اجرت واجب ہو گی۔

اصل هذه المسئلة مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا مداراصل میں چکی والے مسئلے پر ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی سے پانی سے چلنے والی چکلی اجارہ پر لی جب مدت پوری ہو گئی اور موجر نے اجرت کا مطالبہ کیا تو متاجر نے کہا کہ پہلے دن سے چکلی میں پانی نہیں آیا تو اب ظاہر حال کو دیکھا جائے گا اگر فی الحال پانی موجود ہو تو یہ شمار کیا جائے گا کہ شروع مدت میں بھی پانی موجود تھا لہذا متاجر کے ذمے اجرت واجب نہ ہو گی۔ ظاہر حال کی تفصیل ماقبل میں گز رچکی ہے۔

و صدق رب الشوب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ جن میں متاجر اور اجیر کا اختلاف ہو گیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تین صورتیں بیان کی ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ درزی اور کپڑے کے مالک کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ مالک نے کہا میں نے تجھے تباہ سینے کا حکم دیا تھا ذری نے انکار کیا اور کہا تو نے مجھے قیص سینے کا حکم دیا تھا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ رنگساز اور کپڑے کے مالک کے درمیان اختلاف ہو گیا مالک نے کہا میں نے تجھے سرخ رنگ دینے کو کہا تھا۔

رگساز نے انکار کیا اور کہا کہ تو نے مجھے زرد بگ دیئے کو کہا تھا اور مالک ان دونوں صورتوں میں اجرت نہ دینے پر مصر ہے تو اب مالک سے حلف لیا جائے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی کیوں کہ اجازت مالک کی طرف سے حاصل ہوئی ہے پس اگر مالک نے سرے سے عقد کا ہی انکار کر دیا تو بھی اس کا قول معتبر ہو گا لہذا جب اس نے عقد کی ایک صفت کا انکار کیا تو بھی اسی کا قول معتبر ہو گا سو جب مالک نے حلف اٹھایا تو دونوں صورتوں میں اجر ضامن ہو گا۔ پہلی صورت میں درزی کپڑے کا ضامن ہو گا لہذا مالک کو اختیار ہو گا اگر چاہے تو درزی کو کپڑے کی قیمت کا ضامن بنادے اور کپڑا اس کے حوالے کر دے اور اگر چاہے تو قیص لے لے اور اس کو اجرتِ مشل دے دے جس میں طے شدہ اجرت سے تجاوز نہ کرے اور اسی طرح رگساز بھی ضامن ہو گا اور مالک کو اختیار ہو گا اگر چاہے تو اس کو سفید کپڑے کا ضامن بنائے اور اگر چاہے تو وہی بنا گا کہ واکپڑا لے لے اور اس کو اجرتِ مشل دے دے کہ جس میں مسکی اجرت سے تجاوز نہ کرے اور بعض نسخوں میں یہ ہے کہ مالک رگساز کو رنگ کی قیمت ادا کرے لیکن پہلا قول (اجرتِ مشل والا) ظاہر الروایہ ہے اور یہی صحیح ہے۔ [البنایہ: ۱۳۷/۱]

تیسرا صورت فی عملت لی مجانا سے بیان کی ہے کہ متاجر نے اجر سے کہا تو نے میرے لیے مفت کام کیا ہے اور اجر نے کہا نہیں بلکہ اجرت کے ساتھ کام کیا ہے تو اس میں بھی متاجر کا قول حلف کے ساتھ معتبر ہے اس لیے کہ متاجر نے اجر کے عمل کے مقوم ہونے کا انکار کیا ہے اور عمل عقد کے ذریعے متفق ہوتا ہے اور یہاں عقد نہیں ہوا کیونکہ متاجر نے اجرت کے مفعول کام کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور بلا اجرت کام کرنا عقد شمار نہیں ہوتا بلکہ اعانت ہوتی ہے اور اعانت محسن احسان ہے۔ لہذا متاجر کے قول کی تصدیق کی جائے گی یہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام ہب ہے جب کہ امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر متاجر اور اجر کا آپس میں بلا اجرت معاملہ ہوتا رہتا ہے تو اجرت لازم ہو گی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر کی طرف دیکھا جائے گا اگر وہ اس پیشے میں اجرت لینے کے ساتھ معروف ہے تو اجرت واجب ہو گی ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یقول سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں چونکہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے دلائل کا مدار ظاہر حال پر ہے تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ظاہر حال کسی شی کو دفع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ البتا اجرت کے استحقاق کو ثابت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ [البنایہ: ۱۳۷/۲، الکفاۃ: ۸/۸]

رانجح قول:

مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ [بigr الرائق: ۸/۱۶، در مقتر: ۲/۵، البنایہ: ۱۳۰/۱]



باب فسخ الاجارة

عبارت:

ہی تفسخ بعیب فوت النفع کخراب الدار و انقطاع ماء الارض و الرحی. او اخل به کمرض العبدو و بر الدابة انما قال تفسخ لان العقد لا ینفسخ لا مکان الانتفاع بوجه اخر لکن للمستاجر حق الفسخ. فلو انتفع بالمعیب او ازال الموجر العیب سقط خیاره ای خیار المستاجر و بخیار الشرط و الرؤیة و بالعذر هذا عندنا و عند الشافعی رحمة الله تعالى لا تفسخ بخیار الشرط و لا بالعذر و هو لزوم ضرر لم يستحق بالعقد ان بقى كما فی سکون وجع ضرس استواجر بقلعه فان بقى العقد یقلع السن الصحيح وهو غير مستحق بالعقد. و موت عرس استواجر من یطبع و لیمته فانه ان بقى العقد یتضэр المستاجر بطبع غير الوليمة. و لحوق دین لا یقضی الا بشمن ما اضر فانه ان بقى یلزمہ ضرر الحبس.

ترجمہ:

اجارہ نفع فوت ہونے کے عیب کی وجہ سے فسخ کیا جاسکتا ہے جیسے گھر کا خراب ہونا اور زمین یا چکلی کے پانی کا ختم ہو جانا یا ایسا عیب ہو جس کی وجہ سے نفع میں خلل پڑ جائے جیسے غلام کا بیمار ہو جانا اور جانور کی پیٹھ کا رختی ہو جانا سوائے اس کے نہیں کہ یہ کہا اجارہ فسخ کیا جاسکتا ہے اس لیے کہ عقد نفع کے کسی طرح ممکن ہونے کی وجہ سے فسخ نہیں ہوتا لیکن مستاجر کو فسخ کرنے کا حق ہے لہذا اگر مستاجر نے شئی معیب کے ساتھ فسخ حاصل کر لیا یا موجر نے عیب زائل کر دیا تو اس کا یعنی مستاجر کا خیار ساقط ہو جائے گا اور اجارہ خیار شرط اور خیار رؤیت اور عذر کے ساتھ فسخ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی رحمة الله تعالى کے نزدیک خیار شرط اور عذر کی وجہ سے فسخ نہ ہو گا اور عذر ایسے ضرر کا لازم ہونا ہے جس کا عقد کی وجہ سے مستحق نہیں بنا جاسکتا اگر اجارہ باقی رہے جیسا کہ اس دائرہ کے درد کے سکون کی صورت میں جس کو اکھڑنا عقد کی وجہ سے مستحق نہیں ہے اور اس دو لہے کی موت سے عقد فاسد ہو جائے گا جس کے لیے کسی شخص کو اجارہ پر لیا گیا جو اس کے ویسے کا کھانا تیار کرے گا کیونکہ اگر عقد باقی رہے تو مستاجر کو غیر ویسے تیار کرنے کی وجہ سے ضرر ہو گا اور اس دین کا لاحق ہو جانا جس کو ادا نہ کیا جاسکتا ہو مگر اس شئی کے شمن سے جس کو اجرت پر دیا ہے کیونکہ اگر عقد باقی رہے تو اس کو جس کا ضرر لازم ہو گا۔

ترشیح:

مصنف رحمة الله تعالى نے اجارہ فسخ کرنے کا ذکر مؤخر کیا ہے اس لیے کہ پہلے عقد کا وجود ہوتا ہے پھر عقد فسخ کیا جاتا ہے چنانچہ اس وجہ سے اس کو موخر کیا ہے۔

اصل:

یہ بات جان لئی چاہیے کہ اجارہ ان عیوب اور اعذار کی وجہ سے فسخ ہوتا ہے جو عیوب اور اعذار ان منافع کو خراب کر دیں جن منافع کے لیے اجارہ پر شئی کو لیا گیا ہے۔ لہذا اگر عیوب ایسے ہیں جن کی وجہ منافع میں خلل واقع نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے اجارہ فسخ نہ ہو گا اور مستاجر کو خیار نہ ملے گا۔

ہی تفسیخ بعیب سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب شیٰ مستاجرہ میں ایسا عیب داخل ہو جائے کہ اس سے نفع حاصل نہ کیا جاسکتا ہو جیسے گھر گر گیا یا چکل کا پانی ختم ہو گیا یا ایسا عیب داخل ہو جائے کہ اس کی وجہ سے شیٰ سے نفع حاصل کرنے میں خلل پڑ جائے جیسے غلام بیمار ہو گیا یا جانور کی پیٹھے خنی ہو گئی تو اب اجارہ کے فتح ہونے میں مشايخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے، اکثر مشايخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجارہ فتح نہ ہو گا کیونکہ فوت شدہ منافع کا حصول ممکن ہے کہ گھر کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے اور چکل میں پانی آجائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شیٰ سے دوسرے طریقے سے نفع حاصل کرنا ممکن ہے کہ جب گھر گر گیا۔ تو اس کی زمین سے نفع حاصل کیا جائے یہ دوسری وجہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور اس وجہ کو دوسرے مشايخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ لہذا اجارہ فتح نہ ہونے کی پہلی وجہ (کہ منافع کا حصول دور با ممکن ہے) بیان کرنا صحیح ہے اب یہ اجارہ فتح نہ ہو گا لیکن مستاجر کو فتح کرنے کا حق حاصل ہو گا اور مشايخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہی قول اصحٰ قرار دیا ہے اور اسی کو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”انما قال تفسیخ“ سے بیان کیا ہے البتہ بعض مشايخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان عیوب کی وجہ سے اجارہ فتح ہو جاتا ہے لیکن پہلا قول اصح ہے۔ [شامی ۲۶، جبرا الرائق: ۲۳۸]

و بالعذر هذا سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ احتاف کے نزدیک اگر عقد اجارہ کے بعد عذر پیش آگیا تو مستاجر کو فتح کرنے کا اختیار ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فتح کرنے کا اختیار نہیں ہے اور عذر سے مراد یہ ہے کہ عقد کو باقی رکھنے کی صورت میں ایسا ضرر لازم آئے کہ اس ضرر کا عقد میں متحق نہ بنا گیا ہو جیسے ایک شخص نے کسی کو اجارہ پر لیا کہ وہ اس کی وہ دارہ نکال دے جس میں درہ رہا ہے پھر داڑھنکا نے سے قبل دردیج ہو گیا تو اب ہمارے نزدیک مستاجر کو عقد فتح کرنے کا حق ہے کیونکہ عقد کو باقی رکھنے کی صورت میں صحیح دانت کو نکالنا لازم آئے گا اور عقد صحیح دانت کے نکالنے پر واقع نہیں ہوا بلکہ درد والے دانت کے نکالنے پر عقد ہوا ہے۔ لہذا مستاجر کو عقد فتح کرنے کا اختیار ہو گا اور اسی طرح اگر کسی نے شادی پر دیے کا ہمان تیار کرنے کے لیے کسی کو اجارہ پر لیا پھر دیمہ سے قبل دو لہے صاحب کا انتقال ہو گیا تو اب مستاجر کو عقد فتح کرنے کا حق ہے کیونکہ عقد باقی رکھنے کی صورت میں مستاجر کو ضرر ہو گا کہ اس کو ایسے کھانا پکانے کی اجرت لازم ہو گی جو کھانا دیے کا نہیں ہے اور اسی طرح اگر ایک شخص نے کسی کو اپنی دُکان یا اپنا گھر کرایے پر دے دیا اور اس کی قیمت ہزار درہ تھی پھر اس شخص (موجر) کے ذمے ہزار درہ تم دین لازم ہو گیا اور اس کے پاس اس دُکان یا گھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اب یہ عقد اجارہ فتح ہو جائے گا اس لیے کہ اگر یہ عقد باقی رہا تو قاضی اس دُکان یا گھر کو دین کے بدے ضبط کر لے گا تو اجارہ باقی رکھنے کی صورت میں قاضی کے ضبط کرنے کی وجہ سے مستاجر کو ضرر لاحق ہو گا۔

عبارات:

و سفر مستاجر عبد للخدمة مطلقاً او في المصر فان الاستيجار للخدمة مطلقاً ينقييد بالخدمة في المصر فان قال مالك العبد لا تسافر و امض على الاجارة فللمستاجر ان يفسخ فان اراد المستاجر ان يخرج العبد فلما لکه الفسخ اما ان رضى المالك بخروج العبد فليس للستاجر حق الفسخ . و افلاس مستاجر دكان ليتجر فيه . و خياط استاجر عبد اليحيط معه فترك عمله قيل تاويله خياط يعمل براس ماله فذهب راس ماله واما الذى ليس له مال و يعمل بالاجرة فراس ماله ابرة و مقراض فلا يتحقق العذر . و بدء مكتري الدابة من سفره بخلاف بدء المكارى و الفرق بينهما ان العقد من طرف المكتري تابع لمصلحة السفر فربما يبدو له ان لا مصلحة في السفر فلا يمكن الزامه لاجل الاكتراء و من طرف المكارى ليس كذلك فبدء بدء من هذا

العقد قصدا فلا اعتبار له وترك خيطة مستاجر عبد ليحيطه له ليعمل في الصرف اذا يمكنه ان يقعد الخياط الخياط في ناحيته من الدكان ويعمل بالصرف في ناحية وبيع ما اجره وتنفسخ بموت احد العاقدين ان عقدها لنفسه فان عقدها لغيره فلا كالوكيل والوصي ومتولى الوقف .

ترجمة:

اور مطلق ياشہر میں خدمت کرنے کے لیے اجارہ پر لیے جانے والے غلام کو مستاجر کے لیے سفر میں لے جانا کیونکہ مطلق خدمت کے لیے اجارہ پر لیا شہر کے ساتھ مقید ہوتا ہے اگر غلام کے مالک نے کہا کہ تو سفر نہ کرو اس کے مالک کے لیے فتح کرنا جائز ہے اگر مستاجر نے غلام کو نکلنے کا ارادہ کیا تو اس کے مالک کے لیے فتح کرنا صحیح ہے۔ بہر حال اگر مالک غلام کے نکلنے پر راضی ہو گیا تو مستاجر کو فتح کرنے کا حق نہیں ہے اور دکان کو تجارت کے لیے اجارہ پر لینے والے کامفلس ہو جانا اور درزی کامفلس ہو جانا جس نے کسی غلام کو اپنے ساتھ سلاسلی کرنے کے لیے اجارہ پر لیا پھر اس نے اپنا کام چھوڑ دیا کہا گیا ہے اس کی تاویل یہ ہے کہ درزی اپنے راس المال کے ساتھ کام کرے گا پھر اس کا راس المال ختم ہو گیا اور بہر حال وہ درزی جس کا مال نہ ہو اور وہ اجرت کے ساتھ کام کرے تو اس کا راس المال سوئی اور قیچی ہے۔ لہذا عذر ثابت نہ ہو گا اور جانور کو کرایے پر لینے والے کا اپنے سفر کرنے سے عذر ظاہر ہو جانا بخلاف کرایے پر دینے والے کے عذر ظاہر ہونے سے اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عقد کرایے پر لینے والے کی طرف سے سفر کی مصلحت کے تالع ہے، پس کبھی کبھار اس کے لیے یہ بات ظاہر ہو گی کہ سفر میں مصلحت نہیں ہے لہذا کرایہ لینے کے لیے اس کو سفر لازم کرنا ممکن نہیں ہے اور عقد کرایے پر دینے والے کی طرف سے اس طرح نہیں ہے پس کرائے پر دینے والے کا عذر اس عقد سے قصد ادا کرنا ہے سواس کا اعتبار نہیں۔

اور اس شخص کا جس نے غلام کو اپنے ساتھ سلاسلی کرنے کے لیے اجارہ پر لیا سلاسلی کو چھوڑ دینا تاکہ وہ سنار کا کام کرے (تو یہ عذر نہیں ہے) اس لیے کہ ممکن ہے کہ درزی دکان کے ایک کنارے میں بیٹھ جائے اور مالک ایک کنارے میں سنار کا کام کرے اور اس شی کو بیچنا جس کو اجرت پر دیا ہو (یہ عذر نہیں ہے) اور اجارہ عائدین میں سے کسی ایک کی موت کی وجہ سے فتح ہو جائے گا اگر اس نے اپنی ذات کے لیے عقد کیا ہو پس اگر اس نے کسی دوسرے کے لیے عقد پر لیا تو عقد فتح نہ ہو گا جیسے وکیل اور وصی اور وقف کا متولی۔

ترجمہ:

وسفر مستاجر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی غلام کو مطلق خدمت کرنے کے لیے یا شہر میں خدمت کرنے کے لیے اجارہ پر لیا تو ان دونوں صورتوں میں غلام شہر میں خدمت کرنے کا پابند ہے گا البتہ جب شہر کے اندر خدمت کے لیے اجارہ پر لیا تو ظاہر ہے اور جب مطلق اجارہ پر لیا تو بھی شہر میں رہنے کا پابند ہو گا کیونکہ مطلق اجارہ شہر کے اندر خدمت کرنے سے مقید ہو گا اور اگر مستاجر نے اس کو اپنے ساتھ سفر کرنے پر مجبور کیا تو اس عذر کی وجہ سے غلام کا مالک اجارہ کو فتح کر سکتا ہے۔

و افلام مستاجر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے عذر کی وجہ سے فتح ہونے والے اجارہ کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دکان اجارہ پر لی اور کچھ عرصے بعد وہ مفلس ہو گیا تو اب یہ اجارہ فتح ہو جائے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک درزی نے کسی غلام کو اپنے ساتھ کپڑے سینے کے لیے اجارہ پر لیا پھر وہ درزی مفلس ہو گیا اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو یہ اجارہ فتح ہو جائے گا اب چونکہ درزی در طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ درزی جو کپڑے خود خرید کر سلاسلی کر کے فروخت کرتے ہیں اور دوسرے وہ درزی جو لوگوں کے کپڑے اجرت کے بد لے سلاسلی کرتے ہیں تو قیل تاویلہ سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں کہ بعض

کے نزدیک یہاں وہ درزی مراد ہے جو کپڑے سلائی کر کے فروخت کرتا ہے کیونکہ راس المال ختم ہو جانے کی صورت میں وہ مفلس ہو جائے گا البتہ وہ درزی جواہر کے بد لے کپڑے سیتا ہے تو اس کے کام چھوٹے نے کی وجہ سے اجارہ فتح نہ ہوگا کیونکہ اس کا راس المال سوئی اور قیچی ہے۔ لہذا عذر ثابت نہ ہوگا جو کہ مفلس ہونا تھا جب عذر نہیں پایا گیا تو اجارہ فتح نہ ہوگا۔

و بداء مكترى مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عذر کی وجہ سے اجارہ فتح ہونے کی ایک صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی سے جانور سفر کرنے کے لیے کرایے پر لیا پھر متاجر کو اس سفر کرنے سے عذر لاحق ہو گیا مثلاً اس نے حج پرجانے کے لیے جانور کرایے پر لیا تھا اور جانے سے قبل حج کا وقت ختم ہو گیا تو اب ایسی صورت میں اس عذر کی وجہ سے اجارہ فتح ہو جائے گا اور اگر جانور کرایے پر دینے والے کو عذر لاحق ہو گیا تو اس کے عذر کی وجہ سے اجارہ فتح نہ ہوگا اب ان دونوں کے درمیان حکم میں جو فرق ہے اس کو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ والفرق بینهما ان العقد سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے جانور کرایے پر لینے کا عقد کیا ہے تو یہ عقد لازم نہ ہوگا لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ متاجر کا عقد سے رکنا عمداً نہیں ہے بلکہ مصلحت پر موقوف ہے اگر مصلحت ہوتے عقد باقی رہے گا ورنہ عقد فتح ہو جائے گا جب کہ کرائے پر دینے والے کا عذر ظاہر ہو جانا اس طرح نہیں ہے بلکہ اس کے عذر کا ظاہر ہونا قصداً اس عقد سے رکنا ہے کیونکہ کرائے پر دینے والے کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ عذر کی وجہ سے نہ جائے اور اپنی جگہ کسی غلام وغیرہ کو بھیج دے۔ لہذا اس کے عذر کا اعتبار نہیں ہے۔

[البناۃ: ۱۳/۱۵۱]

و ترك خياطة مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر درزی نے کسی غلام کو اپنے ساتھ کپڑے سینے کے لیے اجرت پر لیا پھر اس درزی نے اس پیشے کو چھوٹے نے کا ارادہ کیا اور سنار کا کام شروع کرنے کا ارادہ کیا تو اب یہ عقد اجارہ جو درزی اور غلام کے مابین ہوا تھا، فتح نہ ہوگا بلکہ باقی رہے گا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ غلام ذکان کے ایک کونے میں کپڑے سیتا رہے اور دوسرا شخص ایک کونے میں سنار کا کام شروع کرے تو جب غلام کے لیے سلائی کرنا ممکن ہے تو اس عذر کی وجہ سے اجارہ فاسد نہ ہوگا۔

و تنفس بموت احد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر موجود یا متاجر میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گی تو عقد اجارہ فتح ہو جائے گا اگر ان دونوں میں سے ہر ایک نے عقد اجارہ اپنے لیے کیا ہو اگر کسی نے دوسرے شخص کے لیے عقد کیا جیسے وکیل نے اپنے موکل کے لیے یا وصی لر کے لیے یادوں کے متولی نے عقد اجارہ کیا اور پھر ان میں سے کوئی مر گیا تو عقد فتح نہ ہوگا۔



مسائل شتیٰ

و من احرق حصائد ارض مستأجرة او مستعارة فاحتراق شيئاً في ارض جاره لم يضمن قيل هذا اذا كان الرياح هادنة اما اذا كانت مضطربة يضمن . فان اقعد خياط او صباغ في دكانه من يطرح عليه العمل بالنصف صح اي يتقبل احدهما العمل من الناس بوجهته و يعمل الآخر بخلافه ففي الهدایة حمله على شركة الوجه و فيه نظر لانه شركة الصنائع والنفاذ فكان صاحب الهدایة اطلق شركة الوجه عليه لان احدهما يقبل العمل بوجهته و هذا العقد غير جائز قياساً لان احدهما يقبل العمل و يستاجر الآخر بنصف ما يخرج من عمله و هو مجھول و جائز استحساناً و وجهه ان تخصيص قبول العمل باحدهما لا يدل على نفيه فإذا عقدت شركة الصنائع و يقبل احدهما العمل و يعمل الآخر فيجوز فكذا هنالك و الحاجة ماسة بمثل هذا العقد فجوزناه كاستيجار جمل يحمل عليه محلاً و راكبين و حمل محلاً معتاداً هذا عندنا و عند الشافعى رحمة الله تعالى لا يجوز للجهالة ولو اراد الجمال فاجود فان استاجر له لحمل قدر زاد فاكل منه در عوضه . المسافة و الوكالة و الكفالة و المضاربة و القضاء و الامارة اي تفويفهما و الايصاد اي جعل الغير وصياً و الوصية و الطلاق و العناق و الوقف مضافة اي مضافة الى الزمان المستقبل كما يقال في المحروم أجرت هذا الدار من غرة رمضان الى سنة كذا لا البيع و اجازته و فسخه و القسمة و الشركة و الهبة و النكاح و الرجعة و الصلح عن مال و ابراء الدين .

ترجمہ:

اور جس نے اجارہ پر لی گئی یا عاریت پر لی گئی زمین کی کھیت کو جلا دیا پھر اس کے پڑوی کی زمین میں سے کوئی شئی جل گئی تو وہ ضامن نہ ہوگا کہا گیا ہے یا اس وقت ہے جب کہ ہوا میں پر سکون ہوں بہر حال جب ہوا میں تیز ہوں تو یہ ضامن ہو گا اگر کسی درزی یا رنگسازی نے اپنی دکان میں اس شخص کو بٹھایا جس پر وہ کام نصف نفع کے بد لے ڈالے گا تو یہ صحیح ہے لیکن ان دونوں میں سے ایک لوگوں سے اپنی وجہت سے عمل قبول کرے گا اور دوسرا کام کرے گا ”حد ایہ“ میں اس کو شرکت و جوہ پر محول کیا ہے اور اس میں پوچھ کر ہے اس لیے کہ یہ شرکت صنائع و تقبل ہے، پس صاحب حد ایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر شرکت و جوہ کا اطلاق کیا ہے اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک اپنی وجہت کے ذریعے عمل قبول کرتا ہے اور یہ عقد قیاس کے لحاظ سے ناجائز ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک عمل قبول کرتا ہے اور دوسرا اس شئی کے نصف کے لئے اجرت پر لیتا ہے جو شئی اس کے عمل سے نکلے گی اور وہ مجھول ہے اور یہ استحساناً جائز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے عمل قبول کرنے کی تخصیص دوسرے سے عمل کی نفی پر دلالت نہیں کرتی پس جب شرکت صنائع کا عقد کیا جائے اور ان میں

سے ایک عمل قبول کرے اور دوسرا کام کرے تو یہ جائز ہے جس اسی طرح یہاں بھی جائز ہے اور اس عقد کی ضرورت ہے پس ہم نے اس کو جائز قرار دیا جیسا کہ اس اونٹ کو اجرت پر لینا جس پر ایک کجاوہ اور دوسارا لادے جائیں گے اور معاوہ کجاوہ لا داجائے گا۔ یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جہالت کی وجہ سے ناجائز ہے اور اگر متاجر کجاوہ اونٹ والے کو دکھادے تو یہ بہتر ہے اور اگر اس نے تو شے کی مقدار اٹھانے کے لیے اونٹ اجرت پر لیا پھر اس میں سے کچھ کھالیا تو اس کا عوض واپس کرے گا۔

ترتیح:

و من احرق سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے عاریت یا اجارہ پر کچھ زمین لی اور اس زمین میں گزشتہ فصل کی جڑیں موجود تھیں تو اس نے ان جڑوں کو آگ لگادی اور اس آگ کی وجہ سے پڑوں والی زمین کی فصل جل گئی تواب یہ ضامن نہ ہوگا۔ امام شمس الدائمہ سرخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے ذمے ضمان اس وقت نہ ہوگی جب ہوا پر سکون ہو البتہ اگر ہوا تیز تھی تو یہ ضامن ہوگا کیونکہ جب ہوا تیز ہو تو یہ بات معلوم ہے کہ آگ تیز ہوا کی وجہ ایک جگہ نہیں ٹھہر تی بلکہ ادھر ادھر منتقل ہو جاتی ہے تو تیز ہوا میں آگ لگانے کی صورت اس کی تعریف موجود ہے۔ لہذا یہ ضامن ہوگا۔ [البناۃ: ۱۳/۱۵۷]

فان اقعد خیاط سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی درزی یا رنگ ساز کی معروف دکان تھی اور وہ شخص بھی لوگوں کے نزدیک مشہور و معروف تھا البتہ اپنے پیشے میں ماہر نہیں تھا پھر اس نے اپنی دکان میں کسی ماہر آدمی کو کام کرنے کے لیے بھایا کہ یہ مشہور شخص لوگوں سے کام لے گا اور یہ ماہر آدمی اس کام کو کرے گا اور جو اجرت ملے گی وہ دونوں کے مابین نصف نصف ہوگی تواب یہ صورت قیاس کے لحاظ سے فائدہ ہے اور احسان کے لحاظ سے جائز ہے۔

قياسی دلیل:

لان احدهما سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ قیاسی دلیل دے رہے ہیں کہ کام کو قبول کرنے والا مشہور آدمی ہے تو کام کرنے والا نصف کے بد لے اجیر ہوا اور وہ نصف مجہول ہے کیونکہ وہ اس شئی کا نصف ہے جو اس کے عمل سے ظاہر ہوگی اور اس نے ابھی تک عمل نہیں کیا۔

[فتح القدير: ۸/۸۹]

احسانی دلیل:

و جهة ان تخصيص سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ احسانی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ عقد اجارہ نہیں ہے بلکہ شرکت صنائع یا شرکت قبل ہے جس میں عمل کی ضمان دونوں پر ہوتی ہے اور ان میں سے ایک عمل قبول کرتا ہے اور دوسرا ان پر مہارت سے کام کرتا ہے تو یہاں بھی ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ عمل قبول کرنے کی تخصیص اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ دوسرا عمل قبول نہیں کر سکتا پس جب شرکت صنائع کا عقد کیا جاتا ہے اور ان میں سے ایک عمل قبول کرتا ہے اور دوسرا کام کرتا ہے تو وہ جائز ہے اسی طرح یہ بھی جائز ہے اور اس عقد کی طرف ضرورت بھی ہے لہذا، ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ [البناۃ: ۸/۸۸]

راجح قول:

حضرات مثنیٰ رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امام طحا وی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں قیاس کو راجح قرار دیا ہے اور فرمایا ہے ”القياس عندي اولي من الاستحسان“ (کہ میرے نزدیک قیاس احسان سے اولی ہے)۔

[فتح القدير: ۸/۸۹، ۸۸، العناۃ: ۸/۸۸، البناۃ: ۱۳/۱۵۸]

اشکال:

ففی الهدایة سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ حدایہ کی عبارت پر اشکال کر رہے ہیں کہ صاحب حدایۃ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عقد کو شرکت الوجوه فرمایا ہے جب کہ اس عقد کو شرکت وجودہ کا نام دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ شرکت وجودہ یہ ہے کہ دو شخص اپنی وجاہت کے ساتھ خریدیں اور فروخت کریں اور اس عقد میں بیع و شراء نہیں ہے۔ لہذا اس کو شرکت وجودہ کا نام دینا صحیح نہیں ہے بلکہ یہ شرکت صنائع اور تقبل ہے۔

جواب:

صاحب نتائج الافکار نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ صاحب حدایۃ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس عقد کو شرکت وجودہ کا نام دیا ہے تو اس سے مراد وہ اصطلاحی شرکت وجودہ نہیں ہے جو کتاب الشرکت میں گز رچکی بلکہ اس سے مراد وہ شرکت ہے جس میں عمل کو اپنی وجاہت سے قبول کیا جائے۔

[تمکملہ فتح القدری: ۹۰/۸، حاشیہ حلہ ۹۰/۸]

کاستیجار جمل سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ پیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی سے اوٹ کرایے پر لیا تاکہ اس پر ایک کجاوہ لادے جس پر دو شخص سوار ہو سکیں تو یہ جائز ہے اور اس شخص پر ضروری ہے کہ اوٹ پر ایسا کجاوہ رکھ جو عرف میں رکھا جاتا ہے یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عقد جہالت کی وجہ سے فاسد ہے اور اگر متاجر جمال (اوٹ والا) کو کجاوہ دکھادے تو یہ بہتر ہے کیونکہ یہ جہالت کو ختم کر دے گا اور اس میں جمال کی رضاہ بھی شامل ہو جائے گی۔

نوٹ:

کاستیجار اس مسئلے کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ماقبل والے مسئلے سے تشبیہ صرف اس بات میں دی ہے کہ دونوں مسئللوں میں سے ہر ایک خلاف قیاس صحیح ہے۔

عبارت:

و من قال لغاصب ذاره فرعونها والافاجرتها كل شهر كذا فلم يفرغ فعليه المسمى لانه اذا عين الاجرة والغاصب رضى بها فانعقد بينهما عقد اجرة الا اذا حجد الغاصب ملكه و ان اقام عليه بينة من بعد فانه اذا حجد ملكه لم يكن راضيا بالاجارة مع ان المغصوب منه اقام البينة بعد جحود الغاصب انه ملكه ثم عطف على قوله الا اذا حجد قوله او اقر بالملك لم لكن قال لا اريد بهذا الاجر فانه لا يكون راضيا بالاجارة و صحت الاجارة و فسخها والمزارعة و المعاملة اى المسافة و الوكالة و الكفالة و المضاربة و القضاء والامارة اى تفويضهما والايصاء اى جعل الغير و صياغة الوصية و الطلاق و العناق و الوقف مضافة اى مضافة الى الزمان المستقبل كما يقال في المحرم اجرت هذا الدار من غرة رمضان الى سنة كذا لا البيع و اجازته و فسخه والقسمة والشركة و الهبة و النكاح و الرجعة و الصلح عن مال والبراء الدين.

ترجمہ:

اور جس نے اپنے گھر کے غصب کرنے والے کو کہا کہ تو اس کو خالی کر دے ورنہ اس کی اجرت ہر ماہ اتنی ہے پھر اس نے گھر خالی نہیں کیا تو اس کے ذمے مقررہ اجرت ہو گی اس لیے کہ جب اس نے اجرت متعین کر دی اور غاصب اس پر راضی ہے تو ان دونوں کے درمیان عقد

اجارہ منعقد ہو گیا۔ مگر یہ کہ غاصب اس کی ملک ہونے کا انکار کر دے اگرچہ مدعاً اس کے بعد اس پر گواہی قائم کر دے کیونکہ جب غاصب نے اس کی ملک ہونے کا انکار کر دیا تو وہ اجارہ پر راضی نہیں ہے باوجود یہ مخصوصہ منہ نے غاصب کے انکار کرنے کے بعد اس بات پر گواہی قائم کر دی ہو کہ یہ اس کی ملک ہے پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”الا اذا جحد“ پر اپنے اس قول کا عطف کیا ہے یا غاصب نے اس کی ملک ہونے کا اقرار کر لیا لیکن اس نے کہا کہ میں اس سے اجرت مراد نہیں لیتا کیونکہ اس وقت وہ اجارہ پر راضی نہیں ہے اور اجارہ اور اس کو فتح کرنا اور مزارعہ اور معاملت یعنی مساقاة اور وکالت اور کفالۃ اور مضارب اور قضاء اور امارت یعنی ان دونوں کو حوالے کرنا اور ایصاء یعنی غیر کو صی بنانا اور وصیت اور طلاق اور وقف صحیح ہے دراں حالکہ یہ زمانہ مستقبل کی طرف منسوب ہوں جیسا کہ ”محرم“ میں کہا جائے میں نے یہ گھر ”رمضان“ کے مہینے سے اتنے سال تک اجارہ پر دے دیا ہے فتح اور اس کی اجازت اور اس کو فتح کرنا اور قسمت اور شرکت اور ہبہ اور نکاح اور جمعت اور مال کی طرف سے صلح کرنا اور دین سے بری کرنا۔

ترجمہ:

و من قال لغاصب سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی کا گھر غصب کر لیا پھر مخصوصہ منہ نے غاصب سے کہا کہ تو اس گھر کو خالی کر دے وہ نہیں تیرے ذمے ہے ہر ماہ کی اجرت ہزار روپے ہوگی چنانچہ غاصب نے گھر خالی نہیں کیا تو اس کے ذمے طے شدہ اجرت ہوگی کیونکہ جب مخصوصہ منہ نے اجرت کو میں کر دیا چنان چہ غاصب اس پر راضی ہے تو ان کے مابین عقد اجارہ منعقد ہو گیا۔ لہذا غاصب کے ذمے ہر ماہ کی مقرہ اجرت ہوگی البتہ اگر غاصب نے مخصوصہ منہ کی ملک ہونے کا انکار کیا اور مخصوصہ منہ نے اپنی ملک ہونے پر گواہی قائم کر دی تو اس صورت میں غاصب کے ذمہ ہر ماہ کی اجرت نہ ہوگی کیونکہ وہ اجارہ پر راضی نہیں ہے اسی لیے مخصوصہ منہ کی ملکیت ہونے کا انکار کر رہا ہے اور اسی طرح اگر غاصب نے مخصوصہ منہ کی ملکیت کا اقرار کر لیا لیکن اس نے کہا کہ میرے اس اقرار کرنے سے اجرت مراد نہیں ہے تو اس صورت میں غاصب کے ذمے ہر ماہ کی اجرت نہ ہوگی۔

و صحت الاجارة سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان عقود کا ذکر کر رہے ہیں جن کا منعقد ہونا اور فتح ہونا زمانہ مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے صحیح ہے جیسا کہ کسی نے یوں کہا کہ ”اجرت هذه الدار من غرة رمضان الى سنة كذا“ (میں نے یہ گھر رمضان کے مہینے سے اتنے سال تک کرانے پر دیا) اور یہ بات اس نے شعبان کے ماہ میں کی ہے تھی حکم مزارعہ کا ہے۔ مزارعہ سے مراد یہ ہے کہ زمین پر کام کرنے کے لیے ہاری رکھے جائیں کو نصف پیداوار ان کی ہوگی اور یہی حکم معاملت کا ہے، معاملت سے مراد یہ ہے کہ باغ کی رکھوالی کے لیے کسی شخص کو رکھا گیا اور پھلوں میں سے اس کا حصہ بطور اجرت طے کیا گیا اور یہی حکم وکالت اور کفالۃ اور مضارب اور قضاء اور امارت کا ہے قضاء اور امارت سے مراد ان دونوں کو کسی کے پر کرنا زمانہ مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے صحیح ہے اور یہی حکم ایصاء یعنی کسی کو صی بنانے کا ہے اور وصیت اور طلاق اور وقف اور عتقاٹ کا بھی یہی حکم ہے یعنی زمانہ مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ عقود صحیح ہیں۔ لا البيع و اجازته سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان عقود کو بیان کر رہے ہیں جن کا منعقد ہونا زمانہ مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے صحیح نہیں ہے جیسے بیع اور قسمت (تقسیم کرنا) اور شرکت اور ہبہ اور نکاح اور جمعت اور مال کی طرف سے صلح کرنا اور دین سے بُری کرنا یہ تمام عقود ایسے ہیں جن کی نسبت زمانہ کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ایسے عقد ہیں جن میں تملیک کا معنی پایا جاتا ہے اور ان کو فی الحال واقع کرنا ممکن ہے تو زمانہ مستقبل کی طرف اضافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے برخلاف پہلی قسم والے عقود کے ہے کیونکہ ان کو فی الحال واقع کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے ان کی اضافت کرنا صحیح ہے۔

كتاب الاكراء

كتاب الاكراء سے قبل چند باتیں بطور تمهید جان لیں۔

لغوی معنی:

اکراه کا لغوی معنی یہ ہے کہ انسان کو ایسے کام پر مجبور کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔

شرعی معنی:

اکراه کے شرعی معنی کا ذکر کتاب میں آئے گا، ان شاء اللہ۔

رکن:

اس کا رکن وہ الفاظ ہیں جو اکراه کا فائدہ دیں۔

دلیل:

اس کی دلیل کتاب اللہ سے ”الامن اکره“ و ”آیت ہے اور احادیث مبارکہ میں سے یہ حدیث ہے کہ ”ایک مرتبہ حضرت صفوان الطائی اپنی بیوی کے ساتھ آرام فرمائے تھے کہ ان کی بیوی نے چھری اٹھائی اور ان کے سینے پر بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ میں تجھے ذمہ کر دوں گی مگر یہ کہ تو مجھے طلاق دے دے پھر حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اس کو طلاق دے دی اور یہ بات آپ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”لا اقالة في الطلاق“ (کہ طلاق میں اقالہ نہیں ہے) یعنی یہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔

شروط:

اکراه کی شرائط کا ذکر کتاب میں آئے گا۔ ان شاء اللہ۔

عبارت:

هو فعل يقع المكره بغيره فيفوت به رضاه او يفسد اختياره معبقاء الahlية يقال اوقع فلان بفلان ما يسوئه ثم الاكراء نوعان احدهما ان يكون مفوتاً للرضى و هو ان يكون بالحبس او الضرب و الثاني ان يكون مفسداً لاختياره و هو ان يكون التهديد بالقتل او قطع العضو ففوت الرضاe اعم من فساد الاختيار ففي الحبس و الضرب يفوت الرضاe و لكن الاختيار الصحيح باق و في القتل لا رضا و لكن له اختيار غير صحيح بل اختيار فاسد و تحقيقه ان الرضاe في مقابلة الكراهة و الاختيار في مقابلة الجبر ففي الاكراء بالحبس او الضرب لا شك ان الكراهة موجودة فالرضى معدوم لكن الاختيار متحقق مع وصف الصحة فان الاختيار انما يفسد في مقابلة تلف النفس او العضو فان كل امر فيه هلاك احدهما فالامتناع عنه مجبول في طبيعة جميع الحيوانات الا ترى ان

القوة الماسكة كيف تمسك الانسان بل جميع الحيوانات عن الهوى من المكان العالى و من الالقاء فى النار عند مظنة التلف فالامتناع عنه و ان كان اختيارياً فهو اختيار صورة قريب من الجبر فكذا فى الاكراء عند خوف تلف النفس او العضو اختيار الامتناع عما فيه مظنة التلف اختيار فاسد لأن الانسان عليه مجبور من حيث ان الطبع عليه مجبول و مع ذلك الاهلية باقية في الملجي وغير الملجي لتحقيق العقل و البلوغ .

تہجی

اکراہ ایسا فعل ہے جو مکرہ آدمی کسی غیر پر واقع کرتا ہے چنانچہ اکراہ کی وجہ سے اس کی رضامندی فوت ہو جاتی ہے یا اس کا اختیار الہیت کے باقی رہنے کے باوجود فاسد ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے فلاں نے فلاں پر وہ شیٰ واقع کی جو اس کو بری تھی پھر اکراہ دو قسم پر ہے ان دونوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رضامندی کوفوت کر دے اور وہ یہ ہے کہ اکراہ قید کرنے یا مارنے کے ساتھ ہو اور دوسرا قسم یہ ہے کہ وہ اس کے اختیار کو فاسد کرے اور وہ یہ ہے کہ قتل کرنے یا عضو کاٹنے کے ساتھ ڈرانا ہو لبڑا رضاء مندی کافوت ہونا اختیار فاسد ہونے سے اعم ہے، پس قید کرنے اور مارنے میں رضاء مندی فوت ہو گی لیکن اختیار صحیح باقی رہے گا اور قتل کی صورت میں رضامندی نہیں ہے لیکن اس کا اختیار غیر صحیح ہے بلکہ اختیار فاسد ہے اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ رضاء مندی کراہت کے مقابلے میں ہے اور اختیار جبر کے مقابلے میں ہے، پس قید کرنے یا مارنے کے اکراہ کی صورت میں اس بات میں شک نہیں ہے کہ کراہت موجود ہے اور رضامندی معدوم ہے لیکن اختیار صحیح کے وصف کے ساتھ تحقیق ہے کیونکہ اختیار سوائے اس کے نہیں کہ نفس یا عضو کے تلف ہونے کے مقابلے میں فاسد ہوتا ہے پس ہر وہ امر جس میں ان دونوں میں سے ایک کا ہلاک ہونا ہے تو اس امر سے رکنا تمام حیوانات کی طبیعت میں پیدا کیا گیا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وقت ماسکہ کس طرح انسان کو روکتی ہے بلکہ تمام حیوانات کو بلند جگہ سے گرنے سے اور آگ میں ڈالے جانے سے روکتی ہے ہلاکت کے گمان ہونے کے وقت لہذا اس سے رکنا اگرچہ اختیاری ہے تو وہ صورۃ اختیار ہے جو جبر کے قریب ہے پس اس طرح اکراہ میں نفس یا عضو کے ہلاک ہونے کے خوف کی وقت اس کام سے رکنے کا اختیار جس میں ہلاکت کا گمان ہوا اختیار فاسد ہے۔ اس لیے کہ انسان اس پر پیدا کیا گیا ہے، اس حیثیت سے کہ طبیعت اس پر پیدا کی گئی ہے اور اس کے باوجود یہ الہیت ملکی اور غیر ملکی میں عقل اور بلوغ کے ثابت ہونے کی وجہ سے باقی ہے۔

تشریح:

.....ہو فعل یو قع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ”اکراہ“ کی شرعی تعریف بیان کر رہے ہیں۔

اکراہ کی تعریف شرعی:

اکراہ ایسا فعل ہے جس کو مکرہ (مجبور کرنے والا) کسی دوسرے شخص پر واقع کرتا ہے اور دوسرے شخص کی اس فعل میں رضا مندی فوت ہو جاتی ہے یا رضا مندی کے فوت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اختیار بھی فوت ہو جاتا ہے لیکن مکرہ (مجبور شدہ شخص) کی الہیت باقی رہتی ہے کیونکہ الہیت اور مکلف ہونے کا مدار عقلمند ہونے اور بالغ ہونے پر ہے اور وہ دونوں اکراہ کے باوجود موجود ہیں لہذا یہ شخص احکام شروع کا اہل اور مکلف ہو گا۔

اکراہ کی قسمیں:

تم الاکراه سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ "اکراہ" کی دو تسمیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی تسمیہ یہ ہے کہ اکراہ قید

کرنے یا مارنے کے ساتھ ہو جیسے ایک شخص نے دوسرے شخص کو کسی کام پر مجبور کیا کہ یہ کام کرو ورنہ تم کو قید کرلوں گایا کوڑے ماروں گا تو اب اس صورت میں مکرہ کو اس کام کرنے یا بانہ کرنے کا اختیار ہے لیکن کام نہ کرنے میں اس کی رضامندی ہے اور کام کرنے میں اس کی رضامندی نہیں ہے البتہ اختیار دونوں صورتوں میں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اکراہ قتل کرنے یا عوضوضائع کرنے کے ساتھ ہو جیسے ایک شخص نے دوسرے کو کسی کام پر مجبور کیا کہ یہ کام کرو ورنہ تم کو قتل کردوں گا یا تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا تو اب اس صورت میں مکرہ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ یہ کام نہ کرے اور نہ ہی کام کرنے میں رضامندی ہے لہذا اختیار اور رضاء دونوں نہیں ہیں چنانچہ رضاء مندی دونوں قسموں میں نہیں ہے۔ لہذا رضامندی اختیار سے عام ہے کیونکہ پہلی قسم (جس میں قید یا کوڑے مارنے سے اکراہ تھا) میں رضاء مندی نہیں ہے لیکن اختیار باقی تھا کہ وہ اس کام کو نہ کرے اور دوسری قسم (جس میں قتل یا تلف عضو کے ساتھ اکراہ تھا) میں رضاء مندی نہیں ہے اور اس کا اختیار بھی فاسد ہے یعنی ظاہری لحاظ سے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کام کو نہ کرے اور قتل ہو جائے لیکن چونکہ قتل ہونا طبیعت کے منافی ہے اس لیے معنی اختیار نہیں ہے۔ پہلی قسم کا نام ”اکراہ غیر ملکی“ اور دوسری قسم کا نام ”اکراہ بھی“ ہے جیسا کہ یہ بات گز رچکی کہ پہلی قسم میں اختیار صحیح تھا اور دوسری قسم میں اختیار فاسد ہے۔

فرق:

تحقیقہ ان الرضاء..... سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اختیار صحیح اور اختیار فاسد مابین فرق بیان کر رہے ہیں کہ رضاء مندی کی ضد کراہت (ناپسندیدگی) ہے اور اختیار کی ضد جبر (زبردستی) ہے چنانچہ جب رضاء مندی کی ضد کراہت ہے تو قسم اول میں کراہت موجود ہے جب کراہت موجود ہے تو رضاء مندی نہ ہو گی البتہ اختیار باقی رہے گا اور صحیح ہو گا کیوں کہ اختیار اس وقت فاسد ہوتا ہے جب اکراہ قتل یا تلف عضو کے ساتھ ہواں لیے کہ وہ کام جس کو کرنے کی صورت میں قتل ہونا پڑے یا عوضوضائع ہو جائے تو ایسے کام سے رکنا تمام حیوانات کی طبیعت میں سے ہے اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ ”وقت ماسکہ“ جوانان اور تمام حیوانات میں ہوتی ہے وہ جاندار کو بلند جگہ سے گرنے سے اور آگ میں داخل ہونے سے جب کہ ہلاکت کا خوف ہو تو یہ قوت روکتی ہے تو بلند جگہ سے گرنے سے رکنا اور آگ میں داخل ہونے سے رکنا اگرچہ اختیاری ہے لیکن یہ اختیار صورت ہے اور حقیقت میں جاندار کی طبیعت اس کو رکنے پر مجبور کرتی ہے تو اسی طرح اکراہ میں بھی جب جان یا عضو کا خوف ہو تو ہلاکت والے کام سے رکنا اختیار فاسد ہے اس لیے کہ انسان کی طبیعت اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ہلاکت والے کام سے بچ کیونکہ انسانی طبیعت کو سلامتی محبوب ہے اور آخر میں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ اکراہ کی پہلی قسم ہو یا دوسری قسم ہو دونوں قسموں میں مکرہ احکام شرع کا اہل اور مکلف رہتا ہے کیونکہ یہ بالغ بھی ہے اور عاقل بھی ہے اور اہل اور مکلف ہونے کے لیے یہ دونوں باتیں شرط ہیں جو اس میں موجود ہیں اور شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس سے مقصود یہ ہے کہ اکراہ خواہ کسی قسم کا ہوا ہیئت کو ختم نہیں کرتا۔ لہذا اس پر حرام ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے یا ذا کہ ڈالے یا زنا کرے اور ان کاموں سے رکنا فرض ہے اور رکنے کی صورت میں اس کو ثواب ملے گا اور اس کو کلمہ کفر کہنا اور مردار کھانا مباح ہے لہذا کچھ احکامات کا حرام اور فرض ہونا اور کچھ کام مباح ہونا احکام شرع کے اہل اور مکلف ہونے کی دلیل ہے۔

عبارت:

و شرطہ قدرة المکرہ علی ایقاع ما یهدده به سلطاناً کان او لصا۔ روی عن ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ ان الاکراہ لا یتحقق الا من السلطان فکان قال ذلک بناء على ما كان واقعاً في عصره۔ و خوف المکرہ ایقاعه ای

يغلب على ظنه ان المكره يوقعه. و كون المكره به مختلفاً نفساً أو عضواً أو موجباً عما ي عدم الرضاه اعلم ان هذا يختلف باختلاف الناس فان الاراذل ربما لا يعتنون بالضرب والحبس فالضرب اللين لا يكون اكرهاها في حقهم بل الضرب المبرح و كذا الحبس الا ان يكون حبسآً مديداً يتضجر منه والاشراف يعتنون بكلام فيه خشونة فمثل هذا يكون اكرها لهم و المكره ممتنعاً عما اكره عليه قبله لحقه كبيع ماله او اتلافه او اعتاق عبده او لحق اخر كاتلاف مال الغير او لحق الشرع كشرب الخمر و الزنا .

ترجمہ:

اور اکراہ کی شرط مکرہ کا اس شیئ پر قادر ہونا جس سے اس نے دھکایا ہے مکرہ بادشاہ ہو یا چور ہو امام ابوحنیفر رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اکراہ بادشاہ سے ہی ثابت ہوتا ہے گویا کہ انہوں نے یہ بات اس بناء پر کہی جوان کے زمانے میں واقع تھی اور مکرہ کا اس کے واقع کرنے سے ڈرنا یعنی اس کا غالب گمان ہو کر مکرہ اس کو واقع کرے گا اور مکرہ بہ نفس یا عضو کو ضائع کرنے والا ہو یا ایسے غم کو غائب کرے جو رضاہ مندی کو معدوم کر دے تو جان لے کہ یہ لوگوں کے بدلتا ہے کیونکہ گھٹیا لوگ مارکھانے اور قید ہونے کی پر انہیں کرتے۔ لہذا بلکہ ماران کے حق میں اکراہ شمارہ ہو گی بلکہ سخت مارا کراہ شمارہ ہو گی اور اسی طرح قید کرنا مگر یہ کی قید لمبی ہو جس سے ڈر اجاتا ہو اور شریف لوگ ایسے کلام کی بھی پرواہ کرتے ہیں جس میں سختی ہو لہذا اس کی مثال ان کے حق میں اکراہ شمارہ ہو گی اور مکرہ اس کام سے جس پر اس کو مجبور کیا گیا ہے اکراہ سے قبل رکنے والا ہوا پنے حق کی وجہ سے جیسے اپنے مال کو بیچنا یا اس کو ضائع کرنا یا اپنے غلام کو آزاد کرنا یا دوسرا کے حق کی وجہ سے جیسے غیر کے مال کو ضائع کرنا یا شریعت کے حق کی وجہ سے جیسے شراب پینا یا زنا کرنا۔

ترجمہ:

نصف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عبارت میں اکراہ کی چار شرائط کو بیان کیا ہے جن کے ساتھ اکراہ معتبر ہوتا ہے۔

اکراہ کی شرائط:

پہلی شرط "قدرة المكره على سے بیان کی ہے کہ مکرہ اس شیئ کے واقع کرنے پر قادر ہو جس شیئ سے اس نے ڈرایا اور دھمکایا ہے خواہ مکرہ بادشاہ ہو یا چور ہو یا صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا نام ہب ہے اور امام ابوحنیفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکراہ صرف بادشاہ سے متفق ہو گا بلکن یا اختلاف حقیقی نہیں ہے بلکہ زمانی ہے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں طاقت اور قوت صرف بادشاہ کو حاصل تھی اور اکراہ کا مداری قوت پر ہے۔ لہذا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اکراہ صرف بادشاہ سے متفق ہوتا تھا جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہر مفسد کو قوت حاصل تھی۔ لہذا انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے فتویٰ دیا۔ [بحralاٹق/۸، شامی ۶/۱۲۹]

راجح قول:

مشائخ رحمہما اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔

[شامی ۶/۱۲۹، بحرالاٹق/۸، شامی ۳/۲۷، حدیث: ۵/۳۵]

دوسری شرط "خوف المكره سے بیان کی ہے کہ جس شخص پر اکراہ کیا گیا ہے اس کو اس بات کا غالب گمان ہو کر مکرہ اس دھمکی کو واقع کر سکتا ہے۔ لہذا اگر مکرہ کو اس بات کا غالب گمان نہیں ہے تو شخص مکرہ شمارہ ہو گا۔

تیسرا شرط کون المكره بہ سے بیان کی ہے کہ مکرہ بہ نفس یا عضو کو ہلاک کرنا ہو جس کی وجہ سے رضاہ مندی نہ رہے اور

اختیار فاسد ہو جائے۔ یا اس کی وجہ سے ایسا غم ثابت ہو جو رضا مندی کو ختم کر دے اور اختیار صحیح کو باقی رہنے دے۔ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکرہ بے لوگوں کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ چنانچہ گھٹیا قسم کے لوگ جو مارکھانے اور قید رہنے کی پراہنیں کرتے تو ان کے حق میں ہلکی مار اور تھوڑی سے قید اکراہ شمارہ ہوگی بلکہ شدید مار اور لمبی قید اکراہ شمارہ ہوگی اور شریف لوگ جو ایسے کلام کی پراہ کرتے ہوں جس میں سختی ہوتا ان کے حق میں ایسا کلام بھی اکراہ شمارہ ہوگا۔

چو تھی شرط و المکرہ ممتنعا..... سے بیان کی ہے کہ ”مکرہ علیہ“ ایسا کام ہو جس سے مکرہ اکراہ سے قبل پیچتا ہو خواہ اپنے حق کی وجہ سے جیسے اپنے ماں کو پیچانا یا اپنے ماں کو ضائع کرنا یا اپنے غلام کو آزاد کرنا یا دوسروے کے حق کی وجہ سے پیچتا ہو جیسے غیر کامال ضائع کرنا یا پھر شرع کے حق کی وجہ سے پیچتا ہو جیسے شراب پینا اور زنا کرنا۔

عمرات:

فلو اكره بقتل او بضرب شديد او حبس حتى باع او اشتري او اقراو اجر فسخ او امضى فان هذه العقود
يشترط فيها الرضى فالاكره الذى يعدم الرضى وهو غير الملتجى يمنع نفاذها لكنها تعتقد و له الخيار فى
الفسخ والامضاء ويملكه المشتري ان قبض فيصح اعتاقه و لزمه قيمته لان بيع المكره عندنا بيع فاسد لان
ركن البيع صدر من اهله فى محله و الفساد لفوات الوصف وهو الرضا و المبيع بيعاً فاسداً يملك بالقبض
فلو قبض و اعتقد او تصرف تصرف لا تنقض ينفذ عندنا خلافاً لزفر رحمة الله تعالى اذ هو عنده بيع موقوف
والموقف قبل الاجازة لا يفيد الملك فان قبض ثمنه او سلم طوعاً نفذ و ان قبضه مكرهاً لا ورده ان بقى لم
يذكر فى الهدایة حكم التسلیم مكرهاً لكن ذكر فى اصول الفقة ان لا اكره اذا كان على البيع و التسلیم يكون
التسلیم مقتضياً على الفاعل و لم يجعل الفاعل الله للحاملي فى التسلیم لانه حمله على تسلیم المبيع ولو جعل
الله له تصير تسلیم المغصوب فاذا كان التسلیم مقتضاً على الفاعل ينفي ان ينفذ ويجب القيمة فان قلت
يسکل لقبض الشمن فان الفاعل لا يمكن ان يكون الله فيه و مع ذلك لا ينفذ فيه قلت لا يلزم ه هنا من جعله آلة
تغير الفعل الذى اكره عليه بخلاف تسلیم المبيع.

٢٣

چنانچہ اگر کسی کو قتل یا ساخت مار یا قید کرنے کی حکم کی کے ساتھ مجبور کیا گیا یہاں تک کہ اس نے شئی بیچ دی یا خرید لی یا اقرار کر لیا ایسا جرأت پر دے دی تو اس کو فتح کر دے یا باقی رکھے کیونکہ ان عقود میں رضامندی شرط ہے، پس وہ اکراہ جو رضامندی کو ختم کرتا ہے وہ ”اکراہ غیر صحی“ ہے جو کہ عقود کے نفاذ کو روکتا ہے لیکن یہ عقود منعقد ہو جاتے ہیں اور مکرہ کو فتح کرنے اور باقی رکھنے میں خیار رہتا ہے اور مشتری اس کا مالک بن جائے گا اگر اس نے قبضہ کر لیا چنانچہ اس کا آزاد کرنا صحیح ہے اور اس کو اس کی قیمت لازم ہو گی اس لیے کہ مکرہ کی بیع ہمارے نزدیک بیع فاسد ہے کیوں کہ بیع کارکن اس کے اہل سے اس کے محل میں صادر ہوا ہے اور فساد و صرف کے فوت ہونے کی وجہ سے ہے اور وہ رضامندی ہے اور وہ شئی جو بیع فاسد کے ساتھ فروخت کی گئی ہو اس کا قبضے کے ساتھ مالک بن جا سکتا ہے۔ لہذا اگر اس نے قبضہ کر لیا اور آزاد کر دیا یا ایسا تصرف کیا جو ختم نہیں ہو سکتا تو ہمارے نزدیک یہ تصرف نافذ ہو جائے گا یہ امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے برخلاف ہے اس لیے کہ ان کے مزدیک یہ بیع موقوف ہے اور بیع موقوف اجازت سے قبل ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی پھر اگر مکرہ نے رضاء مندی کے ساتھ اس کے متن پر

قبضہ کر لیا یا اس کو حوالے کر دیا تو یہ نافذ ہو گا اور اگر بردستی قبضہ کیا تو یہ منعقد نہیں ہو گا اور اگر باقی ہو تو اس کو واپس کرے گا ”حدایہ“ میں بردستی حوالے کرنے کا حکم ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن اصول فقہ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر اہم جب بیع اور قبضہ دینے پر ہوتے قبضہ دینا فاعل پر بندراہتا ہے اور فاعل کو قبضہ دینے پر ابھارنے والے کا آلم نہیں بنایا جاتا اس لیے کہ اس نے مکرہ کو بیع کے حوالے کرنے پر مجبور کیا ہے اور اگر فاعل کو اس کا آلم بنایا جائے تو یہ مخصوص ب کو حوالے کرنا شمار ہو گا پس جب قبضہ دینا فاعل پر بند ہے تو مناسب یہ ہے کہ عقد نافذ ہو جائے اور قیمت واجب ہو جائے پھر اگر تو یہ کہہ کر شمن پر قبضہ کرنے سے اشکال کیا جاسکتا ہے کیونکہ فاعل کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس میں آلمہ بننے اور اس کے باوجود عقد اس میں نافذ نہ ہو گا تو میں یہ کہوں گا کہ فاعل کو یہاں آلمہ بنانے سے اس فعل کا بدلا جس پر مجبور کیا گیا ہے لازم نہیں آئے گا۔ برخلاف بیع کو حوالے کرنے کے ہے۔

شروع:

اکراہ کبھی حقوق اللہ میں ہوتا ہے اور کبھی حقوق العباد میں ہوتا ہے چنانچہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو مقدم کرتے ہوئے فرمایا لے ماما اکرہ بقتل کہ اگر ایک شخص کو کسی نے شی فروخت کرنے یا خریدنے یا اجارہ پر دینے یا ہزار روپے کا اقرار کرنے پر مجبور کیا اور اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی جو کہ اکراہ بھی ہے یا شدید مارنے یا لماقید کرنے کی دھمکی دی جو کہ اکراہ غیر بھی ہے اور اس شخص نے یہ کام کر دیا تو اس کو اختیار ہو گا چاہے تو ان کو باقی رکھے چاہے تو ان کو فتح کر دے کیونکہ یہ عقود ایسے ہیں جن میں رضامندی شرط ہے اور اکراہ خواہ دونوں قسموں میں سے کوئی بھی ہو رضامندی کو ختم کرتا ہے جب رضامندی نہیں ہے تو یہ عقود نافذ نہ ہوں گے۔ البتہ منعقد ہو جائیں گے لیکن مکرہ کو اس کے بعد باقی رکھنے اور فتح کرنے کے درمیان خیار ملے گا۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تسامح:

فلا کراہ الذی یعدم اس عبارت میں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تاسع ہوا ہے اور اس تاسع مجھ کو امام ابن الکمال رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ بات گزرچکی ہے کہ اکراہ کی دونوں قسمیں مکرہ کی رضاۓ مندی کو ختم کرتی ہیں اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ”فلو اکرہ بقتل او بضرب“ کی عبارت سے دونوں قسموں کی طرف اشارہ فرمایا تھا جس کی تشریع میں بندہ نے صراحت کر دی ہے ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت ”فلا کراہ الذی تاسع یعنی ہے کیونکہ جب اکراہ کی دونوں قسمیں رضاۓ مندی کو ختم کرتیں ہیں تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ”وہ اکراہ جو رضاۓ مندی کو ختم کرے وہ غیر بھی ہے“ کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ [شامی: ۶۰/۱۳۰]

و یملکہ المشتری سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب مکرہ نے اپنی شی فروخت کر دی اور مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا تو وہ اس شی کا مالک بن جائے گا اب اگر وہ میتح غلام ہو تو مشتری کا اس کو آزاد کرنا صحیح ہے اور مشتری کو اس میتح کی قیمت بھی لازم ہوگی یہ ہمارے نزدیک ہے جب کہ امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشتری کے قبضہ کرنے سے ملک ثابت نہ ہوگی۔

احناف کی دلیل:

لان بیع المکرہ سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ہماری دلیل دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک مکرہ کی بیع فاسد اور منعقد ہے، منعقد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مکرہ عاقل اور بالغ ہے۔ لہذا وہ بیع کا اہل ہے اور بیع بیع کا محل ہے چنان چہ یہ بیع اپنے اہل سے اپنے محل میں صادر ہوئی ہے یہ بیع منعقد ہوگی۔ رہی یہ بات کہ یہ بیع فاسد ہے تو یہ فساد رضاء مندی نہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ بیع میں رضا مندی شرط اور وصف ہے اور شرط اور وصف نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہوگئی ہے اور بیع فاسد میں بیع پر اگر مشتری تقبہ کرے اور اس میں تصرف کرے

تو اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر مشتری نے قبضہ کر لیا اور غلام کو آزاد کر دیا یا بیع میں اسی تصرف کر دیا جو ختم نہیں ہو سکتا تو یہ بیع نافذ ہو جائے گی۔
[العنایہ: ۱۶۹/۸]

امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

اذ هو عنده سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں ان کے نزدیک قبضہ کرنے سے ملکیت ثابت نہیں ہو گئی کیونکہ ان کے نزدیک یہ بیع مکرہ کی اجازت پر موقوف ہے اور جو بیع موقوف ہوتی ہے وہ اجازت سے قبل قبضہ کرنے کی صورت میں ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی۔
[العنایہ: ۱۲۹/۸]

فان قبضہ ثمنہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کو اس کی شئی فروخت کرنے پر مجبور کیا اور مکرہ نے وہ شئی فروخت کر دی اور اس کے شن پر رضا مندی کے ساتھ قبضہ کر لیا تو یہ بیع نافذ ہو جائے گی اور اگر اس نے شن پر بغیر رضا مندی کے قبضہ کیا تو یہ بیع منعقد نہ ہو گی اور اگر شن باقی رہے تو اس کو واپس کر دے گا اور اسی طرح اگر ایک شخص کو کسی شئی کے فروخت کرنے اور اس شئی کو مشتری کے حوالے کرنے پر مجبور کیا گیا اور مکرہ نے وہ شئی رضا مندی کے ساتھ مشتری کے حوالے کر دی تو یہ بیع نافذ ہو گی اور اگر رضا مندی کے بغیر حوالے کی تو ہمارے نزدیک مشتری کی ملکیت ثابت ہو جائے گی جب کہ امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملکیت ثابت نہ ہو گی۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تابع:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ”لَمْ يُذْكُرْ فِي الْهَدِيهِ حُكْمُ التَّسْلِيمِ مَكْرُهًا كَهَدَايَهِ مِنْ زِرْ دَسْتِ بَيْعِ حَوَالَى كَرْنَهُ كَحَمْمِ نَذْرِ“
نہیں ہے لیکن علامہ یوسف چلپی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هدایہ میں یہ مسئلہ اس مذکورہ مسئلے سے قبل مذکور ہے اور یہ عبارت ہے۔ ”ثُمَّ إِذَا بَاعَ مَكْرُهًا وَ سَلَمَ مَكْرُهًا يَبْثِتْ بِهِ الْمُلْكُ عِنْدَنَا“ لہذا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ مسئلہ هدایہ میں مذکور نہیں ہے یہ درست نہیں ہے۔
[ذخیرۃ العقیل ۵۳۷]

لکن ذکر فی اصول الفقه ماقول میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ جب ایک شخص کو کسی شئی کے فروخت کرنے اور حوالے کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے شئی فروخت اور حوالے کر دی تو ہمارے نزدیک یہ بیع نافذ ہو جائے گی اور مشتری کی ملک بھی ثابت ہو گی اب لکن ذکر فی اصول الفقه سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اسی بات کی دلیل اصول فتنہ کے ایک اصول سے دے رہے ہیں اور یہاں ”أصول الفتنہ“ سے مراد شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ”توضیح“ ہے لہذا اس مذکورہ عبارت کو سمجھنے سے قبل اس اصول کی تفصیل جان لینا ضروری ہے۔

اصول:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”توضیح“ میں ذکر کیا ہے کہ افعال کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ان افعال کی ہے جن میں اس کا احتمال نہیں ہوتا کہ فعل کرنے والے کو مکرہ (مجبور کرنے والا) کا آله بنایا جاسکے اور دوسری قسم ان افعال کی ہے جن میں اس کا احتمال ہوتا ہے کہ فعل کرنے والے کو مکرہ کا آله بنایا جاسکے اس اصول کی وضاحت علامہ تقاضانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”تلویع“ میں یوں کی ہے کہ پہلی قسم والے افعال جن میں فاعل کو مکرہ کا آله نہ بنایا جاسکے تو ایسے افعال فاعل پر بند رہتے ہیں لہذا ان افعال کے احکامات فاعل پر لاحق ہوں گے مکرہ پر لاحق نہ ہوں گے جیسے الا کل (کھانا) الشرب (پینا) کا گراہیک روزے دار نے دوسرے روزے دار کو کھانے اور پینے پر مجبور کیا تو فاعل (کھانے اور پینے والا) کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور مکرہ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

اور دوسری قسم والے افعال جن میں فاعل کو مکرہ کے لیے آله بنایا جاسکتا ہے تو ان افعال کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان افعال کی ہے جن میں فاعل کو مکرہ کے لیے آله بنانے سے محل جنایت کو بدلنا لازم آئے یعنی جو کام فاعل نے کیا ہے اس کا آله مکرہ کو بنادیا جائے تو وہ کام مکرہ کے لیے بدل جائے کہ وہی کام فاعل کے لیے دوسری حیثیت رکھتا ہو مکرہ کو آله بنانے کی صورت میں اس فعل کی حیثیت بدل جائے تو اس قسم میں فعل فاعل پر بذری ہے گا اور مکرہ کے ساتھ متعلق نہ ہو گا اور اگر مکرہ کو فاعل کا آله بنانے سے محل جنایت کے ساتھ فعل بھی بدل جائے تو اس صورت میں فعل فاعل پر بذری ہے گا اور مکرہ سے متعلق نہ ہو گا۔

جیسے کسی کوششی فروخت کرنے اور حوالے کرنے پر مجبور کیا گیا تو یہ بیع نافذ ہو جائے گی اور اس بیع کی مکرہ کی طرف نسبت نہ کی جائے گی کیونکہ اگر مکرہ کی طرف بیع کی نسبت کی گئی اور فاعل کے حق میں یہ فعل "بیع" اور وہ شیء "بیع" تھی لیکن جب فاعل کو آله بنایا جائے تو یہی فعل "غصب" اور وہ شیء مخصوص بنا جائے گی۔ کیونکہ مکرہ کو آله بنانے کی صورت میں مکرہ کا تصرف غیر کے مال میں اس کی بلا اجازت تصرف کرنا غصب ہے اور اگر فاعل کو آله نہ بنایا جائے تو فاعل کا اپنی شیء میں تصرف ہو گا لہذا یہ بیع ہو گی اور مشتری اس کا مالک بن جائے گا۔ [وفی تفصیل ذکور فی ذخیرۃ الفقی ۵۳۸]

اس مذکورہ اصول کو جانے کے بعد شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت "ان اکراه اذا..... ینبغی ان ینفذ و یجب القيمة تک واضح ہو گئی ہے۔

اعتراض:

فان قلت يشكل سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں جس کی تقریر یہ ہے کہ ما قبل میں اصول فقه کی عبارت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جب کسی کو بیع کرنے اور حوالے کرنے پر مجبور کیا گیا تو یہ حوالے کرنا فاعل پر بذری ہے گا اور فاعل کو مکرہ کے لیے آلنہیں بنایا جائے گا اب اس پر یہ شکال ہوا کہ جب باائع نے جو مکرہ ہے شیء کو فروخت اور حوالے کر دیا اور اس کا ششن لے لیا تو اب اگر شمن لینے کی نسبت باائع کی طرف کی جائے اور مکرہ کی طرف نسبت نہ کی جائے تو اس بیع کو صحیح اور نافذ ہونا چاہیے اور اگر شمن لینے کی نسبت مکرہ کی طرف کی جائے تو یہ ماقبل والی عبارت (کہ جب اکراه بیع اور حوالے کرنے پر ہو تو حوالے کرنے فاعل پر بذری ہتا) معارض ہو گی کہ بیع کو حوالے کرنے کے بارے میں فاعل مکرہ کا آلنہیں ہے اور شمن لینے کے بارے میں فاعل مکرہ کا آله ہے۔

جواب:

قلت لا يلزم هنا سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جس کی تقریر یہ ہے کہ اس عقد میں دو اشیاء الگ الگ ہیں۔ ایک بیع کو حوالے کرنا اور دوسری شمن پر قضہ کرنا اب ہم نے شمن پر قضہ کرنے کے بارے میں فاعل کو مکرہ کا آله بنایا ہے اور فاعل کو اس کا آله بنانے سے فعل مکرہ علیہ میں تبدیلی نہیں آتی اور بیع حوالے کرنے کے بارے میں فاعل کو مکرہ کا آلنہیں بنایا کیونکہ فاعل کو اس کا آله بنانے کی صورت میں فعل مکرہ علیہ تبدیل ہو جاتا اس لیے کہ فعل مکرہ علیہ بیع ہے اور فاعل کو آله بنانے کی صورت میں یہ فعل غصب بن جاتا اس وجہ سے ہم نے دونوں کا حکم الگ رکھا کہ قبضے کے سلسلے میں ہم نے فاعل کو مکرہ کا آله بنایا اور بیع حوالے کرنے کے سلسلے میں ہم نے فاعل کو مکرہ کا آلنہیں بنایا۔ [ما خود من الہامش]

عبارت:

فلو اکراه البائع لا المشترى و هلك المبيع فى يده اى فى يد المشترى ضمن قيمته للبائع و له ان يضمن ايا

شاء فان ضمن المكره رجع على المشتري بقيمه و ان ضمن المشتري نفذ كل شراء بعده لا ما قبله فقوله ضمن قيمة للبائع اي ضمن المشتري بمعنى ان اقرار الضمان على و له اى للبائع و هو المكره بالفتح ان يضمن اي شاء من المكره بالكسر و من المشتري فان ضمن المكره رجع عليه المشتري و ان ضمن المشتري نفذ كل شراء بعده لا ما قبله فان المشتري اعم من ان يكون مشترياً اولاً او ثانياً او ثالثاً لو تنا سخت العقود فانه ان ضمن المشتري الثاني القيمة يصير ملكاً له فينفذ كل شراء بعد ذلك الشراء و لا ينفذ الشراء الذي كان قبله فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه ثم هذا البائع بالثمن على بائعه وهذا بخلاف ما اذا اجاز المالك احد العقود حيث ينفذ الجميع لانه اسقط حقه و هو المانع فعاد الكل الى الجواز و في الضمان يثبت الملك المستند الى حين العقد لا ما قبله .

ترجمة:

اور اگر باائع کو مجبور کیا گیا نہ کہ مشتری کو اور مبلغ اس کے یعنی مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو گئی تو مشتری اس کی قیمت کا باائع کے لیے ضامن ہو گا اور باائع کے لیے جائز ہے کہ جس کو چاہے ضامن بنائے چنان چاہے مکرہ کو ضامن بنایا تو مکرہ مشتری سے اس کی قیمت کا رجوع کرے گا اور اگر باائع نے مشتری کو ضامن بنایا تو ضمان کے بعد کی ہر شراء نافذ ہو گی نہ کہ ضمان سے پہلے کی پس ماتن کا قول ضمن قیمته للبائع یعنی مشتری ضامن ہو گا اس معنی میں ہے کہ ضمان کا اقرار اس پر ہو گا اور اس کے یعنی باائع کے لیے اور وہ مکرہ ہے (فتحہ کے ساتھ) جائز ہے کہ مکرہ (کسرہ کے ساتھ) اور مشتری میں سے جس کو چاہے ضامن بنائے سو اگر اس نے مکرہ کو ضامن بنایا تو وہ مشتری پر رجوع کرے گا اور اگر باائع نے مشتری کو ضامن بنایا تو ضمان کے بعد کی ہر شراء نافذ ہو جائے گی نہ کہ ضمان سے قبل والی شراء کیونکہ مشتری اس سے اعم ہے کہ وہ مشتری اول ہو یا ثانی ہو یا ثالث ہو اگر عقود پر درپے ہوں کیونکہ اگر مشتری ثانی کو قیمت کا ضامن بنایا تو وہ شئی اس کی ملک بن جائے گی لہذا اس کے بعد والی ہر شراء نافذ ہو جائے گی اور وہ شراء جو اس سے پہلے والی تھی نافذ نہ ہو گی۔ لہذا ضامن بنے والا مشتری اور باائع پر رجوع کرے گا پھر یہ باائع مبلغ پر رجوع کرے گا اور یہ اس صورت کے برخلاف ہے جب مالک نے عقود میں سے کسی کی اجازت دے دی اس طور پر کہ تمام عقود نافذ ہو جائیں گے اس لیے کہ باائع نے اپنا حق ساقط کر دیا ہے اور وہی مانع تھا۔ لہذا عقد جواز کی طرف لوٹ آئے گا اور ضمان میں ایسی ملکیت ثابت ہوتی ہے جو عقد کے وقت کی طرف مستند ہوتی ہے نہ اس سے ماقبل کی طرف۔

شرح:

فلو اکرہ البائع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کوشی فروخت کرنے پر مجبور کیا گیا اور مشتری کو مجبور نہیں کیا گیا پھر مشتری نے اس مبلغ پر قبضہ کر لیا اور وہ مبلغ اس کے قبضے میں ہلاک ہو گئی تو یہ مشتری باائع کے لیے اس کی قیمت کا ضامن ہو گا اور باائع کو اختیار ہے کہ مشتری اور مکرہ میں سے جس کو چاہے ضامن بنائے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے ہلاکت کا سبب پیدا کیا ہے، چنانچہ اگر باائع نے مکرہ کو ضامن بنایا تو مکرہ اس رقم کا مشتری سے رجوع کرے گا اور اگر باائع نے مشتری کو ضامن بنایا تو ضمان ادا کرنے کے بعد ہونے والی ہر شراء نافذ ہو جائے گی۔

اس کی صورت یہ ہے کہ نوید نے کسی سے شئی خریدی (جب کہ باائع مکرہ تھا) پھر نوید سے یہ شئی عدنان نے خرید لی پھر عدنان سے یہ شئی

محبت اللہ نے خرید لی، پھر یہ شی ہلاک ہو گئی اب اس صورت میں تین مشتری اور ایک مکرہ ہے اب بالائے کو اختیار ہے کہ مکرہ اور ان مشتریوں میں سے جس کو چاہے خاصمن بنائے چونکہ کتاب میں لفظ مشتری عام ہے۔ لہذا یہ مشتری اول اور ثانی اور ثالث تینوں کو شامل ہے البتہ اب اگر بالائے نے مشتری اول کو خاصمن بنایا تو مشتری ثانی اور ثالث کا خریدنا صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہ ”نفذ کل شراء بعده“ کے تحت داخل ہے اور اگر بالائے نے مشتری ثانی کو خاصمن بنایا تو مشتری ثالث کا خریدنا صحیح ہو جائے گا کیوں کہ یہ ”نفذ کل شراء بعده“ کے تحت داخل ہے اور مشتری ثانی کا خریدنا نافذ نہ ہو گا کیونکہ یہ ”شراء ما قبله“ کے تحت داخل ہے، پس اگر بالائے نے مشتری ثالث کو خاصمن بنایا تو وہ اس خاصمن کا مشتری ثانی سے رجوع کرے گا اور مشتری ثانی جو کہ بالائے نے مشتری اول پر خاصمن کا رجوع کرے گا۔

اشکال:

وہذا بخلاف سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ مکرہ کے مشتری کو ضامن بنانے اور مکرہ کے مشتری کو عقد کی اجازت دینے میں کیا فرق ہے کہ مشتری کو ضامن بنانے کی صورت میں ضمان کے بعد والی شراء نافذ ہوگی اور ضمان سے پہلے والی شراء نافذ نہ ہوگی جب کہ مکرہ کے مشتری کو اجازت دینے کی صورت میں تمام عقود خواه اجازت سے قبل ہوں یا بعد ہوں نافذ ہو جائیں گے۔

[العنایہ: ۱۷۲/۸]

جواب:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”هذا بخلاف..... سے اسی اشکال کا جواب دیا ہے جس وقت مکرہ نے مشتری کو کسی عقد کی اجازت دے دی تو تمام عقود نافذ ہو جائیں گے اس لیے کہ عقود کے نافذ ہونے سے مانع اس کا حق تھا اور اجازت دینے کی صورت میں اس نے اپنا حق ساقط کر دیا ہے جب حق ساقط ہو گیا تو تمام عقود نافذ ہو گئے۔ جب کہ مشتری کے ضمانت ادا کرنے کی صورت میں صرف ضمانت کے بعد والے عقود نافذ ہوں گے نہ کہ ضمانت سے پہلے والے عقود، کیونکہ مشتری کی ملکیت عقد کے وقت سے مستند (سہارا لیے ہوئے) تھی نہ کہ عقد سے پہلے کی طرف مستند تھی۔

عبارت:

فان اكره على اكل ميته او دم او لحم خنزير او شرب خمر بحبس او ضرب او قيد لم يحل او بقتل او بقطع حل به لانه هذه الاشياء مستثناء عن الحرمة في حال الضرورة والاستثناء عن الحرمة حل ولا ضرورة في اكراه غير ملجي . فان صبر فقتل اثم كما في المخصصة وعلى الكفر بقتل او قطع عضو رخص له ان يظهر ما اجبر به بلسانه و قلبه مطمئن بالايام وبالصبر اجر و لم يرخص بغيرهما اي بغير القتل و القطع روى ان خبيبا و عمارة رضي الله عنهاما ابليا بذلك فصبر خبيب حتى صلب فسماه النبي عليه السلام و السلام سيد الشهداء و اظهر عمارة و كان قلبه مطمئنا بالايام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان عاد و افعد و الفرق بين هذا وبين شرب الخمر ان شرب الخمر يحل عند الضرورة و الكفر لا يحل ابدا فيرخص اظهار مع قيام دليل الحرمة لان حقه يفوت بالكلية و حق الله تعالى لا يفوت بالكلية لان الصديق باق . و رخص له اتلاف مال المسلم بهما اي بالقتل و القطع و ضمن المكره بكسر الرأى اذ في الافعال يصير الفاعل الله للحامد . لا قتله فان قتل المسلم لا يحل بالضرورة و يقاد المكره فقط اى ان كان القتل عمدا فعند ابي حنيفة رحمة الله

تعالیٰ و محمد رحمہ اللہ تعالیٰ القصاص علی الحامل لان الفاعل یصیر اللہ لہ و عند زفر رحمہ اللہ تعالیٰ علی الفاعل لانہ مباشر و لا يحل له القتل و عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ لا يجب علی احد للشبهہ و عند الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ يجب علیہما علی الفاعل بالمباسرة و علی الحامل بالتسبب و التسبب عنده کالمباشرة کشهود القصاص.

ترجمہ:

چنانچہ اگر کسی شخص کو مداریا خون یا خزیر کا گوشت کھانے یا شراب پینے پر جس یا ماریا قید کے ذریعے مجبور کیا گیا تو اس کے لیے یہ اشیاء حلال نہیں ہیں یا قتل یا عضو کاٹنے سے مجبور کیا گیا تو اس کے لیے یہ اشیاء حلال ہیں اس لیے کہ یہ اشیاء ضرورت کے وقت حرمت سے مستثنی ہیں اور حرمت سے استثناء حلت ہے اور اکراہ غیر ملکی میں کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا اگر اس نے صبر کیا پھر اس کو قتل کر دیا گیا تو وہ گناہ گار ہو گا جیسا کہ شدید بھوک کی صورت میں اور (اگر) کفر پر قتل یا عضو کاٹنے سے (مجبور کیا گیا) تو اس کے لیے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ اس بات کو اپنی زبان سے ظاہر کر دے جس پر مجبور کیا گیا ہے، دراں حاکمہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوا در صبر کرنے کی وجہ سے ثواب دیا جائے گا اور ان دونوں یعنی قتل اور عضو کاٹنے کے بغیر رخصت نہیں دی جائے گی یہ بات روایت کی گئی ہے کہ حضرت خسیب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بارے میں بتلاع یکے گئے چنانچہ حضرت خسیب رضی اللہ عنہ نے صبر کیا یہاں تک کہ سولی پر چڑھائے گئے۔ پس ان کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ کفر ظاہر کر دیا دراں حاکمہ ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ دوبارہ تجھے مجبور کریں تو تم بھی دوبارہ دل کو مطمئن رکھنا اور اس کے درمیان اور شراب پینے کے درمیان فرق یہ ہے، شراب پینا ضرورت کے وقت حلال ہے اور کفر کرنا کبھی بھی حلال نہیں ہوتا چنانچہ اس کے اظہار کی حرمت کی دلیل کے قائم ہونے کے باوجود رخصت دی گئی ہے اس لیے کہ بندے کا حق بالکلیہ فوت ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا حق بالکلیہ فوت نہیں ہو گا کیونکہ تصدیق باقی ہے اور مکرہ (راء کے ساتھ) کو صامن بنائے اس لیے کہ فاعل میں فاعل حامل (مکرہ) کا آلہ ہوتا ہے مسلمان کو قتل کرنے کی رخصت نہیں کیونکہ مسلمان کو قتل کرنا ضرورت کی وجہ سے حلال نہیں ہے اور فقط مکرہ سے قصاص لیا جائے گا یعنی اگر قتل عمداً ہو تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قصاص حامل پر ہے اس لیے کہ فاعل اس کے لیے آللہ بن جاتا ہے اور امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قصاص فاعل پر ہے اس لیے کہ وہ مباشر ہے اور اس کے لیے قتل کرنا حلال نہیں ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی ایک پر قصاص شہید کی وجہ سے واجب نہیں ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قصاص دونوں پر واجب ہے فاعل پر مباشرت کی وجہ سے ہے اور حامل پر سبب بننے کی وجہ سے اور سبب بننا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مباشرت کی طرح ہے جیسا کہ قصاص کے گواہ ہیں۔

تشریح:

ماقبل میں ان اشیاء پر اکراہ کا بیان گزارا ہے جن کو اکراہ سے قبل کرنا جائز تھا اور اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان اشیاء کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ جن کو اکراہ سے قبل کرنا حرام ہے۔

معاصلی پر اکراہ کی فسمیں:

یہ بات جانی چاہیے کہ معاصلی پر ہونے والے اکراہ کی تین فسمیں ہیں۔

(۱) پہلی قسم وہ ہے جس کو کرنے کی رخصت ہے اور اس کے چھوڑنے پر ثواب ہے۔

(۲) دوسرا قسم وہ جس کو کرنا حرام ہے اور اس کے کرنے پر گناہ ہے اور چھوڑنے پر ثواب ہے۔

(۳) تیسرا قسم وہ ہے جس کو کرنا حلال ہے اور اس کے چھوڑنے پر گناہ ہے۔

[بخاری نقش: ۱۳۲/۸]

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان تینوں قسموں کا حکم اس عبارت میں بیان کریں گے۔

فان اکراہ علی سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تیسرا قسم (کہ جس کو کرنا (حال اکراہ میں) حلال ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہے) کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو مردار یا خون یا خزر کا گوشہ کھانے پر یا شراب پینے پر مجبور کیا گیا اور اس کو کوڑے مارنے یا قید کرنے یا عضو، کامنے کی دھمکی دی گئی تواب مکرہ کے لیے یہ اشیاء حلال نہیں ہیں اور اگر قتل کرنے یا عضو کامنے کی دھمکی دی گئی تو اس کے لیے یہ اشیاء حلال ہیں اور اگر اس نے صبر کیا اور قتل کردیا گیا تو یہ گناہ گارہوگا جیسا کہ شدید بھوک کی حالت میں ان اشیاء کو استعمال نہ کرے اور سرجائے تو گناہ گارہوتا ہے۔ اور اگر مکرہ کو کوڑوں سے مرجانے کا غالب گمان ہو تو بھی اس کے لیے یہ اشیاء حلال نہیں ہیں اس مسئلے کی دلیل شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ یہ اشیاء محروم میں سے ہیں البتہ ضرورت کے وقت ان میں سے حرمت ختم ہو جاتی ہے اور ضرورت سے مراد شدید بھوک یا اکراہ بھجی وغیرہ ہے اور اکراہ غیر بھجی (جو کوڑے مارنے یا قید کرنے سے ہو) میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔

و علی الکفر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پہلی قسم (جس کو کرنے کی حالت اکراہ میں رخصت ہے اور اس کو چھوڑنے پر ثواب ہے) کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو فر کرنے پر مجبور کیا گیا اور قتل یا قطع عضو کی دھمکی دی گئی تواب اس شخص کو اس بات کی رخصت دی گئی ہے کہ اس بات کو کہہ دے جس پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے دراں حالکد اس کا دل ایمان پر مطمئن رہے البتہ اگر اس نے صبر کیا اور اس بات کو نہیں کہا تو اس کو ثواب ملے گا اور اگر کفر پر مجبور کیا گیا اور کوڑے مارنے یا قید کرنے کی دھمکی دی گئی تو اس کے لیے کلمہ کفر کہنے رخصت نہیں ہے۔

روی ان خبیثاً رضي الله عنه سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں باتوں (کفر کرنے کی رخصت اور چھوڑنے پر ثواب) کی تین نقطی پیش کر رہے ہیں کفر چھوڑنے پر ثواب ہوگا اس کی دلیل حضرت خبیث رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ مشرکین نے ان کو پکڑا اور اہل مکہ کو فروخت کر دیا اور اہل مکہ نے ان سے کہا کہ وہ ان کے خداویں کی تعریف کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں۔ (نوعذ بالله) اور حضرت خبیث رضی اللہ عنہ ان کے خداویں کا گالی دیتے اور آپ علیہ السلام کی تعریف کرتے پس انہوں نے حضرت خبیث رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر اتفاق کر لیا اور جب حضرت خبیث رضی اللہ عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ مجھے قتل کرنے والے ہیں تو انہوں نے اہل مکہ سے کہا مجھے دور کعت نماز پڑھنے دو پھر انہوں نے مختصر نماز پڑھی اور فرمایا کہ میں نے مختصر نماز اس لیے پڑھی تاکہ تم یہ گمان نہ کرو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں پھر حضرت خبیث رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ وہ ان کو چھرے کے مل لتا دیں تاکہ وہ بجدے کی حالت میں رہیں اور حضرت خبیث رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ! مجھے یہاں دشمنوں کے چہرے نظر آتے ہیں پس آپ میری طرف سے آپ علیہ السلام کو سلام پہنچا دیں جب ان کو مشرکین نے قتل کر دیا اور سولی چڑھا دیا تو آپ علیہ السلام نے ان کا نام سید الشہداء رکھا اور فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفر کو چھوڑنا افضل اور اس پر ثواب ہے۔

اور کفر کرنے کی رخصت کی دلیل حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو مشرکین نے پکڑا اور کہا کہ ہم مجھے نہیں چھوڑیں گے یہاں

تک کہ تو حضرت محمد علیہ السلام کو گالی دے (نحوذ بالله) اور ہمارے خداوں کی تعریف کر لہذا انہوں نے یہ کام کر دیا جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اس وقت اپنے دل کو کیسا پایا تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان پر مطمئن پایا تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ اس پر مجبور کریں تو تم بھی دوبارہ اپنے دل کو مطمئن رکھنا۔

تنبیہ:

آپ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے کہ ”فان عاد و افعد“ تو اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ تجھے کلمہ کفر پر مجبور کریں تو تم بھی کلمہ کفر کو ظاہر کرو دنیا اور دل کو ایمان پر مطمئن رکھنا۔ یہ مطلب صحیح نہیں ہے اکثر شراح کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ تجھے دوبارہ کلمہ کفر پر مجبور کریں تو تم بھی دوبارہ اپنے دل کو ایمان پر مطمئن رکھنا۔

[فتح التدیر: ۸/۳۴، العزاۃ: ۸/۱، الکفایہ: ۸/۱۷۵]

کفر اور شراب میں فرق:

الفرق بین هذا سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ماقبل میں یہ بات گز رچکی ہے کہ شراب ضرورت کے وقت (یعنی اکراہ بھی) حلال ہو جاتی ہے اور یہاں یہ بات بیان کی ہے کہ کفر ضرورت کے وقت حلال نہیں ہوتا البتہ حرام ہونے کے باوجود کفر ظاہر کرنے کی رخصت دی گئی ہے تو ان کے حکم میں فرق یہ ہے کہ شراب نہ پینے کی صورت میں بندے کا حق مکمل طور پر ضائع ہو سکتا ہے اس لیے ضرورت کے وقت شراب حلال کر دی گئی اور کفر کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حق بالکل فوت نہ ہوگا بلکہ ظاہری اعتبار سے فوت ہو جائے گا لیکن چوں کہ تقدیق باقی ہے اس لیے قلبی اعتبار سے فوت نہ ہوگا۔

و رخص له سے مصنف جو صورت بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق بھی کفر و ای صورت کے ساتھ ہے اگر کسی کو دوسرا مسلمان کے مال ضائع کرنے پر قتل یا قطع عضو کی دھمکی دے کر مجبور کیا گیا تو مکرہ کو اس کا مال ضائع کرنے کی رخصت ہے اور اس کے نقصان کا مکرہ ضامن ہوگا کیونکہ اس فعل میں مکرہ آہ ہے اور مکرہ حامل ہے اور حامل ضامن ہوگا اور اگر مکرہ نے صبر کیا اور عزمیت پر عمل کرتے ہوئے اس کا مال ضائع نہیں کیا اور قتل ہو گیا یا اپنا عضو کوٹاہی تو اس کو ثواب ملے گا اس لیے کہ غیر کا مال ضائع کرنا ظالم ہے اور ظلم کی حرمت ختم نہیں ہوتی اور نہ حرمت مباح ہوتی ہے لہذا مال ضائع نہ کرنا افضل ہے اور اسی وجہ سے فقهاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غیر کے مال کو کھانا شراب کی حرمت سے زیادہ سخت ہے۔ یہ تئی سخت بات فقهاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جس کی آج بالکل پرواہ نہیں کی جاتی۔ اللهم احفظنا من ذلك ۔۔۔ [شامی ۶/۱۳۵]

لاقتله سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرا تم (جس کے کرنے پر گناہ اور چھوڑنے پر ثواب ہے) کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اس بات مجبور کیا گیا کہ فلاں کو قتل کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا یا عضو کاٹ دیا جائے گا تو اب مکرہ کے لیے اس مسلمان کو قتل کرنا حلال نہیں ہے کیونکہ مسلمان کو قتل کرنا ضرورت کی وجہ سے بھی حلال نہیں ہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ رخصت ملنے کی وجہ تو اپنے نفس کو بچانا تھا تو جس طرح مکرہ کے نفس کو بچانا ضروری ہے تو اسی طرح مکرہ علیہ کے نفس کو بھی بچانا ضروری ہے۔ لہذا اپنے نفس کو بچانے کے لیے کسی کے نفس کو ضائع کرنا حلال نہیں ہے۔ [بجز الرائق ۸/۱۳۲]

یقاد المکرہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مکرہ نے اس شخص کو مدد اقتل کر دیا تو اب اس کا قصاص مکرہ سے لیا جائے گا یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اس لیے کہ مکرہ کو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے یا تو

اپنے مسلمان بھائی کی زندگی کو باقی رکھے اور اپنے آپ کو بہاکت میں ڈال دے ایسا کرنے کی صورت میں اس کو توبہ ملے گا وسری بات بھی ہے کہ اپنے آپ کو بچالے اور مسلمان بھائی کو قتل کر دے تو یہ قتل عمد نہیں کہلاتا کہ ہم مکرہ پر قصاص لازم کر دیں لیکن مسلمان بھائی کا خون ضائع ہونے سے بچانا ہے اس لیے قصاص حامل (مکرہ) پر ہوگا (ما خوذ من الہامش)

اور امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قصاص فاعل (مکرہ) کے ذمے ہوگا اس لیے قتل کا فعل مکرہ سے حقیقت وجود میں آیا ہے کیونکہ یہ اس سے بلا واسطہ صادر ہوا ہے اور اسی طرح حنا بھی اس سے متعلق ہے کیونکہ مشاہدے میں بھی بات آئی ہے کہ مکرہ نے اس کو قتل کیا ہے اور اسی طرح شرعاً بھی اس سے متعلق ہے کہ شرع نے اس پر قتل کا حکم ثابت کیا ہے اور وہ اس کا گناہ گار ہونا ہے۔
لہذا قصاص اس کے ذمے ہے۔

[العنایہ: ۸/۱۷]

اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرہ اور مکرہ میں سے کسی کے ذمے قصاص واجب نہ ہوگا کیونکہ جو قتل کا فعل مکرہ سے حاصل ہوا ہے، اس میں دو احتمال ہیں پہلا احتمال یہ ہے کہ قتل مکرہ پر بذریعہ کیونکہ شریعت نے قتل کا گناہ اسی کے ذمے لازم کیا ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ قتل مکرہ کی طرف منسوب کیا جائے کیونکہ قتل کرنے پر اسی نے مجبور کیا تھا۔ لہذا قتل کا فعل اس کی طرف منتقل ہوگا تو جب اس میں دونوں احتمال ہیں تو اس میں شبہ داخل ہو گیا اور قصاص ایک حد ہے اور حدود شہبات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ لہذا قصاص ہر ایک سے ساقط ہو جائے گا۔

[العنایہ: ۸/۱۷]

اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرہ اور مکرہ میں سے ہر ایک کے ذمے قصاص واجب ہے لہذا دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ بہر حال مکرہ کو اس لیے کہ وہ فاعل ہے اور شریعت نے قتل کا گناہ اس پر لازم کیا ہے اور مکرہ پر اس لیے واجب ہے کہ وہ قتل کرنے کا سبب بنائے کہ اس نے مکرہ کو قتل کرنے پر مجبور کیا تھا اور سبب بننے کا حکم امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بذات خود فعل کرنے کے حکم کی طرح ہے توجب فعل (یعنی قتل) کرنے والے کا حکم قصاص کا وجوب ہے تو سبب بننے والے کا حکم بھی قصاص کا وجوب ہوگا اب رہی یہ بات کہ سبب بننے والے کا حکم فعل کرنے والے کی طرح ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کشہود القصاص کا مسئلہ بطور نظری ذکر کیا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ دو شخصوں نے قاضی کے پاس جا کر اس بات کی گواہی دی کہ زید نے بکر کو قتل کیا ہے اور قاضی نے اس گواہی کی طرف دیکھتے ہوئے زید کو قصاصاً قتل کر دیا پھر کچھ مدت بعد بکر زندہ واپس آگیا تو اب قاضی ان دونوں گواہوں کو قتل کرے گا کیونکہ زید کے قتل ہونے کا سبب بننے ہیں۔

عبارت:

و صَحْ نِكَاحَهُ وَ طَلاقَهُ وَ عَنْقَهُ اى اعتاقه فان هذه العقود تصح عندنا مع وجود الاكراه قياساً على صحتها مع الهرزل و عند الشافعى رحمه اللہ تعالیٰ لا تصح ورجع بقيمة العبد ونصف المسمى ان لم يطأ اى يرجع المكره على من اكرره فى صورة الاكراه بالاعتقاق بقيمة العبد لان الاعتقاق من حيث انه اتلاف يضاف الى الحامل لان الاتلاف فعل فيمكن فيه جعل الفاعل الله للحامل وان لم يمكن ذلك فى القول ويرجع عليه فى الاكراه بالطلاق بنصف المسمى ان لم يوجد الدخول لان نصف المسمى فى معرض السقوط بان تجيى الفرقة من قبل المرأة فلينتا كد بالطلاق قبل الدخول فمن هذا الوجه يكون اتلافا فيضاف الى الحامل يجعل الفاعل الله له بخلاف ما بعد الدخول لان المهر تقرر بالدخول و لقائل ان يقول المهر يجب بالعقد و الطلاق شرطه و الحكم لا يضاف اليه و

ایضاً سقوطہ بالفرقہ مجرد و ہم فلا اعتبار له .

ترجمہ:

اور مکرہ کا نکاح کرنا اور طلاق دینا اور آزاد کرنا صحیح ہے کیونکہ یہ عقود ہمارے نزدیک اکراہ پائے جانے کے باوجود صحیح ہوتے ہیں قیاس کرتے ہوئے ان عقود کے مذاق کے ساتھ صحیح ہونے پر اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عقود صحیح نہیں ہیں اور مکرہ غلام کی قیمت کا اور نصف مکرہ کی اگر وٹی نہ کی ہو مکرہ پر رجوع کرے گا یعنی مکرہ اس شخص پر رجوع کرے گا جس نے اس کو مجبور کیا تھا۔ آزاد کرنے پر مجبور کرنے کی صورت میں غلام کی قیمت کا رجوع کرے گا اس لیے کہ آزاد کرنا اس اعتبار سے کوہ ضائع کرنا ہے حامل کی طرف منسوب کیا جائے گا اس لیے کہ اتنا فل ہے۔ چنانچہ اس میں فاعل کو حامل کے لیے آله بنا ممکن ہے اگرچہ یہ قول ممکن نہیں اور طلاق پر مجبور کرنے کی صورت میں مکرہ پر نصف مکرہ کا رجوع کرے گا اگر دخول نہ پایا گیا ہو اس لیے کہ نصف مکرہ معرض سقوط میں ہے اس کی صورت یہ ہے کہ عورت کی طرف سے فرقہ پائی جائے چنانچہ وہ نصف مکرہ دخول سے قبل طلاق دینے کی وجہ سے پکا ہو گیا۔ لہذا اس وجہ سے یہ اتنا فل ہے چنانچہ یہ حامل کی طرف منسوب کیا جائے گا فاعل کو حامل کا آله بناتے ہوئے برخلاف دخول کے بعد طلاق دینے کے ہے اس لیے کہ مہر دخول سے پکا ہو گیا اور کہنے والے کے لیے جائز ہے کہ یوں کہے کہ مہر عقد سے واجب ہوتا ہے اور طلاق اس کی شرط ہے اور حکم شرط کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا اور مہر کا سقوط فرقہ کی وجہ سے صرف وہم ہے، چنانچہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح:

و صح نکاحه سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کی یا قطع عضو کی دھمکی دے کر اس بات پر مجبور کیا کہ فلاں عورت سے نکاح کر لے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اب اگر اس نے یہ کام کر لیا تو یہ عقد نافذ ہو جائے گا یہ احتاف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے کیونکہ اکراہ کی وجہ سے مکرہ احکام شرع کا اہل اور مکف رہتا ہے۔ لہذا یہ عقد نافذ ہوں گے احتاف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قیاس کیا کہ جب یہ عقود مذاق کی حالت میں منعقد ہو جاتے ہیں تو اکراہ کی حالت میں بھی منعقد ہو جائیں گے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عقود نافذ نہ ہوں گے کیونکہ ان کے نزدیک مکرہ کے تمام تصرفات باطل ہیں البتہ اگر اکراہ حق وصول کرنے کے لیے کیا گیا تو اس کے تصرفات نافذ ہوں گے۔ [بحار الرائق: ۱۳۶/۸، العنایہ: ۸/۱۷۸]

رجوع بمقیمة العبد سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر غلام کو آزاد کرنے پر اکراہ کیا گیا اور مکرہ نے وہ غلام آزاد کر دیا تو اب مکرہ غلام کی قیمت کا مکرہ سے رجوع کرے گا اس لیے کہ آزاد کرنے کی ایک حیثیت اتنا فل مال ہے اور اتنا فل چونکہ ایسا فل ہے جس میں فاعل کو مکرہ کے لیے آله بنا یا جا سکتا ہے۔ اگرچہ فاعل کو مکرہ کا آله بنا ناقول کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ فاعل طلاق اور اعتاق کے کلمہ کہنے میں مکرہ کا آہ ہے کیونکہ یہ کلمہ فاعل نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں البتہ فاعل مکرہ کا آہ فعل میں بنایا جائے گا لہذا فاعل مکرہ سے قیمت کا رجوع کرے گا خواہ مکرہ امیر ہو یا غریب ہو۔ [بحار الرائق: ۱۳۶/۸]

و نصف المسمی سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کیا گیا اور اس نے طلاق دے دی تو اب اگر مکرہ نے بیوی سے وٹی نہ کی ہو تو نصف مہر جو اس نے بیوی کو ادا کیا اس کا مکرہ سے رجوع کرے گا اس لیے کہ نصف مہر جو مکرہ نے بیوی کو ادا کیا ہے۔ وہ ساقط ہونے کے کنارے پر تھا یعنی وہ ختم ہو سکتا تھا اس کی صورت یہ ہوتی کہ بیوی کی طرف سے فرقہ ہو جاتی مثلاً بیوی شوہر کے لڑکے سے وٹی کر لیتی یا مرتد ہو جاتی اور جب فرقہ کا بیوی کی طرف سے ہونے کا احتمال ہے تو طلاق

دینے کی وجہ سے یہ احتمال ختم ہو گیا اور نصف مہر پکا ہو گیا تو یہ نصف مہر جو شوہرنے ادا کیا ہے ایک طرح کا احتلاف مال ہے جب یہ احتلاف ہے تو اس کی نسبت حامل کی طرف کی جائے گی اور فاعل کو اس کا آں لہ بنایا جائے گا لہذا فاعل نصف مہر کا حامل سے رجوع کرے گا اور اگر نکاح میں مہر کا ذکر نہیں کیا گیا تھا اور پھر دخول سے قبل طلاق دے دی گئی تو اب شوہر کے ذمے متعدد دینا واجب ہے۔ لہذا اس صورت میں متعدد کا حامل سے رجوع کرے گا اور اگر شوہرنے وطی کر لی ہو اور پھر اکراہ کی وجہ سے طلاق دی ہو تو اب یہ کسی شی کا حامل پر رجوع نہیں کرے گا اس لیے کہ مہر تو وطی کی وجہ سے پکا ہو گیا اور اکراہ کی وجہ سے مکرہ کا مال ضائع نہیں ہوا کہ وہ اس کا مکرہ سے رجوع کرے اور یہاں وطی سے مراد خلوت صحیح ہے۔

[شامی: ۶/۱۲۷]

ولقائل ان يقول سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں کہ مہر عقد نکاح کی وجہ سے واجب ہوتا ہے البتہ طلاق مہر کے لیے شرط ہے جب مہر کا وجوب عقد کی وجہ سے ہے تو دخول اور عدم دخول میں فرق نہیں ہونا چاہیے کہ اگر طلاق قبل دخول ہو تو نصف مہر لازم ہو گا اور اگر طلاق بعد دخول ہو تو پورا مہر لازم ہو گا۔ ایضاً سقوطہ سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرا اعتراض ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ قبل دخول مہر معرض سقوط میں ہے کہ ممکن ہے یہوی مرتد ہو جائے یا شوہر کے بیٹے سے وطی کرے تو بات محض وہم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی کہ ہم اس پر کسی حکم کا داردار کھدیں اور یوں کہیں کہ قبل دخول طلاق دینے کی وجہ سے شوہر کا مال ضائع ہو گیا ہے۔ لہذا یہ ضائع کرنا مکرہ کی طرف منسوب ہو گا۔

عبارت:

ونذرہ و یمینہ و ظہارہ و رجعتہ و ایلازوہ و فیہ و اسلامہ بلا قتل لورجع الاصل عندنا ان کل عقد لا يتحمل الفسخ فلا اکراه لا یمنع نفاذہ و كذلك کل ما ینفذ مع الہزل ینفذ مع الاکراه و الاسلام انما یصح مع الاکراه لقوله عليه السلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا الا الله الا الله فالاسلام یصح مع خوف القتل لكن اذا اسلم المکرہ ثم ارتد لا یقتل لتمكن الشبهة في اسلامه لا ابراء مديونه او كفیله وردته فلا تبین عرسه ولو زنى يحد الا اذا اکرهه السلطان هذا عند ابی حنيفة رحمه الله تعالى و عندهما لا يحد اقول کون الاکراه مسقطا للحد متفق عليه فيما بينهم بل هذا الاختلاف انما هو في تحقق الاکراه من غير السلطان فان عند ابی حنيفة رحمه الله تعالى الاکراه لا یتحقق من غير السلطان فالزنا لا یكون مع الاکراه فيحدوا اذا اکرهه السلطان فرنی لا يحد لو جود الاکراه هنا و عندهما الاکراه یتحقق من السلطان وغيره فلا يحد في الصورتين.

ترجمہ: اور مکرہ کی نذر ماننا اور اس کی یمین اور اس کا ظہار اور اس کا رجعت کرنا اور اس کا ایلاء سے رجوع کرنا اور اس کا مسلمان ہونا بلا قتل کیے اگر وہ اسلام سے رجوع کرے۔ (تو یہ تمام امور صحیح ہیں) ہمارے نزدیک اصول یہ ہے کہ ہر وہ عقد جو شخص کا احتمال نہیں رکھتا تو اکراہ اس کے نفاذ کو نہیں روکتا اور اسی طرح ہر وہ عقد جو مذاق کے ساتھ نافذ ہوتا ہو وہ اکراہ کے ساتھ نافذ ہوتا ہے اور سوائے اس کے نہیں کہ اسلام اکراہ کے ساتھ صحیح ہے اس لیے کہ آپ علیہ السلام کافرمان مبارک ہے: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا اله الا الله کہہ دیں۔ لہذا اسلام بلا قتل کے خوف کے ساتھ صحیح ہے لیکن جب مکرہ اسلام لے آیا پھر وہ مرتد ہو گیا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے اسلام میں شہبے کے جگہ پکڑنے کی وجہ سے اور مکرہ کا اپنے مدیون کو یا اپنے کفیل کو بری کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کا مرتد ہونا صحیح نہیں ہے چنانچہ اس کی یہوی باستہ نہیں ہو گی اور اگر مکرہ نے زنا کر لیا تو اس کو حد لگائی جائے گی مگر جب

اس کو بادشاہ مجبور کرے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ میں کہتا ہوں اکراہ کا حادث کے لیے مقتض ہونا علماء کے مابین متفق ہے، بلکہ یہ اختلاف غیر سلطان سے اکراہ ثابت ہونے کے بارے میں ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر سلطان سے اکراہ ثابت نہیں ہوتا چنانچہ زنا اکراہ کے ساتھ نہیں ہو گا لہذا اس کو حد لگائی جائے گی اور جب بادشاہ نے مجبور کیا پھر اس نے زنا کر لیا تو یہاں اکراہ پائے جانے کی وجہ سے حد نہیں لگائی جائے گی اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکراہ بادشاہ اور غیر بادشاہ سے متحقق ہوتا ہے لہذا دونوں صورتوں میں حد نہیں لگائی جائے گی۔

تشریح:

و نذرہ و یمینہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کو کسی نے کسی طاعت کی نذر ماننے پر مجبور کیا تو ملزہ نے نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے کی نذر مان لی تو اب یہ نذر مانا صحیح ہے اور مکرہ پر اس کو پورا کرنا ضروری ہے اور اسی طرح اگر کسی طاعت یا معصیت پر یکیں اٹھانے پر مجبور کیا یا یبوی سے ظہار کرنے پر مجبور کیا یا مطلقاً یبوی سے رجعت کرنے پر مجبور کیا یا اس کی یبوی سے ایلاء کرنے پر مجبور کیا یا مولیٰ (جس نے ایلاء کیا ہو) کو ایلاء سے رجوع کرنے پر مجبور کیا تو یہ تمام امور نافذ ہوں گے اس لیے کہ ہمارے نزدیک جو عقد مذاق کے ساتھ صحیح ہو جاتے ہیں وہ اکراہ کے ساتھ بھی صحیح ہو جاتے ہیں کیونکہ مذاق کے ساتھ صحیح ہونے والے عقود فتح ہونے کا احتمال نہیں رکھتے اور جو عقود فتح کا احتمال نہیں رکھتے ان میں اکراہ موشہ نہیں ہوتا۔

فائدہ:

ایسے عقود فتح ہونے کا احتمال نہیں رکھتے ان کی تعداد کے بارے میں علماء گرام رحمہما اللہ تعالیٰ کے مختلف اقوال ہیں امام فقیہ ابواللیث سر قندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد اٹھارہ بیان کی ہے اور صاحب درختار رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بیس بیان کی ہے اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد پندرہ بیان کی ہے جو کہ مندرجہ ذیل اشعار میں مذکور ہیں۔

یصح مع الاکراه عتق و رجعة
نکاح و ابلاط طلاق مفارق
وفی ظهیار و الیمین و نذرہ
و عفو وقتل شباب منه مفارق
رضاع و تدبیر قبول لصلحہ
کذلک ایلاء و املاق ففارق

[شامی: ۶/ ۱۳۹]

و الاسلام انما یصح سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو کسی نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا اور مکرہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو اب اس کا اسلام لانا صحیح ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قاتل کرتا ہوں یہاں تک وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ لہذا اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ قاتل کے خوف سے جو اسلام لائے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے البتہ یہ اس کا ظاہری حکم بیان کیا گیا ہے بہر حال، اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان اسلام اس وقت ثابت ہو گا جب وہ دل سے اسلام کا اعتقاد رکھے ورنہ باطنی طور پر مسلمان شمارہ ہو گا اسی وجہ سے (کہ باطنی طور پر مسلمان ہونا اعتقاد پر موقوف ہے) اگر مکرہ

اسلام لے آیا پھر مرتد ہو گیا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس بات کا شہر ہے کہ شہادتیں کے وقت اس نے دل سے تصدیق نہ کی ہو جب یہ شبہ موجود ہے تو ایسے شہنے کی وجہ سے قتل کی حد ساقط ہو جائے گی۔ [الغایہ: ۱۸۲/۸]

لا ابراءہ مدعیوں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ جنید نے اسامہ سے ہزار روپے لینے تھے اور ان ہزار روپوں کا اویس کفیل بن گیا پھر ساجد نے جنید کو اس پر مجبور کیا کہ یا تو اسامہ جو مدیون ہے اس کو رقم سے بری کر دو یا اویس کو جو قفیل ہے رقم سے بری دو اب اگر جنید نے کسی کو بری کر دیا تو اس کا بری کرنا صحیح نہیں ہو گا اس لیے کہ براءت مذاق کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو اکراہ کے ساتھ بھی صحیح نہ ہو گی۔ [شامی: ۶/۱۳۹، تقریرات الرافعی: ۶/۹۷]

وردتہ فلا تبین سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کو کسی نے مرتد ہونے پر مجبور کیا اور اس نے کلمہ کفر کہہ دیا تو اس کی بائنس نہیں ہو گی یہ مسئلہ (یعنی زبان پر کلمہ کفر کہنے پر اکراہ کرنا) ماقبل میں گزر چکا ہے چون کہ فلا تبین کو اس پر متفرع کرنا تھا۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ”ردتہ“ کو دوبارہ ذکر کیا تاکہ وہ اس پر متفرع ہو جائے۔

[و فیه تفصیل مذکور فی رد المحتار/ ۱۳۹]

ولوزنی یحد سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو قتل یا قطع عضو کی وہمکی دے کر اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ زنا کرے پھر اس نے زنا کر لیا تو اس پر حد کے وجوب میں اختلاف ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حد غیر سلطان کی صورت میں واجب ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلقاً حد واجب ہے کیوں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حد کے واجب ہونے کا دار مدار مکرہ پر ہے اگر مکرہ سلطان نہیں ہے تو مکرہ پر حد واجب ہو گی۔ ورنہ سلطان ہونے کی صورت میں حد واجب نہیں ہو گی اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرہ خواہ سلطان ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں مکرہ پر حد واجب نہ ہو گی اقوال کون الاکراہ سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اکراہ کی وجہ سے زنا کی حد کا ساقط ہونا تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ مکرہ (زنی) پر حد واجب نہ ہو گی البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اکراہ کس وقت ثابت ہو گا چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر سلطان سے اکراہ ثابت نہ ہو گا کیونکہ غیر سلطان کی طرف سے اکراہ پائے جانے کی صورت میں مکرہ سلطان سے مد طلب کر سکتا ہے لیکن سلطان کی طرف سے اکراہ پائے جانے کی صورت میں کس سے مد طلب کرے گا؟ لہذا سلطان اگر زنا پر مجبور کرے تو مکرہ پر حد واجب نہ ہو گی اور اگر غیر سلطان نے زنا پر مجبور کیا تو مکرہ پر حد واجب ہو گی اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلطان اور غیر سلطان دونوں سے اکراہ ثابت ہو گا کیونکہ اکراہ میں معتبر بھی ہونا ہے اور یہ اس وقت ثابت ہو گا جب مکرہ قتل یا قطع عضو پر قدرت رکھتا ہو اور مکرہ اس کے موقع کا خوف رکھتا ہو اور یہ بات غیر سلطان سے بھی اکثر واقع ہوتی ہے۔ لہذا زنا پر اکراہ کی صورت میں مکرہ پر حد واجب نہ ہو گی خواہ مکرہ سلطان ہو یا غیر سلطان ہو۔ [فتح القدير: ۱۸۲/۸]

راجح قول:

مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اختلاف عصری ہے چنانچہ ہر ایک امام نے اپنے زمانے کے لحاظ سے مسئلے کا حکم بیان کیا ہے اور راجح قول صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا ہے۔ [شامی: ۶/۱۳۹، بحر الرائق: ۸/۱۲۸، هندیہ: ۵/۳۵، الباب: ۲/۷۷]



كتاب الحجر

مصنف رحمه اللہ تعالیٰ نے کتاب الحجر کو کتاب الکرہ سے مoxidز کر کیا ہے اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں اختیار کے موجب پر چلنے کی ولایت کو سلب کرنا ہے البتہ "اکراہ" قوی ہے کیونکہ اس میں اس شخص سے ولایت سلب کرنا ہے جس کو اختیار صحیح ہے اور جو اس کے بخلاف ہے۔

لغوی معنی:

حجر کا لغوی "روکنا" ہے۔

شرعی معنی:

اس کا شرعی معنی مصنف رحمه اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور بعض نے اس کا شرعی معنی یوں بیان کیا ہے۔ ہو منع مخصوص فی حق شخص مخصوص و هو الصغیر والرقيق والمجون۔ [بخاری: ۱۲۱/۸]

عبارت:

هو منع نفاذ تصرف قولى انما قال هذا لان الحجر لا يتحقق فى الفعال الجوارح فالصبي اذا اتلف مال الغير يجب الضمان و كذا المجنون . و سببه الصغر و الجنون و الرق . فلم يصح طلاق صبي و مجنون غلب اى المجنون المغلوب هو الذى اختلط عقله بحيث يمنع جريان الافعال و الاقوال على نهج العقل الا نادرا او غير المغلوب هو الذى يخلط كلامه فيشبه كلام العقلاء و مرة لا و هو المعتوه وسيجي حكمه و عتقهما و اقرارهما وصح طلاق العبد و اقراره فى حق نفسه لا فى حق سيده فلو اقر اي العبد المحجور بمال اخر الى عتقه و بحد و قود عجل فانه فى حق دمه مبقي على اصل الأدمية حتى لا يصح اقرار مولاه بذلك عليه . و من عقد منهم يعقله اجاز وليه او رد قوله منهم يرجع الى الصبي و العبد والمجنون فان المجنون قد يعقل البيع و الشراء ويقصدهما و ان كان لا يرجع المصلحة على المفسدة و هو المعتوه الذى يصلح و كيلا من الغير و المراد بالعقد فى قوله و من عقد منهم العقود الدائرة بين المنفعة و المضره بخلاف الاتهاب فانه يصح بالاجازة الولى و بخلاف الطلاق والعنق فانهما لا يصحان و ان اجازهما الولى . و ان اتلفوا شيئا ضمنوا لما بينا انه لا حجر فى افعال الجوارح

ترجمہ:

حجر تصرف قولی کے نفاذ کو روکنا ہے سوائے اس کے نہیں کہ مصنف رحمه اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس لیے کہ حجر افعال جوارح میں ثابت نہیں ہوتا چنانچہ جب بچہ کی دوسرے کامال ضائع کر دے تو ضمان واجب ہوگا اور اسی طرح مجنون ہے اور اس کا سبب صغراً و جنون اور غلام

ہونا ہے لہذا بچے اور مجنون مغلوب کی طلاق صحیح نہ ہوگی یعنی مجنون مغلوب وہ ہے کہ جس کی عقل اس طرح خراب ہو گئی ہو کہ افعال اور اقوال کا صد و عقل کے موافق ہونا منوع ہو گیا ہے۔ زنا در طور پر (کبھی ہو جائے) اور غیر مغلوب وہ ہے جو اپنے کلام کو خلط کرتا ہو پس کبھی اس کا کلام عقلاً کے کام کے مشابہ ہوتا ہوا اور کبھی نہ ہوتا ہوا اور یہی معنوٰ ہے اور اس کا حکم عنقریب آئے گا اور ان دونوں کا آزاد کرنا اور اقرار کرنا صحیح نہیں ہے اور غلام کا طلاق دینا اور اقرار کرنا اپنی ذات کے حق میں صحیح ہے نہ کہ اس کے آقا کے حق میں۔ چنانچہ اگر عبد مجور نے مال کا اقرار کیا تو ادا کرنے کو اس کے آزاد ہے نے تک موخر کیا جائے گا اور حد اور قصاص کا اقرار کیا تو جلدی کی جائے گی کیونکہ وہ اپنے خون کے حق میں آدمیت کی اصل پر باقی ہے۔ لہذا اس کے مولیٰ کا اس غلام پر اس بارے میں اقرار کرنا صحیح نہ ہو گا اور جس نے ان میں سے عقد کیا دراں حال لکھ وہ اس کی سمجھ رکھتا ہو تو اس کا ولی اس کی اجازت دے دے یا رد کر دے اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”منهم“ صی اور غلام اور مجنون کی طرف راجح ہے کیونکہ مجنون کبھی بیع اور شراء کی سمجھ رکھتا ہے اور ان دونوں کا ارادہ کرتا ہے اگرچہ وہ مصلحت کو مفسدہ پر ترجیح نہیں دے سکتا اور یہ وہ معنوٰ ہے جو غیر کا دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہوا ر عقد سے مراد اس کے قول و من عقد منهم سے وہ عکود ہیں جو فرع اور نقصان کے درمیان دائر ہیں برخلاف ہبہ لینے کے ہے کیونکہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر صحیح ہے اور طلاق اور عتقاً کے برخلاف ہے کیونکہ وہ دونوں صحیح نہیں ہیں اگرچہ ولی ان دونوں کی اجازت دے دے۔

ترجیح:

ہو منع نفاذ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ”حجّ“ کے شرعی معنی بیان کر رہے ہیں کہ حجر تصرف قولی کے نفاذ کروکرنا ہے یعنی اگر مجور نے عقد کر لیا تو وہ موقوف ہو گا پس حجر تصرف کے حکم کو ثابت ہونے سے روکتا ہے لہذا بقیدہ کرنے کی وجہ سے ملک ثابت نہ ہوگی۔

قید احترازی:

انما قال هذا سے شارح اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے کہ ”قولی“ کی قید احترازی ہے لہذا ” فعلی“ تصرف کے نفاذ سے حجر مانع نہیں ہے چنانچہ اگر بچے نے کسی کامال ضائع کر دیا یا مجنون نے کسی کا نقصان کر دیا تو وہی کو اس کی ضمان ادا کرنی پڑے گی اور فعل سے مراد ایسا فعل ہے جس کے ساتھ ایسا حکم متعلق ہو جو شہبے سے ساقطہ نہ والستہ اگر ایسا فعل کیا جس کا حکم شہبے سے ساقطہ ہو جاتا ہو جیسے زنا یا قتل کرنا وغیرہ تو ایسے فعل میں یہ محو رشماں ہوں گے اور اسی طرح ”قول“ سے مراد ایسے قول ہیں جن میں فرع اور نقصان دونوں ہوں جیسے بیع اور شراء وغیرہ لہذا وہ اقوال جن میں محض نقصان ہو جیسے طلاق اور عتقاً وغیرہ تو ان کا حکم بالکل ثابت نہیں ہو گا اور اگر ایسے قول ہوں جن میں محض فرع ہو جیسے ہبہ اور حد یہ قبول کرنا تو ان میں حجر ثابت نہیں ہوتا۔

[و فيه تفصیل لا يسعه هذا المقام من شاء فلیم اجمعه ثمہ شامی: ۲/۱۳۳، بحر الرائق: ۹/۱۴۲، فتح القدیر: ۸/۱۸۶]

حجر کے ساوی اسباب:

و سبیه الصغر و المجنون سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ حجر کے اسباب بیان کر رہے ہیں یہ بات جانتی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف الحلوقات بنایا ہے اور اپنی کمالی حکمت سے انسان میں ایسی شئی پیدا کر دی جس کی وجہ سے یہ جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے اور وہ شئی عقل ہے اور اسی کی وجہ سے سعادت حاصل ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل اور خواہش دونوں رکھ دیں اور فرشتوں میں صرف عقل رکھی اور خواہش نہیں رکھی اور جانوروں میں صرف خواہش رکھی اور عقل نہیں رکھی لہذا انسانوں میں سے جس نے اپنی عقل کو اپنی خواہش پر غالب رکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے افضل ہے اور جس نے اپنی خواہش کو عقل پر غالب رکھا وہ جانوروں سے بھی زیادہ

رذیل ہے، پس اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو دین کے علم اور حدایت کے لیے امام بنایا اور بعض انسان کو روی اساب میں بنتا کر دیا جسے جنون اور صغر وغیرہ لہذا ان دونوں (جنون اور صغیر) کے تصرف کو غیر نافذ بنایا گیا ہے کیونکہ نافذ بنانے کی صورت میں ان کو ضرر ہوتا کہ جو شخص ان کے ساتھ معاملہ کرتا وہ ان کا مال حیلے کے ذریعے لے لیتا اور قر (غلامی) مجر کا سبب حقیقت نہیں ہے کیونکہ غلام مکلف اور کامل الرأی ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کے قبضے میں موجود مال اس کے آقا کا ہے اس لیے اس کا تصرف نافذ نہ ہوگا۔

[شامی: ۶۱، تقریرات الرافعی: ۱۸۰]

المغلوب المجنون سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ مجنوں کی دو تسمیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات جانی چاہیے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول مجنوں غالب سے دو معنی مراد ہونے کا اختلاف ہے یا تو اس سے عقل پر غلبہ مراد ہے کہ اس کی عقل اس طرح خراب ہو گئی ہے کہ اس سے افعال اور اقوال کا صدور عقل کے مطابق ہونا ممکن ہے البتہ نادر طور پر کبھی ان کا صدور عقل کے موافق ہو جائے تو وہ اس کے علاوہ ہے تو عقل پر غلبہ مراد لینے کی صورت میں غیر مغلوب و شخص ہو گا جس کا کلام خراب ہو کہ بھی اس کا کلام عقلاء کے کلام کے موافق ہو جائے اور بھی ان کے موافق نہ ہو اور اس کو معتوه بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم عنقریب آئے گا ان شاء اللہ تو اس صورت میں (کہ عقل پر غلبہ مراد لیا جائے) مائن رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول مجنوں غالب سے "معتوہ" سے احتراز ہو گا اور بھی شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور اگر "مجنوں غالب" سے وہ شخص مراد لیا جائے جس سے جنون زائل نہ ہو اور اس کو افاق نہ ہو تو اس صورت میں معتوه اس میں داخل رہے گا اور اس کے ذریعے اس شخص سے احتراز ہو گا جس کو جنون ہوتا ہو اور افاق نہ ہو کیونکہ اس کا تصرف جائز ہے اور یہ مراد صحیح ہے، پس شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مراد لی ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد سے معتوه خارج ہو گا حالانکہ معتوه اس میں داخل ہے کیونکہ معتوه کا طلاق دینا صحیح نہیں جیسا کہ مجنوں کا طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔ [و فيه تفصیل مذکور فی الشامی ۱۳۲/۶]

و صلح طلاق العبد سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ غلام کا اپنی بیوی کو طلاق دینا صحیح ہے یعنی اس کی طلاق ناذن ہو گی اور غلام کے اقرار کرنے کی دو صورتیں ہیں یا تو اپنی ذات کے حق میں کسی کے لیے اقرار کرے گا یا پھر مولیٰ کے حق میں کسی کے لیے اقرار کرے گا دوسرے کی مثال یہ ہے کہ غلام نے کسی کے لیے مال کا اقرار کر لیا تو اب اس کا اقرار کرنا صحیح ہے لیکن اس کو مال ادا کرنا آزاد ہونے کے بعد لازم ہو گا کیونکہ ابھی اس مال کے ساتھ مولیٰ کا حق متعلق ہے اور پہلے (کہ اپنی ذات کے بارے میں اقرار کرے) کی مثال یہ ہے کہ کسی کے لیے حد کا یا قصاص کا اقرار کر لیا تو اب یہ اس کی ذات کے بارے میں ہے۔ لہذا فوراً اس کو حد لگائی جائے گی اور قصاص لیا جائے گا کیونکہ غلام اپنے خون کے حق میں آدمیت کی اصل پر باقی ہے اس لیے کہ حدود اور قصاص آدمیت کے خواص میں سے ہیں کیونکہ حدود اور قصاص تکالیف شرع سے ہیں جب یہ تکالیف شرع ہیں تو غلام مکلف ہونے کے اعتبار سے آدمیت کے تحت داخل ہے لہذا اس پر حدود اور قصاص لازم ہو گا، جب غلام اپنے خون کے بارے میں آدمیت کی اصل پر باقی ہے۔ لہذا مولیٰ کا اپنے غلام کے بارے میں حدود اور قصاص کا اقرار کرنا صحیح نہیں ہے۔ [البنایہ: ۱۳/۳۵۷]

و من عقد منهم سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر بچ یا غلام یا معتوه نے کسی سے بچ یا شراء کا عقد کیا تو یہ عقد اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہو گا اگر ولی اس میں مصلحت دیکھے تو اس کو نافذ کر دے اور اگر مصلحت نہ دیکھے تو فتح کر دے منهم کی ضمیر کا مرجع:

"قوله منهم یو جع سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ منهم میں هم ضمیر کا مرجع صبی، عبد اور مجنوں ہے حالانکہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں مجنوں کو مطلق ذکر کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں وہ مجنوں مراد ہے جس کو بھی افاقت بھی ہوتا ہو چنانچہ بچ اور غلام

اور معتوه (لئنی وہ مجرون مراد ہے جس کو بھی افاقت ہوتا ہے) کا عقد صحیح ہوگا کیونکہ یہ لوگ بیع اور شراء کی عقل رکھتے ہیں کہ بیع بیع کو نکالنے والی ہے اور شراء ملک میں بیع کو لانے والی ہے اور یہ بات بھی معلوم ہو کہ شن اور مشن ایک ملک میں جمع نہیں ہوتے اور ان میں سے ہر ایک نے بیع کا ارادہ بھی کیا ہو کیونکہ مذاق میں بیع اور شراء نافذ نہ ہوگی۔

اشکال:

فان المجنون قد يعقل سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اشکال مقدر کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ ہے کہ ولی کی اجازت اس وقت ضروری ہے جب عاقد بیع کی عقل رکھتا ہو اور اس کا ارادہ رکھتا ہو حالانکہ مجرون بیع رعنی اور ارادہ نہیں رکھتا تو کس طرح ولی کی اجازت سے مجرون کی بیع نافذ ہوگی۔
[البناۃ: ۱۳/۳۲۸]

جواب:

اسی اشکال کا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مجرون بیع کی عقل رکھتا ہے اور اس کے حکم کا ارادہ بھی رکھتا ہے اگرچہ مجرون مصلحت کو مفسدہ پر ترجیح نہیں دے سکتا اور یہ وہ معتوه ہے جو کسی کے وکیل بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔

والسراد بالعقد سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول من عقدمنهم میں عقد سے مراد وہ عقد ہے جس میں بیع اور ضرر دونوں کا اختال ہو جیسے بیع اور شراء چنانچہ وہ عقود جن میں محض بیع ہو جیسے ہبہ لینا تو یہ ولی کی اجازت کے بغیر صحیح ہیں اور اس طرح وہ عقود جن میں محض نقصان ہے جیسے طلاق اور عتاق تو ایسے عقود صحیح نہ ہوں گے اگرچہ ولی ان دونوں کی اجازت بھی دے دے۔

عبارات:

و لا يحجر حر مكلف بسفه و فسوق و دين هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى و عندهما و عند الشافعى
رحمه الله تعالى يحجر على السفيه و ايضاً اذا طلب القاضى غرماء المفلس الحجر عليه حجره القاضى و منه
من البيع والاقرار و عندهما و عند الشافعى رحمه الله تعالى يحجر على الفاسق زجر الله ، بل مفت ماجن و
طبيب حائل و مكارى مفلس اعلم ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى الحجر على هؤلاء الثلاثة دفعاً لضررهم
عن الناس فالمعنى المماجع هو الذي يعلم الناس الحيل والمكارى المفلس هو الذي يكاري الدابة و ياخذ
الكراء فإذا جاء او ان السفر لا دابه له فانقطع المكتري عن الرفقة.

ترجمہ:

اور آزاد مکلف کو سفر اور فسق اور دین (قرض) کی وجہ سے مجرون ہیں کیا جائے گا یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفیہ پر حجر کیا جائے گا اور یہ بھی کہ جب قاضی سے مفلس کے غرماء (قرض خواہ) حجر کو طلب کریں تو قاضی اس پر حجر کر دے گا اور اس کو بیع اور اقرار سے روک دے گا اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاسق پر حجر کیا جائے گا اس کو دانت کرنے کے لیے بلکہ بے حیامفتی اور جاہل طبیب اور کراچے پر دینے والے مفلس پر حجر کیا جائے گا تو جان لے کہ امام ابوحنیفہ ان تینوں پر حجر کرنا سمجھتے ہیں لوگوں سے ان کے ضرر کو دور کرنے کے لیے چنانچہ بے حیامفتی جو لوگوں کو حیلے سکھاتا ہے اور کراچے پر دینے والا مفلس جو جانور کو کراچے پر دیتا ہے اور کراچے لے لیتا ہے پھر جب سفر کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس جانور

نہیں ہوتا چنانچہ کرائے پر لینے والا شخص قافلے سے جدا ہو جاتا ہے۔

تشریح:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ مجر کے سماوی اسباب بیان کرنے کے بعد مجر کے کبی اسbab بیان کر رہے ہیں اس لیے کبی اسbab کو سماوی اسbab سے ذکر کرنے میں مؤخر کیا ہے اس مسئلے کو سمجھنے سے قبل سفیہ کی تعریف جان لینا ضروری ہے۔

سفیہ کی تعریف:

سفیہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دامغ میں ایسی خرابی ہو جو اس کو عقل مند ہونے کے باوجود شریعت اور عقل کے خلاف کاموں پر آمادہ کرے اور فقہاء کے عرف میں سفیہ اس کو کہا جاتا ہے جو مال کو بے جا ضائع کرتا ہو۔

اقسام:

سفیہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس میں ایسی خرابی پائی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ تصرفات کا اصل نہ رہے اس کو غالباً بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اپنے مال کو بے جا ضائع کرتا ہو خواہ شر میں ضائع کرتا ہو کہ اہل شر کو پہنچھا گھر میں جمع کرتا ہو اور ان کو کھلاتا اور پلاتا ہو اور ان کو عطا یا اور نفقہ دیتا ہو یا پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہو۔ جیسے اپنے تمام مال سے مسجد یا مدرسہ وغیرہ بنادے۔

سفیہ کا حکم:

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفیہ خواہ کسی قسم کا ہو قاضی اس کو محور نہیں کرے گا جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قاضی سفیہ کو محور کردے گا تاکہ اس کا مال حفظ ہو جائے۔

رانج قول:

مشائخ رحمہما اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ [بحر الرائق: ۱۵/۸، شامی: ۶/۱۳۸] ایضاً اذا طلب سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص پر کچھ لوگوں کا ذمین ہے اور وہ شخص مفلس ہے تو اب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو قاضی محور نہیں کردے گا جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قاضی سے جب قرض خواہ اس کا مطالبہ کریں تو قاضی اس کو محور کرے گا اور بیچ کرنے اور اقرار کرنے سے روک دے گا۔

رانج قول:

مشائخ رحمہما اللہ تعالیٰ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ [بحر الرائق: ۸/۱۵۰، شامی: ۶/۱۳۸] و عند الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یحجر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قاضی مفتی ما جن اور جاہل طبیب اور مکاری مفلس کو محور کرے گا۔

تعریفات:

مفتی ما جن (ما جن وہ کہلاتا ہے جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کہا کہہ رہا ہے) وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو باطل حیلے سکھائے مشائخ عورت کو یہ سکھایا کہ وہ مرتد ہو جائے تو اس کو شوہر سے نجات مل جائے گی یا کسی امیر آدمی کو یہ بتایا کہ وہ مرتد ہو جائے تاکہ اس سے زکوہ ساقط ہو جائے۔

مکاری مفلس وہ ہوتا ہے جو کرایہ پر جانور دیتا ہو لیکن فی الحال اس کے پاس جانور نہ ہو اور وہ کرایہ وصول کر لے اور لوگ اس پر بھروسہ

کرتے ہیں جب قافلہ جانے کا وقت آجائے تو یہ چھپ جائے اور کرائے پر لیئے والا قافلے سے رہ جائے۔

جاہل طبیب وہ ہے جو لوگوں کو غلط اور بہلک دوائیں دیتا ہو خواہ اس کو یہ بات معلوم ہو یانہ ہو۔ [الکفاۃ: ۱۹۳/۸]

اب ان تینوں پرائیم ٹلاٹھ کے نزدیک قاضی حجر کا نام گاتا کہ لوگوں کو ان سے ضرر نہ ہوتا ہم یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ حجر اصطلاحی نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے مجبور ہونے بعد کیا تو نافذ نہ ہو گا بلکہ حجر سے لغوی معنی مراد ہے کہ قاضی ان کو روک دے گا لہذا اگر مفتی نے مجبور ہونے کے بعد صحیح فتویٰ دیا تو وہ نافذ ہو گا اور اسی طرح اگر جاہل طبیب نے صحیح دوائی دے دی تو وہ صحیح ہے۔ [شامی: ۶/۱۲]

عبارت:

فَإِنْ بَلَغَ عَيْرَ رَشِيدَ لَمْ يَسْلُمْ إِلَيْهِ مَا لَهُ حَتَّى يَلْعَظُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَصَحَّ تَصْرِفُهُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ يَسْلُمْ إِلَيْهِ وَلَوْ
بِلَارْشَدًا عَلِمَ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا بَلَغَ عَيْرَ رَشِيدَ لَمْ يَسْلُمْ إِلَيْهِ مَا لَهُ اتَّفَاقَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ
إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ أَنْسَمَ مِنْهُمْ رَشِيدًا فَابْوَحْنِيفَةَ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى قَدْرَ الْأَيْنَاسِ بِالزَّمَانِ وَهُوَ خَمْسٌ وَعِشْرِينَ سَنَةً فَإِنْ
هَذَا سَنْ إِذَا بَلَغَهُ الْمَرءُ يُمْكِنُ أَنْ يَصِيرَ جَدًا لَمَّا اتَّقَى مَدْدَةَ الْبَلُوغِ إِثْنَا عَشْرَةَ حَوْلًاً وَأَدْنَى مَدْدَةَ الْحَمْلِ سَتَةَ أَشْهَرَ
فَفِي هَذَا الْمَبْلَغِ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ أَبْنَى ثُمَّ فِي ضَعْفِ هَذَا الْمَبْلَغِ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَابْنَهُ أَبْنَى فَالظَّاهِرُ أَنْ يُونَسَ مِنْهُ
رَشِيدًا فِي سِنِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَيُدْفَعُ فِيهِ إِلَيْهِ أَمْوَالُهُ وَقَبْلَ هَذَا السَّنِّ إِنْ تَصْرِفُ فِي مَا لَهُ بِيَعًا أَوْ شَرَاءً أَوْ
نَحْوِهِ مَا يَصْرِفُهُ عِنْدَ أَبِيهِ حَنِيفَةَ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَا لَا يَصْحُ لَانَهُ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ مَنْعِ الْمَالِ عَنْهُ مَفِيدٌ قَلَنَا
بَلْ يُفِيدُ لَانَ غَالِبٌ تَبْدِيزُ السَّفَهَ لَهُتَهَا فِيمَنْعِ الْمَالِ بِمَنْعِ الْهَبَةِ ثُمَّ بَعْدَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً يَسْلُمْ إِلَيْهِ مَا لَهُ وَإِنْ
لَمْ يُونَسَ مِنْهُ رَشِيدًا عِنْدَ أَبِيهِ حَنِيفَةَ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ هَذَا السَّنِّ مَظْنَةً لِرَشِيدٍ فِي دُورِ الْحُكْمِ مَعَهَا .

ترجمہ:

اور اگر بچہ بالغ ہو اور اس حاکم نے غیر رشید تھا تو اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ پچیس سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کا تصرف پچیس سال سے قبل صحیح ہے اور پچیس سال کے بعد مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا اگر بچہ وہ بالرشد ہو تو جان لے کے بچہ جب غیر رشید بالغ ہو تو اس کا مال اتفاقاً اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ سے ان کے فرمان فان انسنم میں ممنہم رشد تک چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے معرفت کو زمانے کے ساتھ مقرر کیا ہے اور وہ پچیس سال ہے کیونکہ یہ ایسی عمر ہے کہ جب بندہ اس تک پہنچ جائے تو ممکن ہے کہ وہ دادا بن جائے اس لیے کہ بلوغ کی کم ازکم مدت بارہ سال ہے اور حمل کی کم ازکم مدت چھ ماہ ہے لہذا اس مدت میں ممکن ہے کہ اس کا بیٹا بیدا ہو جائے پھر اس مدت کی مقدار کو دگنا کرنے میں ممکن ہے کہ اس کا پوتا بیدا ہو جائے چنانچہ ظاہر ہے کہ اس سے رشد پہنچانا جائے جو پچیس سال کی عمر میں ہو پس اس عمر میں اس کو مال دے دیا جائے گا اور اس عمر سے قبل اگر وہ اپنے مال میں تصرف کرے بعیش یا شراء یا ان دونوں کی طرح کے لحاظ سے تو اس کا تصرف امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اگر تصرف صحیح ہوتا تو اس سے مال کو رکنا مفید نہ ہوتا ہم نے کہا بلکہ مال رکنا مفید ہے اس لیے کہ غماء کی تبدیل یا غالبہ بہبہ کے ساتھ ہوتی ہے چنانچہ مال کو بہبہ سے روکنے کے سبب سے روکا گیا ہے پھر پچیس سال کے بعد مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا اگر چہ اس سے رشد مانوس نہ ہو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ اس عمر میں رشد کا لگان ہوتا ہے لہذا حکم اس کے ساتھ پھر گا۔

ترجمہ:

فان بلغ غیر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہوا تو وہ اس وقت غیر رشید تھا (رشد سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا مال حلال کاموں میں خرچ کرے اور حرام کاموں میں خرچ نہ کرے اور محضیت میں نہ خرچ کرے اور تبدیل نہ کرے) چنانچہ وہ مال کو ضائع کرتا ہے تو ایسے لڑکے کو اس کامال جو پچیس سال کی عمر تک متفقہ طور پر نہ دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تسو تووا السفهاء اموالکم الی فان انتstem منهم رشدًا کہ جب تم ان میں رشد پاؤ تو ان کامال ان کے حوالے کر دو۔ اور اگر وہ پچیس کے بعد بھی رشید نہ بنا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کامال اس کے حوالے کر دیا جائے گا جب کہ صاحبین رحیما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے حوالے نہ کیا جائے گا۔

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

فابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ قدر سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل دے رہے ہیں کہ رشد حاصل ہونے کا زمانہ پچیس سال کی عمر ہے اصل میں اس کو مال نہ دینے کی وجہ اس کو ادب سکھانا ہے کہ یہ مال ضائع نہ کرے اور ادب سیکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے اور وہ پچیس سال ہے، کیونکہ یہ عمر کی اتنی مقدار ہے کہ جس میں انسان دادا بن سکتا ہے اس لیے کہ بلوغ کی کم از کم مدت بارہ سال ہے لہذا بارہ سال میں اس کا نکاح ہوا پھر حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے لہذا اس اڑھ سال کی عمر میں اس کے ایک لڑکا پیدا ہو سکتا ہے پھر وہ لڑکا بارہ سال میں بالغ ہوا اور اس کا نکاح کیا جائے اور حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے اس لیے ممکن ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو اس طرح پہلے شخص کا پچیس سال کی عمر میں داد بنا ممکن ہے اور جب سن اتنی عمر کو چھنج جائے تو وہ ادب نہیں سیکھتا لہذا اس کا مال روکنے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے حوالے کر دیا جائے خواہ وہ غیر رشید ہو۔

صاحبین رحیما اللہ تعالیٰ کی دلیل:

صاحبین رحیما اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ اس سے مال روکنے کی علت اس میں رشد نہ ہونا ہے۔ لہذا جب تک رشد پیدا نہ ہو گا اس کو مال نہیں دیا جائے گا کیونکہ علت نہیں ہے لہذا معلوم بھی نہیں ہو گا۔ [العنایہ: ۱/۱۹۲]

و قبل هذا السن سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پچیس سال سے قبل اگر غیر رشید نے اپنے مال میں کوئی تصرف کیا کہ کسی شی کی بیع کی یا کچھ خریدا یا بھر وغیرہ کیا تو اس کے تصرفات صحیح ہیں اور صاحبین رحیما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا تصرف صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اگر تصرف صحیح ہو تو اس سے مال روکنے کا فائدہ نہیں ہے مال تو اس لیے روکا گیا ہے تاکہ اس میں تصرف نہ کر سکے لہذا اس کا تصرف مال ملنے سے قبل صحیح نہ ہو گا لئنسا بل یفید سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا کہ مال روکنے کا فائدہ ہے اگرچہ تصرف صحیح ہو کیونکہ جو سھاء ہوتے ہیں ان کی عام طور پر عادت مال کو بھبھ کرنے کی ہوتی ہے تو جب مال نہیں دیا گیا تو وہ بھبھ نہیں کر سکتا لہذا مال روکنے کا فائدہ ہے اگرچہ تصرف صحیح ہوں گے اور پچیس سال کے بعد اگر اس میں رشد نہ ہو تو بھی مال اس کو دے دیا جائے گا کیونکہ یہ ایسی عمر ہے جس میں رشد پیدا ہونے کا غالب گمان ہے لہذا حکم کا دار مدار اسی پر ہے۔ لہذا اگر پچیس سال کے بعد اس نے مال طلب کیا اور اس کو وصی نے نہ دیا اور وصی کے پاس ہلاک ہو گیا تو وصی مال کا ضامن ہو گا اور پچیس سال کے بعد طلب نہ کیا اور وصی کے پاس مال ہلاک ہو گیا تو ضامن نہ ہو گا۔ [در مختار ۶/۱۵۰]

عبارت:

و حبس القاضى المديون اى اجبر المديون لبيع ماله لدینه و قضى دراهم دینه من دراهمه و باع دنانيره الدراهم دینه وبالعكس استحسانا اعلم ان القياس ان لا يبيع الدراهم لاجل دنانير الدين و لا الدنانير لاجل دراهم الدين لانهما مختلفان لكن في الاستحسان يباع كل واحد لاجل الآخر لانهما متهددان في الشمنية لا عرضه و عقاره خلافاً لهما فان المفلس اذا امتنع من بيع العرض و العقار للدين فالقاضى بيعهما و يقضى دينه بالحصص و من افلس و معه عرض شراه و لم يؤد ثمنه فإنه اسوة للغرماء اى افلس و معه عرض شراه و لم يؤد الثمن فإنه اسوة للغرماء و قال الشافعى رحمه الله تعالى و يحجر القاضى على المشتري بطلبه ثم للبائع خيار الفسخ . [فصل] بلوغ الغلام بالاحتلام والاحوال والانزال والجارية بالاحتلام والحيض والحمل فان لم يوجد فحين يتم له ثمانى عشرة سنة و لها سبع عشرة و قالا فيما بتمام خمس عشره سنة و به يفتى و ادنى مدة له اثنا عشرة سنة و لها تسعة سنين فان راهقا فقا بلغنا صدق او هما كالمبائع حكماً .

ترجمہ:

اور قاضی مدین کو جس کرے یعنی مدین کو مجبور کرے تاکہ وہ اپنامال اس کے دین کے لیے فروخت کر دے اور اس کے دین کو اس کے دراهم سے ادا کر دے اور اپنے دنانیر کو اس کے دین کے دراهم کے بد لے اور عکس کے بد لے استحسانا فروخت کر دے تو جان لے کہ قیاس یہ ہے کہ دراهم کو دین کے دنانیر کے بد لے نہ فروخت کرے اور نہ دنانیر کو دین کے دراهم کے بد لے فروخت کرے اس لیے کہ وہ دونوں مختلف ہیں لیکن استحسان میں یہ ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کی وجہ سے فروخت کیا جائے اس لیے کہ وہ ثمیت میں متعدد ہیں نہ کہ اس کے سامان اور اس کی جائیداد کو صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے برخلاف ہے کیونکہ مفلس جب سامان اور جائیداد کو دین کے لیے فروخت کرنے سے زک جائے تو قاضی ان دونوں کو فروخت کر دے گا اور اس کے دین کو حصوں کے بد لے ادا کرے گا اور جو شخص مفلس ہو ادارا حالکہ اس کے پاس ایسا سامان تھا جس کو اس نے خریدا ہواں کاشن ادا نہ کیا ہو تو اس کا بالغ غرامے کے برابر ہے یعنی ایک شخص مفلس ہو ادارا حالکہ اس کے پاس ایسا سامان تھا جس کو اس نے خریدا تھا اور اس کا شمن ادا نہیں کیا تو اس کا بالغ غرامے کے برابر ہے اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قاضی مشتری پر اس کے بالغ کے طلب کرنے سے مجرم کر دے گا پھر بالغ کو خیار فسخ ہو گا (فصل) لڑکے کا بالغ ہونا احتلام اور حمل شہر نے اور انزال کے ساتھ شمار ہو گا اور لڑکی کا بالغ ہونا احتلام اور حیض اور حمل شہر نے کے ساتھ شمار ہو گا چنانچہ اگر یہ علامات نہ پائی جائیں تو جس وقت لڑکے کے اٹھارہ سال پورے ہو جائیں اور لڑکی کے سترہ سال پورے ہو جائیں صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں میں پندرہ سال پورے ہونے پر بلوغ کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اسی پر ہی فتویٰ دیا گیا ہے اور لڑکے کی کم از کم مدت دس سال اور لڑکی کی کم از کم مدت نو سال ہے چنانچہ اگر وہ قریب البلوغ ہوئے اور دونوں نے کہا ہم بالغ ہو گئے ہیں تو ان دونوں کی تصدیق کی جائے گی اور وہ دونوں حکماً بالغ کی طرح شمار ہوں گے۔

تشریح:

و حبس القاضى المديون اس عبارت کا تعلق ماقبل میں گزرنے والے دین کے مسئلے کے ساتھ ہے کہ جب ایک شخص پر چند لوگوں کا دین لازم ہو جائے اور وہ لوگ قاضی سے مدین کو مجبور کرنے کا مطالبہ کریں تو امام ابوحنیف رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک قاضی اس کو

محجور نہیں کر گے گا تو اس کا کیا حکم ہے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ قاضی مدین کو اس پر مجبور کرے کے وہ اپنامال اس دین کو ادا کرنے کے لیے فروخت کر دے اور پھر اس رقم سے قاضی اس کا دین ادا کرے و باع دنائزیر سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر سامان فروخت کرنے کی وجہ سے دنائزیر ملے حالانکہ اس کا دین دراہم تھا تو اب دنائزیر کو فروخت کر کے اس کے بد لے دراہم حاصل کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ دین ادا کیا جائے گا اور اگر سامان فروخت کرنے سے دراہم حاصل ہوئے اور دین دنائزیر تھا تو اب دراہم فروخت کر کے اس کے بد لے دنائزیر حاصل کیے جائیں گے اور اس سے دین ادا کیا جائے گا اب یہ دراہم کو فروخت کر کے دنائزیر حاصل کرنا اور دنائزیر فروخت کر کے دراہم حاصل کرنا احسانا جائز ہے البتہ قیاس کے مطابق جائز نہیں ہے اس لیے کہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے اور اس طریقے سے دین ادا کرنا تنقیح نہیں ہے۔

[شامی: ۲/۱۵۰]

احسنائی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں شعن ہونے میں متعدد ہیں اسی لیے ان کی آپس میں بیچ ہونے کی صورت میں سود جاری نہ ہو گا اور اسی وجہ سے کہ یہ دونوں شعن ہونے میں متعدد ہیں اگر ایک کا نصاب کم ہو تو دوسرے کو ساتھ ملا کر زکوہ ادا کی جائے گی لیکن صورۂ دونوں مختلف ہیں۔ لہذا ایک اعتبار سے دونوں متعدد بھی ہیں اور ایک اعتبار سے دونوں مختلف بھی ہیں تو ہم نے دونوں شبہوں کا ماظر رکھتے ہوئے کہا چونکہ یہ صورۂ مختلف ہیں اس لیے دائیں دراہم کے بد لے دنائزیر نہیں لے سکتا کیونکہ اس کا دین دراہم ہیں اور دنائزیر کو متعدد بھی ہیں اس لیے ہم نے کہا کہ قاضی ایک کو دوسرے کے بد لے فروخت کر کے دین ادا کرے گا۔

[شامی: ۲/۱۵۰]

تنقیح:

علام حموی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علام مقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے اگر دین دراہم ہو اور مدین کے پاس دنائزیر ہوں تو دائیں ان دنائزیر کو نہیں لے گا بلکہ ان کو فروخت کر کے ان کے بد لے دراہم ہی لے گا یہ متفق میں کے زمانے میں تھا البتہ ہمارے زمانے میں فتویٰ اس پر ہے کہ دائیں نے اگر دراہم لینے ہوں اور مدین کے پاس دنائزیر ہوں تو دنائزیر لے سکتا ہے ان کو فروخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

[شامی: ۲/۱۵۱]

لا عرضہ و عقارہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مدین کے پاس مال نہ ہو اور سامان یا جائیداد ہو تو قاضی اس کو دین کے لیے فروخت نہیں کرے گا مذکورہ بالآخر کلام امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر تھا البتہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر مدین مفلس ہو جائے اور غرماء اس پر مجرماً مطالبه کریں تو قاضی اس کو مجبور کر دے گا اور اگر وہ اپنا سامان فروخت نہ کرے تو قاضی خود اس کا سامان فروخت کر کے دین ادا کرے اب قاضی سامان کس طرح فروخت کرے؟ تو اس بارے میں صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ سے دور وایتیں منقول ہیں۔

پہلی روایت جو صاحب تبیین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ قاضی پہلے نقدی (یعنی دراہم اور دنائزیر) فروخت کرے اگر اس سے دین پورا نہ ہو تو سامان فروخت کر دے اور اگر اس سے بھی دین پورا نہ ہو تو جائیداد بھی فروخت کر دے دوسری روایت یہ ہے کہ قاضی پہلے اس سامان کو فروخت کرے جس کے ضائع ہونے کا ذرہ ہو اگر دین اس سے پورا نہ ہو تو اس سامان کو فروخت کرے جس کے ضائع ہونے کا ذرہ ہو پھر بھی اگر دین پورا نہ ہو تو جائیداد فروخت کر دے البتہ قاضی صحیح قول کے مطابق دو جوڑے کپڑے اس کے پاس رہنے دے تاکہ ایک پہنچنے تو دوسرے کو دھولے اور جب قاضی نے سامان فروخت کر دیا تو اب قاضی حاصل ہونے والی رقم اور دین کی طرف دیکھے اگر حاصل شدہ رقم اور دین برابر ہو تو تقسیم کر دے اور اگر حاصل شدہ رقم کم ہو اور دین زائد ہو تو اب قاضی ہر ایک دائیں کو اس کے حصے کے بقدر دے گا مثلاً حاصل شدہ رقم پانچ، دراہم ہے اور دائیں تین ہیں ایک کے نو دراہم اور

باقی دو شخصوں کے تین تین درہم ہیں چون کہ ڈین لینے والے تین شخص ہیں الہذا ایک کا حاصل شدہ رقم میں جو حصہ بتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا چنانچہ نورہم والے کا حاصل شدہ رقم میں تین درہم اور باقی دونوں کا ایک ایک درہم حصہ بتا ہے۔

[شای: ۶/۱۵۱، تقریرات الرافعی: ۶/۲۸۱]

راجح قول:

مشائخ حبهم اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ [بخاری ات/ ۸/ ۱۵۱، شای: ۶/ ۱۵۱، درحقیار: ۶/ ۱۵۱]

ومن افلس مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی سے کوئی شی خریدی اور اس کا شن ادا نہیں کیا تھا کہ وہ مفلس ہو گیا تو اب اگر اس شخص نے اس شی پر قبضہ کر لیا تھا تو باعث باقی غراماء کے برابر ہے یعنی اگر مفلس کا سامان فروخت کیا گیا تو صرف باعث کا شن نہیں ادا کیا جائے گا، بلکہ تمام غراماء کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا اور اگر اس شخص نے قبضہ نہیں کیا تھا تو اب باعث اس کو اپنا سامان نہ دے اور بعث فتح کر دے یہ ہمارا ذمہ ہے اور حضرت امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس شی پر قبضہ کر لیا اور مفلس ہو گیا تو اب اگر باعث اس پر مجرم کرنے کا مطالبہ کرے تو قاضی اس کو مجوز کر دے اور پھر باعث کو خیار فتح ہو گا کہ اپنی شی و اپس لے لے۔

[بخاری ات/ ۸/ ۱۵۲]

بلغ الغلام چونکہ صغار سہاب مجرم میں سے ہے اس لیے اب مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ صفر کی انتہاء یعنی بلوغ کا ذکر کر رہے ہیں۔
بلوغ کی تحقیق:

بلوغ کے لغوی معنی پہنچتا ہے اور اصطلاح میں یہ ہے کہ صغیر کی حد انتہاء کو پہنچ گئی۔ مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکی میں سے ہر ایک کے بالغ ہونے کی تین تین علامات ذکر کی ہیں لڑکے کی علامات یہ ہیں کہ جب اس کو احتلام ہو جائے یا اس سے کسی لڑکی کو جمل ٹھہر گیا یا اس لڑکے کو ازالہ ہو گیا البته یہ ازالہ اصل ہے کیونکہ احتلام اور احجال اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اسی طرح لڑکی کے بالغ ہونے کی علامات یہ ہیں کہ جب اس کو حیض آجائے یا احتلام ہو جائے یا جمل ٹھہر جائے یہاں مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ نے ازالہ کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ لڑکی سے ازالہ کا معلوم ہونا بہت کم ہے۔

[شای: ۶/ ۱۵۳]

فان لم يوجد یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان علامات مذکورہ میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو اس صورت میں لڑکے کا بالغ ہونا اخبارہ سال کی عمر میں شمار ہو گا اور لڑکی کا بالغ ہونا سترہ سال کی عمر میں شمار ہو گا یہ امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی علامت نہ پائی جائے تو جب ان میں سے ہر ایک کی عمر پندرہ سال ہو جائے تو بالغ ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

راجح قول:

مشائخ حبهم اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔
[الباب/ ۲، امداد المفتین/ ۲/ ۳۹، شای: ۶/ ۱۶۵۳، بخاری ات/ ۸/ ۱۵۲، الکفایہ: ۸/ ۲۰۱]

فائدہ:

مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ”فان لم يوجد“ تو اس سے معلوم ہوا کہ بلوغ میں یہی علامات معتبر ہیں الہذا اگر لڑکے کے زیناف بال آگئے یا ذا اڑھی اور موچھا آگئی اور لڑکی کے پستان ظاہر ہو گئے ہوں تو ان کی وجہ سے یہ بالغ شمار نہ ہوں گے۔ [شای: ۶/ ۱۵۳]

وادنى مدة سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ لڑکے اور لڑکی کے کم از کم عمر میں بلوغ کی مدت بیان کر رہے ہیں کہ وہ لڑکے کی بارہ سال اور لڑکی کی نو سال ہے لہذا اگر اس عمر میں یہ بالغ ہونے کا دعویٰ کریں تو ان کا قول معتبر ہو گا اور اگر اس سے قبل دعویٰ کریں تو معتبر نہ ہو گا اگر یہ دونوں قریب البلوغ ہوں اور یہ کہیں کہ ہم بالغ ہو گئے ہیں تو ان کی تصدیق کی جائے گی بشرطیکہ ظاہر حال ان کے قول کے موافق ہو مثلاً اتنی عمر ہو کہ اس جیسے کو احتلام ہو سکتا ہو تو یہ دونوں حکماً بالغ ہوں گے۔ لہذا اب احکام شرع کے مکلف ہوں گے۔ (مراہن کے اقرار کرنے کے بارے میں ایک دلچسپ قصہ شامی میں مذکور ہے۔) [من شاء فلیراجع ثمه: ۱۵۲/۶]



كتاب الغصب

كتاب الغصب شروع کرنے سے قبل چند باتیں بطور تمہید سمجھیں۔

لغوی معنی:

اس کا لغوی معنی ”زبردستی کسی سے شئی لے لینا“ ہے۔

شرعی معنی:

اس کے شرعی معنی کا بیان کتاب میں آئے گا، ان شاء اللہ رکن:

اس کا کرکن صحیح تفہیم کرنا اور باطل قضہ ثابت کرنا ہے۔

شرط:

اس کی شرط غاصب کا شئی کو منتقل کرنے کے قابل ہونا ہے۔

صفت:

غصب کی صفت یہ ہے کہ یہ حرام ہے اور غاصب پر شئی مخصوص بکا استعمال حرام ہے۔

حکم:

اس کا حکم یہ ہے کہ اگر شئی موجود ہو تو اس کو واپس کرنا واجب ہے اور اگر ہلاک ہو گئی ہو تو مثلی ہونے کی صورت میں اس کی مثل اور قسمی ہونے کی صورت میں اس کی قیمت واجب ہو گی۔

النوع:

غصب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم پر گناہ ہو کا اور وہ یہ ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہو کہ یہ غیر کامال ہے اور دوسری قسم پر گناہ نہیں ہو گا اور وہ یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ غیر کامال ہے جیسے کسی کامال ضائع کر دیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔

دلیل:

غصب کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے ”وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مُلْكٌ يَا خَذِ الْكُلُوبَ آيَٰ ۖ“ [الکهف: ۷۹]

عبارت:

هو اخذ مال متقوم محترم بلا اذن مالکه یزيل يده فالغصب لا يتحقق في الميتة لأنها ليست بمال و كذلك في الحر ولا في الجنس المسلم لأنها ليس بمتقومة ولا في مال الحر بهي لأنه ليس بمحترم قوله بلا اذن مالکه

احتراز عن الوديعة و انما قال يزيل يده لأن عند اصحابنا هو ازاله اليد المحقه باثبات اليد المبطلة و عند الشافعى رحمة الله تعالى هو اثبات اليد لمبطلة و اليشتريت ازاله اليد لمحقه قلنا كلاما في الفعل الذى هو سبب للضممان و هو ازاله اليد و يتفرع على هذا مسائل كثيرة منها ان زوائد المغصوب لا تكون مضمونة عندنا خلافا له لأن اثبات اليد متحقق بدون ازاله اليد و منها الاختلاف في غصب العقار و سياتى و منها ما قال في المتن فاستخدام العبد و حمل الدابة غصب لا حلوله على البساط اذا في الاولين نقلهما من مكان الى مكان و في الآخر البساط على حاله ولم يفعل فيه شيئاً يكون ازاله اليد وقد فرع على هذا الاختلاف تعريف المالك عن المواشى حتى هلكت و امساك الغير حتى قلع الآخر خرسه وليس هذا التفريع بمستقر لان اثبات اليد لم يوجد في هاتين المساتين ثم لا بد ان يزداد على هذا التعريف لا على سبيل الخفية ليخرج السرقة.

ترجمة:

غصب مال متقون محترم کواس کے مالک کی اجازت کے بغیر ایسا لینا ہے جو مال کا قبضہ زائل کر دے چنانچہ غصب مردار میں ثابت نہ ہوگا اس لیے کہ وہ مال نہیں ہے اور اسی طرح آزاد شخص اور مسلمان کی شراب میں ثابت نہ ہوگا کہ محترم نہیں ہے اور مصنف رحمة اللہ تعالیٰ کا قول ”بلا اذن مالکه“ ودیعت سے احتراز ہے اور سوائے اس کے نہیں مصنف رحمة اللہ تعالیٰ نے ”یزيل يده“ فرمایا ہے اس لیے کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک غصب باطل قبضے کو ثابت کر کے حق قبضے کو زائل کرنا ہے اور امام شافعی رحمة اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصب باطل قبضے کو ثابت کرنا ہے اور حق قبضے کو زائل کرنے کی شرط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارا کلام اس فعل میں ہے جو ضمان کا سبب بنے اور وہ قبضے کو زائل کرنا ہے اور اس پر بہت سارے مسائل متفرع ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ مغصوب کے زوائد ہمارے نزدیک مضمون نہیں ہیں امام شافعی رحمة اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے اس لیے کہ قبضے کو ثابت کرنا قبضہ زائل کے بغیر متحقق ہے اور ان میں سے جائیداد کے غصب کرنے میں اختلاف ہونا ہے اور یہ عقربی آئے گا اور ان میں سے یہ ہے جو متن میں مصنف رحمة اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الہذا غلام سے خدمت طلب کرنا اور جانور پر بوجھ لادنا غصب شمار ہوگا نہ کہ اس کا چٹائی پر بیٹھنا (غصب شمار) ہوگا اس لیے کہ پہلی دو اشیاء میں ان کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ نقل کرنا ہے اور دوسرا صورت میں چٹائی اپنے حال پر ہے اور اس میں ایسی کوئی شیئی نہیں کی گئی جو ازالہ شمار ہو اور تحقیق اسی اختلاف پر متفرع کیا گیا ہے مالک کو جانوروں سے دور کرنے کو بیہاں تک کہ وہ جانور ہلاک ہو جائیں اور غیر کے پکڑنے کو بیہاں تک کہ دوسرا اس کی دائرہ اکھاڑ دے اور یہ تفريح درست نہیں ہے اس لیے کہ قبضے کو ثابت کرنا ان دونوں مسئلتوں میں نہیں پایا گیا پھر ضروری ہے کہ اس تعریف پر ”لا على سبيل الخفية“ کی تیدرائندگی جائے تاکہ چوری خارج ہو جائے۔

ترجمہ:

هو اخذ مال سے مصنف رحمة اللہ تعالیٰ غصب کی شرعی تعریف ذکر کر رہے ہیں کہ غصب مال متقون محترم کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ایسا لینا ہے جو اس کا قبضہ زائل کر دے۔

فوائد قيود:

فالغصب سے شارح رحمة اللہ تعالیٰ تعریف میں مذکور قیود کے فوائد بیان کر رہے ہیں کہ مال کی قید لگائی جس سے غیر مال خارج ہو گیا الہذا مدار میں غصب ثابت نہ ہوگا اور متقون کی قید لگائی الہذا آزاد کو اور مسلمان کی شراب لینا غصب نہ ہوگا کیوں کہ مال متقون نہیں ہے

اور محترم کی قید لگائی ہے اذن ادارہ حرب میں حرbi کا مال لینا غصب نہ ہو گا اور ”بلا اذن مالک“ کی قید لگائی ہے اذن اگر مالک کی اجازت سے مال لیا جیسا کہ دعیت میں ہوتا ہے تو یہ غصب نہ ہو گا۔

فائدہ:

علامہ شمس الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس تعریف میں وو قیدوں کا مزید اضافہ کرنا ضروری ہے۔ چہل قید ”او یقصر یدہ“ ہے یعنی پوری تعریف یوں ہو ”ہو اخذ مال متقوم محترم بلا اذن مالکہ بیزیل یدہ او یقصر یدہ“ تاکہ اس قید سے غصب کی تعریف سے وہ صورت خارج نہ ہو جب غاصب شئی کو غیر مالک سے غصب کرے جیسا کہ جب غاصب متاجر سے یا مرتبہ سے یا مودع سے شئی غصب کرے تو یہ صورتیں بھی غصب شمار ہوں گی۔

دوسری قید ”علی سبیل المجاهرة“ کا اضافہ کیا جائے یعنی تعریف یوں کی جائے ”ہو اخذ مال متقوم محترم بلا اذن مالکہ بیزیل یدہ او یقصر یدہ علی سبیل المجاهرة“ تو اس سے غصب کی تعریف سے سرقہ (چوری) خارج ہو جائے گا کیونکہ غصب میں مال کو لینا جہری طریقے پر ہوتا ہے اور سرقہ میں مال لینا خفی طریقے سے ہوتا ہے اسی قید کو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا عبارت کے آخر میں ثم لا بد..... سے بیان کیا ہے کہ ”لا علی سبیل الخفیة“ کی قید سے سرقہ خارج ہو جائے گا کہ اس میں مال لینا خفی طریقے سے ہوتا ہے صاحب الاصلاح والایضاح نے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا ہے جس کا تفصیلی جواب مولانا شمس الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔

محشی نے بھی ایک قید کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس طرح کہ موصوف اور مقتدی اور قید کی طرح ہوتے ہیں اور اس تعریف میں ”اخذ مال متقوم محترم بلا اذن مالکہ“ ”موصوف ہے اور بیزیل یدہ“ اس کی صفت اور قید ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ غصب ایسا لینا ہے جو مالک کا قبضہ زائل کر دے چنانچہ اگر وہ لینا مالک کا قبضہ زائل نہ کرے تو وہ غصب نہ ہو گا جیسے ایک شخص نے کسی کے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا تو یہ غصب شمار نہیں ہو گا کیونکہ اس سے مالک کا قبضہ زائل نہیں ہوا۔

اختلاف و شوافع حبہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف:

و انما قال بیزیل سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ غصب کی تعریف میں اختلاف ذکر کر رہے ہیں کہ اختلف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصب وہ ہے جس میں باطل قبضے کو ثابت کرنے کے ساتھ حق قبضے کو زائل کر دیا جائے۔ چنانچہ غصب کے ثبوت کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ (۱) باطل قبضے کو ثابت کرنا۔ (۲) حق قبضے کو زائل کرنا جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصب کے ثبوت کے لیے صرف باطل قبضے کو ثابت کرنا ضروری ہے اور حق قبضے کو زائل کرنا شرط نہیں ہے، قلتا کلامنا سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیا ہے کہ غصب اگرچہ باطل قبضے کو ثابت کرنے سے متحقق ہو جائے گا لیکن ہمارا مقصود غصب کے بیان سے ضمان کے وجوب کو بیان کرنا ہے اور ضمان اسی وقت ہو گی جب ایسا فعل پایا جائے جو ضمان کا سبب ہو اور وہ ”از الله يد محققہ“ ہے صرف ”اثبات ید مبطلہ“ ضمان کے وجوب کے لیے کافی نہیں ہے۔

ثمرہ اختلاف:

و يتفرع على هذا سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اسی مذکورہ بالا اختلاف کے ثمرہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس پر (یعنی اختلاف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضمان کے وجوب کے لیے ”اثبات ید مبطلہ اور از الله یہ محققہ“ دونوں ضروری ہیں جب کہ امام

شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ”اثبات یہ مبطلہ“ کافی ہے) کچھ مسائل متفرع کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مخصوص کے زوائد کا احتفاظ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب ضامن نہ ہو گا جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن ہو گا۔ جیسے ایک شخص نے کسی کی بکری غصب کر لی پھر غاصب کے پاس اس بکری نے بچہ جنا اور پھر وہ دونوں ہلاک ہو گئے تواب احتفاظ کے نزدیک غاصب بکری کا ضامن ہو گا بچہ کا ضامن نہ ہو گا کیونکہ بکری میں اثبات یہ مبطلہ اور ازالہ یہ محققہ دونوں میں جب کہ بچے میں اثبات یہ مبطلہ ہے اور ازالہ یہ محققہ نہیں ہے۔ لہذا بچے کی ضمان لازم نہ ہو گی کیونکہ ضمان کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بکری اور بچے دونوں کا ضامن ہو گا اس لیے کہ ضمان کے لیے اثبات یہ مبطلہ کافی ہے اور وہ دونوں میں ہے۔

دوسرہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے جائیداد غصب کر لی اور جائیداد ہلاک ہو گی تواب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضمان لازم نہ ہو گا جب کہ امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضمان لازم ہو گا یہ اختلاف مفصل بیان کیا جائے گا۔

ان شاء اللہ تعالیٰ

فاستخدام العبد سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ”بیزیل یہدہ“ پر تفریغ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کے غلام سے خدمت لی و راس کو اپنے کام کے لیے مالک کی اجازت کے بغیر بردستی بھیجا تو یہ غصب ہو گا کیونکہ جب اس نے غلام پر تصرف کیا تو مالک کا قبضہ غلام سے زائل ہو گیا۔ لہذا ازالہ یہ محققہ پایا گیا چنانچہ یہ غصب شمار ہو گا اور ضمان واجب ہو گی اور اسی طرح ایک شخص نے کسی کے جانور پر اپنے سامان لادا تو یہ غصب شمار ہو گا کہ جب اس نے اس میں تصرف کیا تو مالک کا قبضہ زائل ہو گیا چنانچہ جب ازالہ یہ پایا گیا تو ضمان لازم ہو گی۔ لا جلوسہ سے یہ بیان کیا کہ اگر ایک شخص کسی کی چٹائی پر بیٹھ گیا تو یہ غصب شمار نہ ہو گا کیونکہ اس نے چٹائی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ازالہ یہ ثابت کرے۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تاریخ:

بندہ کی تاقد فہم کے مطابق (عصمه اللہ عن الخطاء) شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”منها ما قال في المتن“ ”تاریخ پر منی ہے یوں کہ ما قبل میں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ و یفرع علی هذا مسائل کثیرۃ اور پھر منها کے ذریعے ان مسائل کو ان کرنا شروع فرمایا اور متن کے مسائل فاستخدام العبد و حمل الدابة کو بھی انہی اختلافی مسائل میں شامل کیا اور فرمایا میںها ما قال فی المتن حالاتکہ“ فاستخدام العبد و حمل الدابة کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعریف میں مذکور ”بیزیل یہدہ“ پر متفرع کیا ہے کہ صب میں قبضہ زائل کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان دونوں صورتوں میں بھی قبضہ زائل کیا گیا ہے لہذا یہ صورتیں بھی غصب میں سے شمار ہوں گے اور ان میں شوافع کا اختلاف نہیں ہے بلکہ جس طرح ہمارے نزدیک ان میں ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان واجب ہے تو شوافع کے نزدیک بھی ضمان واجب ہے لہذا ان دونوں صورتوں کو اختلاف منی کرتے ہوئے یوں کہنا ”منها ما قال في المتن“ ”تاریخ پر منی ہے۔ البتہ لا جلوسہ علی البساط والی صورت اختلافی ہے کہ ہمارے نزدیک ضمان نہیں ہے اور شوافع کے نزدیک ضمان ہے۔

راں میں تاریخ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ [هذا ما ظهر لى و فيه احتمال الخطأ والله اعلم بالصواب]

و قد فرع سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن کو اسی مذکورہ بالاختلاف پر متفرع کیا گیا ہے لائقہ یہ تفریغ صحیح نہیں ہے۔

پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کے جانور کو مالک سے دور کر دیا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا تواب اس شخص پر ضمان نہیں ہے کیونکہ

ضمان کے لیے "اثبات یہ مبطلہ" ضروری ہے اور یہاں اثبات یہ مبطلہ نہیں ہے۔ لہذا ضمان بھی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی آدمی کو پکڑا اور دوسرے نے پکڑے ہوئے شخص کی داڑھنکال دی تو اب پکڑنے والے پر ضمان نہ ہوگی بلکہ نکالنے والے کے لیے اثبات یہ نہیں ہوا کہ اس پر ضمان لازم کرداری جائے۔

شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو اس پر متفرع کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ دونوں میں اثبات یہ نہیں ہے جب دونوں میں اثبات یہ نہیں ہے تو جس طرح احناف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضمان لازم نہ ہوگی اسی طرح شافع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ضمان لازم نہ ہوگی کیوں کہ شافع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضمان کے لیے اثبات یہ ضروری ہے جو کہ ان دونوں صورتوں میں نہیں ہے۔

عبارت:

و حکم الائتمام لمن علم و رد العین قائمة والغرم هالكة و يجب المثل في المثلى كالمكيل و لموزون
والعددى المتقارب اعلم انه جعل هذه الاقسام الثلاثة مثليا مع ان كثيرا من الموزونات ليس بمثل بل من ذوات
القيم كالقمقمة والقدر و نحوهما فاقول ليس المراد باوزنى مثلا ما يوزن عند البيع بل ما يكون مقابلته بالثمن
مبنيا على الكيل او الوزن او العدد و لا يختلف بالضعة凡ه اذا قيل هذا الشئ قفيز بدرهم او من بدرهم او
عشرة بدرهم انما يقال اذا لم يكن فيه تفاوت و اذا لم يكن فيه تفاوت كان مثليا و انما قلنا و لا يختلف بالصنعة
حتى لو اختلاف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا ثم ما لا يختلف بالصنعة اما غير مصنوع و اما مصنوع لا
يختلف كالدرام و الدنانير والفلوس النافقه فكل ذلك مثليا فاذا عرفت هذا عرفت حكم المذرعات فكل
ما يقال يباع من هذا الثوب ذراع بكلدها انما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت و هو ما يجوز فيه السلم فانه
يعرف ببيان طوله و عرضه و رقته وقد فصل الفقهاء المثليات و ذوات القيم فلا يحتاج الى ذلك فيما يوجد
له مماثل في الاسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي و ما ليس كذلك فمن ذوات القيم و ما ذكر من الكيلي
واخواته فمبني على هذا.

ترجمہ:

اور غصب کا حکم اس شخص کے لیے جو اس کو جانتا ہو گناہ ہے اور شئی کو واپس کرنا ہے دراں حاکمه و شئی موجود ہو اور تاو ان ادا کرنا ہے دراں حاکمه ہلاک ہو چکی ہو اور مثی شئی میں مثل واجب ہوگی جیسے مکلی اور موزونی اور عددی متقارب توجان لے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں اقسام کو مثلي بنایا ہے باوجود یہ کہ بہت سی موزونات مثلي نہیں ہوتی بلکہ ذوات قسمی ہوتی ہیں جیسے لوٹا، ہانڈی اور ان دونوں جیسی اشیاء چنانچہ میں کہتا ہوں کہ وزنی سے مراد وہ نہیں ہے جس کو بیج کے وقت وزن کیا جاتا ہو بلکہ وزنی وہ ہے جس کا مقابلہ ثمن کے بدلتے کیلیں، وزن یا عدد پر مبنی ہو اور وہ صنعت سے نہ بدلتی ہو کیونکہ جب کہا جائے یہ شئی ایک قفيز ایک درہم کے بدلتے ہے یا ایک من ایک درہم کے بدلتے ہے یاد من ایک درہم کے بدلتے ہے اور یہ صرف اسی وقت کہا جائے گا جب اس میں تفاوت نہ ہو اور جب اس میں تفاوت نہ ہو تو یہ مثلي ہوگی اور سوائے اس کے نہیں کہ ہم نے کہا "و لا يختلف بالصنعة" لہذا اگر وہ شئی صنعت سے بدلتی ہو جیسے لوٹا اور ہانڈی تو وہ مثلي نہ ہوگی پھر جوشی صنعت سے نہ بدلتے وہ یا تو غیر مصنوع ہوگی یا مصنوع ہوگی جو بدلتی نہ ہو۔ جیسے دراہم اور دنانیر اور فلوس نافقہ (یعنی رائج فلوس) لہذا یہ تمام مثلي ہیں چنانچہ جب آپ نے مزروعات کا حکم پہچان لیا پس ہر وہ کپڑا جس کے بارے میں یوں کہا جائے "اگر

کپڑے میں سے ایک ذرائع اتنے کے بد لے بیچا جاتا ہے، تو یہ اسی کپڑے کے بارے میں کہا جائے گا جس میں تفاؤت نہ ہو اور یہ وہ کپڑا ہوتا ہے جس میں سلم جائز ہو کیونکہ اس کی لمبائی اور باریکی پیچان لی گئی ہو تحقیق فقہاء کرام حرمہ اللہ تعالیٰ نے مثلیات اور ذوات قیم میں تفصیل کی ہے چنانچہ اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے پس جس شی کے لیے بازاروں میں ایسے تفاؤت کے بغیر جو معتبر ہو مسائل پایا جائے تو وہ مثلی ہے اور جو اس طرح نہ ہو وہ ذوات قیم میں سے ہے اور جو کیلی اور اس کی اخوات (قیمیں) ذکر کی گئی ہیں وہ اسی پر مبنی ہیں۔

شرط:

و حکمه الاثم یہ بات جانی چاہیے کہ شی مخصوصہ یا تو غصب کے پاس موجود ہو گی اگر ہلاک ہو گئی ہو تو اب غاصب کو یا تو اس بات کا علم ہو گا کہ اس نے شی غصب کی ہے یا اس کا علم نہیں ہو گا بلکہ اس نے اپنی شی سمجھ کر لی ہو گی اب اگر اس کو علم ہو تو اب اس کو گناہ بھی ہو گا اور اس پر شی کی خمان بھی لازم ہو گی اور اگر اس کو علم نہ ہو تو صرف شی کی خمان لازم ہو گی اور گناہ نہ ہو گا اور اگر شی مخصوصہ بہلاک نہ ہوئی ہو تو اس کو بعینہ واپس کرنا ضروری ہے اس کی مثل یا قیمت دینانا جائز ہے۔ [وفی قوله و حکمه الاثم اعتراض عليه صاحب نتائج الافکار من شاء فلیراجع ثمہ تکملہ فتح القدير: ۱۹۸/۸، ۲۲۶/۸، بحر الرائق: ۸]

اشکال:

اعلم انه جعل سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ متن کی عبارت پر ہونے والا اشکال اور اس کا جواب نقل کر رہے ہیں اشکال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مثلی شی کے ہلاک ہونے کی صورت میں اس کی مثل واجب ہو گی پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثلی میں نہیں اشیاء شمار کی ہیں کہ مکملی موزوںی اور عددی متقابل والی اشیاء مثلی ہیں چنان چہ موزوںی کو مطلقاً مثلی قرار دیا ہے، حالاً کہ بہت سی موزوںی اشیاء مثلی نہیں ہوتی بلکہ شی ہوتی ہیں جیسے لوٹا اور ہانڈی وغیرہ ہے جب بہت سی موزوںی اشیاء مثلی نہیں ہیں تو موزوںی کو مطلقاً مثلی کے تحت داخل کرنا درست نہیں ہے۔

جواب:

اس اشکال کا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے اس میں تابع ہے البتہ تشریح العقاید میں یہ جواب اس طرح ہے کہ متن میں جو ”الموزون“ مذکور ہے اس سے مراد ہر وہ شی نہیں ہے جس کو بعیق کے وقت وزن کیا جائے بلکہ یہ ”الموزون“ خاص ہے اس سے مراد وہ شی ہے کہ متن اس کے مقابل صرف وزن کے لحاظ سے ہو یعنی جتنا وزن ہوا تا انہیں لیا جائے اور اس شی کی صفت کے مقابل متن نہ ہو یعنی اس کی بناوٹ اور صفت کا عوض نہ لیا جائے بلکہ صرف وزن کا عوض لیا جائے جیسے گندم فروخت کرنے والا کہے کہ ایک متن وہ درہم کا ہے تو اب یہ وہ درہم ایک متن گندم کے عوض ہیں اور یہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب اس کے افراد میں تفاؤت نہ ہو جب تفاؤت نہیں ہو گا تو وہ مثلی ہو گی البتہ اگر متن وزن اور صفت دونوں کے مقابل ہو جیسا کہ لوٹا کہ متن وزن اور بناوٹ دونوں کے مقابل ہوتا ہے تو ایسی موزوںی شی مثلی میں داخل نہ ہو گی تو اب متن میں جو ”الموزون“ مذکور ہے اس سے مراد وہ موزوںی شی ہے کہ متن صرف وزن کے مقابلے ہو اور ایسی موزوںی شی مثلی ہوتی ہے اہنذا اس کو مثلی کے تحت داخل کرنا صحیح ہو گا۔

نوٹ:

فاقول ليس المراد سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا جو جواب دیا ہے بندہ کی ناقص فہم کے مطابق (عصمه اللہ عن الخطاء) اس جواب کو صحیح کرنے کے لیے کچھ الفاظ کو حذف کرنا ضروری ہے ورنہ یہ جواب تابع پر مبنی ہے وہ اس طرح کہ کیلی، موزوںی،

عددی متقارب تین الگ الگ اشیاء ہیں۔ لہذا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ”لیس المراد بالوزنی“ تو یہاں سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصود موزونی کی مراد بتانا تھا کہ موزونی وہ نہیں ہے جو بیج کے وقت وزن کی جائے بلکہ موزونی وہ ہوتی ہے کہ جس کا شمن سے مقابلہ کیل یا وزن یا عدد پر منی ہو چکا چے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیل اور عدد کا لفظ تسامحاً زائد کر دیا ہے کیوں کہ جب موزونی کی مراد بتانا مقصود ہے تو یہ کہا جائے کہ موزونی وہ ہے جس کا شمن سے مقابلہ وزن پر منی ہو۔ کیل اور عدد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے ورنہ تو موزونی شئی مکملیں اور عددی متقارب دونوں کو شامل ہو جائے گی جو کہ کسی طرح صحیح نہیں ہے اسی طرح اگلے جملے میں مثال صرف موزونی کی دینی چاہیے تھی کیل اور عدد کی مثل نہیں دینی چاہیے تھی چنانچہ مناسب ہے کہ عبارت یوں ہو۔ لیس المراد بالوزنی مثلاً مایوڈن عند البيع بل ما یکون مقابلته بالشمن مبنیا علی الوزن و لا يختلف بالصيغة فإنه اذا قيل هذا الشمن من بدرهم انما يقال اذا لم يكن فيه تفاوت الخ اب شرح الفتاویٰ کی عبارت ملاحظہ ہو۔

و الموزون ليس المراد به كل ما يوزن عند البيع بل ما يكون الشمن فيه مقابلة لمجرد وزنه من غير اعتبار الصفة حتى لو كان الشمن مقابلة لهما ينصر التبعيض كالطست والقممة لم يكن مثلياً . والله اعلم بالصواب
(هذا ما ظهر لى و فيه احتمال الخطأ والله اعلم بالصواب)

و انما قلنا سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ایک قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ موزونی وہ شئی ہوتی ہے جس کا شمن کے ساتھ مقابلہ وزن پر منی ہو اور وہ شئی صنعت (بناوٹ) سے بدلتی نہ ہو لہذا اگر وہ بناوٹ سے بدلتی ہو جیسے لوٹا اور ہائٹی کہ یہ برتن چھوٹے بڑے خوبصورت ہر طرح کے بنائے جاتے ہیں چنانچہ ان کی بناوٹ مختلف ہے جب بناوٹ مختلف ہے تو یہ مثلی نہیں ہیں۔
شم ما لا يختلف سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ موزونی کی دو تسمیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ موزونی شئی انسانوں کی پیدا کردہ ہو گی یا نہیں اگر انسانوں کی پیدا کردہ ہو تو اس کی مثال دراہم اور دناییر وغیرہ ہے اور اگر انسانوں کی پیدا کردہ نہ ہو تو اس کی مثال عددی متقارب یعنی انڈے، اخروٹ وغیرہ ہے۔ یہ دونوں تسمیں مثلی ہیں۔

فإذا عرفت سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ مزروعات کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ ما قبل میں مکملی اور موزونی اور عددی متقارب کا حکم معلوم ہو گیا کہ ان کے ہلاک ہونے کی صورت میں مثل واجب ہو گی چنانچہ مزروعات کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ جس کپڑے کے بارے میں یوں کہا جائے کہ اس کپڑے کا ہر ذرائع اتنے دراہم کا ہے تو یہ اس وقت کہا جائے گا جب اس کپڑے کے افراد میں فرق نہ ہو اور یہ وہ کپڑا ہے جس میں سلم جائز ہوتی ہے کیونکہ اس کی چوڑائی، لمبا کی اور باریکی بیان کی جاتی ہے تو یہ بھی مثلی ہو گا۔

و قد فصل الفقهاء سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ فقهاء کرام حبہم اللہ تعالیٰ نے مال مثلی اور مال قبیحی کی تفصیل بیان کی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے پھر ایک تعریف نقل کی ہے کہ جس شئی کی مثلی بازار میں پائی جائے کہ اس شئی اور مثل کے درمیان معتقد بفرق نہ ہو یہ مال مثلی شمار ہو گا اور اگر دونوں کے درمیان معتقد بفرق ہو تو مال نیکی شمار ہو گا اور متن میں جو مکملی اور موزونی اور عددی متقارب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اسی پر منی ہے کہ ان کے درمیان معتقد بفرق نہ ہو۔

بعض نے فرمایا ہے کہ امام ابوحنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال مثلی وہ ہے جس کے افراد میں ایسا تفاوت نہ ہو جس سے قیمت بدل جائے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ جس شئی کو ہلاک کرنے کے وقت ضمان مثل سے ادا کی جائے تو وہ مال مثلی ہے۔ [القاموس الفقیہ: ۳۲۲]

عبارت:

فإن انقطع المثلى فقيمه يوم يختصمان هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن القيمة يجب يوم الخصومة

و عند محمد يجب يوم الانقطاع لانه حينئذ ينتقل المثلى الى القيمة و عند ابى يوسف رحمه الله تعالى يوم تحقق السبب و هو الغصب فانه اذا انقطع المثل التحق الى مالا مثل له اقول هذا اعدل اذ لم يبق شئ من نوعه فى يوم الخصومة و القيمة تعتبر بكثرة الرغبات و قلتها و فى المعدوم هذا متذر او متعر او يوم الانقطاع لا يضرط له و ايضا لم ينتقل الى القيمة فى هذا اليوم اذ لم يوجد من المالك طلب و ايضا عند وجود المثل لم ينتقل الى القيمة و عند عدمه لا قيمة له و فى غير المثلى قيمة يوم غصبه كالعددى المتفاوت اى الشئ الذى يعود يكون افراده متفاوتة لا يراد ه هنا ما يقابل بالشمن منيا على العدد كالحيوان مثلا فانه يعد عند البيع من غير ان يقال يباع الغنم عشرة كذا.

ترجمہ:

چنانچہ اگر مثلی شئ ختم ہو جائے تو اس کی قیمت اس دن کی لازم ہوگی جس میں وہ دونوں جھگڑے ہیں یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اس لیے کہ قیمت جھگڑے والے دن کی واجب ہوتی ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انقطع والے دن کی قیمت واجب ہوگی اس لیے کہ اس دن مثلی شئ قیمتی کی طرف منتقل ہوتی ہے اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبب متحقق ہونے والے دن کی قیمت واجب ہوگی اور وہ غصب ہے کیونکہ جب مثلی ختم ہوگئی تو وہ اس سے مل گئی جس کی مثل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ قول اعدل ہے اس لیے کہ اس کی نوع میں کچھ بھی جھگڑے والے دن باقی نہ تھا اور قیمت رغبت کے زیادہ اور کم ہونے سے معتبر ہوتی ہے اور معدوم میں یہ متذر ہے یا مشکل ہے اور ختم ہونے والے دن اس کو حفظ کرنے نہیں پایا گیا اور یہ بات بھی ہے کہ مثلی اس دن میں قیمت کی طرف منتقل نہ ہوگی اس لیے کہ مالک سے طلب نہیں پائی گئی اور یہ بات بھی ہے کہ مثل کے پائے جانے کے وقت وہ قیمت کی طرف منتقل نہیں ہوتی اور مثل نہ ہونے کے وقت اس کی قیمت نہیں ہے اور غیر مثلی میں اس کے غصب والے دن والی قیمت واجب ہوگی جیسے عددی متفاوت یعنی وہ شئ جو شمار کی جائے اور اس کے افراد متفاوت ہوں یہاں وہ مراد نہیں ہے جس کا مقابلہ نہیں کے ساتھ عدد پر مبنی ہو جیسے حیوان مثلاً کیوں کہ اس کو بیع کے وقت شمار کیا جاتا ہے علاوہ ازیں کہ یوں کہا جائے کہ دس بکریاں اتنے دراهم کے بد لفروخت کی جاتی ہیں۔

ترجمہ:

اس عبارت کا تعلق ماقبل والے مسئلے کے ساتھ ہے جب غاصب کے پاس شئی ہلاک ہوگئی تو اب اگر اس کی مثل موجود ہو تو ادا کرے اور اگر مثل ختم ہوگئی ہو تو اب ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس دن ان کا جھگڑا ہوا ہے اس دن شئی کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کرنی پڑے گی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس دن وہ شئی ختم ہوتی ہے اس دن والی قیمت واجب ہوگی اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس دن غاصب نے اس کو غصب کیا تھا اس دن والی قیمت واجب ہوگی اس کی صورت یہ ہے کہ ناصر نے اشفاق سے دکلوچاول غصب کر لیے اور ان کی قیمت ۱۰۰ ا روپے تھی پھر ایک ماہ بعد چاول بازار سے ختم ہو گئے اس دن دکلوچاول کی قیمت ۲۰۰ ا روپے تھی اور ایک ماہ بعد اشفاق نے ناصر سے جھگڑا کیا اس دن دکلوچاول کی قیمت ۵۰ ا روپے تھی تو اب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناصر پر ۵۰ ا روپے ضمان لازم ہوگا اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناصر پر ۱۰۰ ا روپے ضمان لازم ہوگا اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناصر پر ۲۰۰ ا روپے ضمان لازم ہوگا۔

امام صاحب کی دلیل:

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ غاصب پر اصل میں دو گلوچاول لازم ہیں جو کہ مثیٰ ہیں تو یہ مثیٰ شیٰ کی قیمت لازم ہونا صرف بازار سے ختم ہونے سے نہیں ہوگا بلکہ قیمت اس وقت لازم ہوگی جب یہ دونوں جھگڑا کریں اور قاضی سے فیصلہ کروائیں لہذا جس دن طرح فیصلہ کروایا جائے گا اسی دن والی قیمت واجب ہوگی۔ [البنا یہ: ۳۶۰/۱۳]

امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ مثیٰ شیٰ جب ختم ہوگئی تو وہ قسمی بن گئی چنانچہ اب قیمت وہ لازم ہوگی جو سبب ضمان یعنی غصب والے دن تھی کیونکہ غصب ایسا سبب ہے جس نے مثل کو واجب کیا تھا تو جس سبب سے اصل (یعنی مثل) واجب ہوئی تھی اسی سبب سے خلیفہ (یعنی قیمت) واجب ہوگی لہذا غصب والے دن کی جو قیمت ہوگی وہ معترض ہوگی۔ [البنا یہ: ۳۶۰/۱۳]

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ غاصب کے ذمے میں مثل واجب تھی لیکن جب مثل ختم ہوگئی تو وہ شیٰ قسمی بن گئی۔ لہذا انقطاع والے کی دن جو قیمت ہوگی وہ لازم ہوگی۔

اقووں هذا سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ راجح قول کا بیان کر رہے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول اعدل ہے، پھر شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا ایک جواب دیا ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کے تین جوابات دیئے ہیں۔

اذ لم يبق سے امام عظیم کے قول کا جواب دیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے خصوصت کے دن کا اعتبار کیا ہے جب کہ قیمت کا زیادہ ہونا اور کم ہونا رغبت کے زائد اور کم ہونے پر موقوف ہے پس اگر رغبت زائد ہوگی تو قیمت زائد ہوگی اور اگر رغبت کم ہوگی تو قیمت کم ہوگی اور رغبت کا کم یا زائد ہونا موجود شیٰ میں نہیں ہوگا معلوم شیٰ میں نہیں ہوگا جس کہ جو ارسلہ اس صورت میں ہے جب مثل معلوم ہو جب وہ معلوم ہے تو اس کی قیمت کا اعتبار کرنا متعذر ہوگا۔ جب کہ کسی کو یاد نہ ہو یا مشکل ہو اگر حافظ بیان واضح پر قادر نہ ہو۔

و يوم الانقطاع سے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کا ہلا جواب دے رہے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے انقطاع والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا ہے جب کہ اس کی قیمت کو یاد رکھنا مشکل ہے کیونکہ انسان ہر اس امر کو جو آئندہ پیش آئے گا نہیں جانتا کہ وہ اس کو یاد کر لے چنانچہ انقطاع والے دن کی قیمت کو یاد رکھنا متعذر ہے۔

و ايضاً لم ينتقل سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرے جواب دے رہے ہیں کہ مثیٰ شیٰ کا قسمی کی طرف منتقل ہونا مالک کے طلب کرنے اور جھگڑے نے پر موقوف ہے اور انقطاع والے دن مالک نے طلب نہیں کیا لہذا قسمی کی طرف منتقل نہیں ہوئی۔

و ايضاً عند جود المثل سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ تیسرا جواب دے رہے ہیں کہ جب تک اس شیٰ کی مثل موجود تھی وہ قسمی نہیں تھی اور جب اس کی مثل نہ تھی تو اس کی قیمت بھی نہیں ہوگی کیونکہ معلوم شیٰ کے قیمت نہیں ہوتی۔

راجح قول:

مشائخ ترمیم اللہ تعالیٰ نے بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔

[شامی ۶/۱۸۳، ۱۹۹، جراحت ۸/۱۹۹، وفی الحامش علی البنا یہ: ۳۶۹/۱۳]

وفی غير المثل سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ قسمی اشیاء کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اگر غاصب کے پاس قسمی شکی پلاک ہوگئی اور وہ شیٰ

بازار سے منقطع ہوئی تو اب بالاتفاق اس شئی کی وہ قیمت واجب ہوگی جو غصب والے دن تھی جیسے عدی متفاوت یعنی حیوانات وغیرہ۔ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے عدی متفاوت کا ذکر بطور مثال کیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مثلى صرف عدی متفاوت ہے۔ ای الشئی الذی سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ عدی متفاوت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ جس کو شمار کیا جاتا ہوا اور اس کے افراد قیمت میں متفاوت ہوں۔

از الہ شہبة:

لایرد سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ایک شہبہ کا ازالہ فرمائے ہیں کہ ما قبل میں عدی متقارب کی تفسیر یہ گزری تھی کہ جس کا شمن سے مقابلہ عد پرمنی ہو جیسے دس انٹے تیس روپے کے ہیں لیکن یہاں عدی متفاوت سے مراد وہ شئی نہیں ہے جس کا شمن سے مقابلہ عد پرمنی ہو جیسے دس بکریوں کی بیع کرنی ہو تو یوں نہیں کیا جائے گا کہ دس بکریاں دس بزرارکی ہیں بلکہ ہر بکری کی قیمت الگ الگ شمار کی جائے گی۔

فائدہ:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”یوم غصبہ“ مطلقاً فرمایا ہے الہذا اگر غصب کے بعد اس شئی کی قیمت زائد یا کم ہوگئی یا وہی قیمت رہی ہر صورت میں غصب والے دن کی قیمت واجب ہوگی۔ [بخاری: ۲۰۰/۸]

ذکورہ بالحکم (کو غصب والے دن کی قیمت واجب ہوگی) اس صورت میں ہے جب وہ شئی اس کے پاس بذات خود ہلاک ہوئی ہو چنانچہ اگر اس نے بذات خود وہ شئی ہلاک کی تو اب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھگڑے والے دن کی قیمت واجب ہوگی اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس دن ہلاک ہوئی ہے اس دن والی قیمت واجب ہوگی۔ [شامی: ۶/۱۸۲]

عبارت:

فإن أدعى الْهَلَاكَ جُسْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ لَا ظَهَرَ ثُمَّ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْبَدْلِ وَ شَرطَهُ كُونُ المَغْصُوبِ نَقْلياً. فلو غصباً عقاراً و هلك في يده لم يضمن هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى و أبي يوسف و عند محمد رحمه الله تعالى و الشافعي رحمه الله تعالى يجري فيه الغصب أما عند الشافعي رحمه الله تعالى فلان حد الغصب هو اثبات اليدي المبطلة يصدق عليه و أما عند محمد رحمه الله تعالى فلان الغصب و ان كان عنده ما ذكرنا لكن ازاله اليدي العقار يكون بما يمكن فيه لا بالنقل و هما يقولان ان الغصب اثبات اليدي بازالة يد المالك بفعل في العين و هو لا يتصور في العقار لأن يد المالك لا تزول الا باخراجها عنا و هو فعل فيه لا في العقار فصار كما اذا بعد المالك عن الموارثي و ضمن ما نقص بفعله كسكناه و ززعه او باجارة عبد غصب اي ضمن العقار و غيره اما في العقار كالسكنى و الزرع وفي غير العقار كما اذا غصب عبد فأجره فعمل فعرض له مرض او نحافة ضمن النقصان.

ترجمہ:

الہذا اگر اس نے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کو تقدیر لیا جائے گا یہاں کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اگر وہ شئی باقی ہوتی تو یہ ظاہر کر دیتا پھر اس پر قاضی بدلت کافیصلہ کر دے اور اس کی شرط یہ ہے کہ مخصوص بمنقولی ہو چنانچہ اگر اس نے جائیداد کو غصب کیا اور وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہوگئی تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ

اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں غصب جاری ہوگا۔ بہر حال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس لیے کہ غصب کی تعریف (ید مبلکہ کو ثابت کرنا) اس پر صادق آتی ہے کہ اور بہر حال امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس لیے کہ غصب اگرچہ ان کے نزدیک وہی ہے جو تم نے ذکر کیا ہے لیکن جائیداد میں یہ محققہ کو زائل کرنا اس طرح ہوگا جو اس میں ممکن ہونہ کہ منتقل کرنے سے اور امام ابو حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غصب مالک کے قبضے کو زائل کر کے قبضہ ثابت کرنا ایسے فعل کے ساتھ جو شیئیں میں واقع ہوا ہو اور یہ جائیداد میں متصور نہیں ہے، اس لیے کہ مالک کا قبضہ اس جائیداد سے نکلنے سے ہی زائل ہوگا اور یہ مالک میں فعل کرنا ہے نہ کہ جائیداد میں چنانچہ یہ ایسے ہے جیسا کہ مالک کو جانوروں سے دور کر دیا جائے اور وہ اس کا ضامن ہوگا جو اس کے فعل سے نقصان ہوا ہو جیسے اس میں رہنا اور اس میں کھیتی باڑی کرنا یا اس غلام کو اجارہ پر دینا جس کو غصب کیا یعنی جائیداد اور اس کے علاوہ ضامن ہوگا۔ بہر حال جائیداد میں جیسے رہنا اور کھیتی کرنا اور غیر جائیداد میں جیسے جب اس نے غلام غصب کیا پھر اس کو اجرت پر دے دیا چنانچہ اس نے کام کیا پھر بیماری یا کمزوری لاحق ہو گئی تو نقصان کا ضامن ہوگا۔

تشریح:

فان ادعى کا تعلق ماقبل والی عبارت سے ہے کہ جب غاصب شی کی قیمت دینے پر راضی نہ ہو تو اسوقت قاضی اس کو قید کر دے اور اتنی مدیت قید رکھے کہ یہ بات ظاہر ہو جائے اگر شی اس کے پاس موجود ہوتی تو یہ بتا دیا پھر قاضی اس کے ذمہ مثلى ہونے کی صورت میں مثل اور قسمی ہونے کی صورت میں قیمت لازم کر دے۔

و شرطہ کون سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ غصب صرف منقولی شی میں ثابت ہوگا غیر منقولی شی میں ثابت نہیں ہوگا اس شرط و اصول کو ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فلو غصب سے اس پر تفریج پیش کر رہے ہیں کہ جب غصب صرف منقولی شی میں تحقق ہوگا چنانچہ اگر کسی نے جائیداد غصب کر لی (غصب سے لغوی معنی مراد ہے شرعی مراد نہیں ہے کیوں کہ اس میں غصب شرعی ثابت نہ ہوگا) پس ہلاک ہونے کی صورت میں غاصب ضامن نہ ہوگا اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائیداد میں غصب جاری ہوتا ہے۔ جائیداد کے ہلاک ہونے کی صورت یہ ہے کہ زمین دریا کے پانی کے نیچے آگئی۔

امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

جائیداد میں غصب ثابت ہونا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذهب پر واضح ہے کیونکہ ان کے نزدیک غصب کی تعریف یہ ہے کہ ”باطل قبضہ ثابت کیا جائے۔“ اور جائیداد پر باطل قبضہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا اس میں غصب ثابت ہوگا البتہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذهب پر اشکال ہے کہ ان کے نزدیک غصب تتحقق ہونے کے لیے یہ مبلکہ کو ثابت اور یہ محققہ کو زائل کرنا ضروری ہے حالانکہ جائیداد میں صرف یہ مبلکہ کو ثابت کرنا پایا جاتا ہے اور یہ محققہ کو زائل نہیں کیا جاتا تو اس کا جواب امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ہر شی میں قبضہ زائل کرنا اس کے مطابق ہوتا ہے، چنانچہ جائیداد میں قبضہ زائل کرنا منتقل کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے مطابق ہوگا (جو کہ ہمارے زمانے میں کاغذات پر قبضہ کر لینے اور ان میں تبدیلی کرنے سے ثابت ہو جاتا ہے) چنانچہ جائیداد میں غصب شرعی ثابت ہوتا ہے جب غصب شرعی ثابت ہوتا ہے تو جائیداد کے ہلاک ہونے کی صورت میں ضامن لازم ہوگا۔

شیخین رحمہمَا اللہ تعالیٰ کی دلیل:

شیخین رحمہمَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غصب ثابت ہونے کے لیے یہ مبلکہ کا اثبات اور یہ محققہ کا ازالہ ضروری ہے اور یہ محققہ کا ازالہ شری

میں فعل کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ شئی کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ منتقل کر دیا جائے اور اسی فعل جائیداد میں ممکن نہیں ہے کہ اس کو منتقل کر دیا جائے زیادہ غاصب مالک کو زمین سے نکال دے گا۔ تو یہ ”نکال دینا“ مالک کی ذات میں فعل کرنا شمار ہو گا۔ جائیداد میں شمار نہ ہو گا جیسا کہ جب بکریوں کے مالک کو جانوروں سے دور کر دیا جائے اور بکریاں ہلاک ہو جائیں تو جب بکریوں کے مالک کو جانوروں سے دور کر دیا جائے اور بکریاں ہلاک ہو جائیں تو اس صورت میں غصب ثابت نہیں ہو گا کیونکہ ازالہ یعنی پایا گیا چنانچہ غصب ثابت نہ ہو گا جب غصب ثابت نہ ہو گا تو جائیداد ہلاک ہونے کی صورت میں غاصب ضامن نہ ہو گا۔

راجح قول:

عقار غیر وقف میں شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول صحیح ہے اور عقار وقف میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول صحیح ہے، مذکورہ اختلاف اس وقت ہے جب عقار آفت ساویرہ سے ہلاک ہوا اگر غاصب کے فعل سے ہلاک ہو تو بالاتفاق غاصب ضامن ہو گا۔

[شامی: ۶/۱۸۷، بحر الرائق: ۲۰۱/۸، الباب: ۲/۱۰۶]

و ضمن ما نقص سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر زمین ہلاک نہ ہوئی ہو البتہ غاصب کے فعل سے اس میں نقصان آگیا ہو جیسے غاصب لوہار تھا تو گھر کی عمارت اس کام سے کمزور ہو گئی یا غاصب نے زمین میں زراعت کی تو اب غاصب نقصان کا ضامن ہو گا۔

نقصان پیچانے کے طریقے میں علماء کرام حبهم رحمہما اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے امام نصیر بن بیک رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ غاصب کے استعمال سے قبل اس زمین کا کراہی کتمان تھا اور استعمال کے بعد کتنا ملے گا جو فرق ہو گا، وہ نقصان ہے لہذا اس کا ضامن ہو گا اور امام محمد بن سلمہ نے فرمایا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ غاصب کے استعمال سے قبل یہ زمین کتنے کی فروخت ہو گی جو فرق ہو گا وہ نقصان ہے۔ لہذا اس کا ضامن ہو گا۔ امام حلوانی رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امام محمد بن سلمہ رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول اصح ہے اور اسی پر فتویٰ [شامی: ۶/۱۸۷]

فیه تفصیل جید مذکور فی الفتاوی الشامی ترکته مخافة التطويل ان شئت فطالعه.

لہذا غاصب کے نقصان کرنے کی صورت میں وہ بالاتفاق ضامن ہو گا اگر جائیداد میں ہو تو اس کی مثال ”رہنا“ اور ”کھیتی کرنا“ ہے اور اگر غیر عقار میں نقصان ہو تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کا غلام غصب کیا اور اس کو مزدوری پر دے دیا وہ غلام بیمار یا کمزور ہو گیا اور مالک نے خصوصت کا دعویٰ کیا تو اب صحت مند غلام اور بیمار غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور دونوں کے مابین فرق کا غاصب ضامن ہو گا۔

فائدہ:

مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ نے ”سکنی“ اور ”ذراعۃ“ کی مثال دی ہے یہ قید نہیں ہے بلکہ اگر ایک شخص نے زمین غصب کی ہے اور مالک سے روک لی یہاں تک کہ زمین سیم دار ہو گئی اور کاشت کے قابل نہ رہی تو اب یہ غاصب ضامن ہو گا۔ [بحر الرائق: ۸/۲۰۳]

مذکورہ بالاصورت (کہ غاصب نقصان کا ضامن ہو گا) اس وقت ہے جب غاصب نے نقصان کیا ہو لہذا اگر کسی دوسرے شخص نے زمین کو عیب دار کر دیا تو اب وہ شخص ضامن ہو گا یہ شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے جب کہ امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالک کو اختیار ہے اگر چاہے تو غاصب کو ضامن بنائے پھر غاصب مختلف سے رجوع کرے گا اور اگر چاہے تو مختلف سے رجوع کرے۔

[بحر الرائق: ۸/۲۰۲، و فیه تفصیل مذکور فی البھرا من شاء فلیراجعه]

عبارت:

وتصدق باجره و اجر مستعاره و ربیح حصل بالتصريح في موعده او مخصوص به متعيناً بالاشارة وبالشراء

بدر اہم الودیعہ او الغصب و نقدہا فان اشار اليها و نقد غیرها او الى غیرها و نقدہا او اطلق و نقدہا لا و به یفتی اى تصدق عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالیٰ و محمد رحمہ اللہ تعالیٰ خلافاً لابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ باجر عبد غصب فاجرہ و اخذ الاجرة فکذا باجرة عبد مستعار قد اجرہ و اخذ اجرہ و کذا تصدق بربح حصل بالتصرف في المودع او المغصوب اذا كان مما يتعين بالاشارة و کذا يتصدق بربح حصل بالشراء ودیعة او مغصوب لا يتعین بالاشارة اذا اشار اليها و نقدہا فقوله او بالشراء عطف على التصرف اما ان اشار اليها و نقد غیرها او اشار الى غيرها و نقدہا او اطلق و نقدہا باج لم يشر الى شئ بل قال اشتريت بالف دراهم و نقد من دراهم الغصب او الودیعہ ففي جميع هذه الصور يطيب له الربح و لا يجب له التصدق

ترجمہ:

اور غلام کی اجرت کو اور مستعار غلام کی اجرت کو جو کسی کی المانت میں تصرف کرنے سے حاصل ہو یا مخصوصہ بشی میں تصرف کرنے سے حاصل ہو دراہم حاکمہ وہ اشارے سے متین ہو اور ودیعت یا غصب کے دراہم خریدنے سے جو نفع حاصل ہو اور اس نے ان کو نقدر یا ہوتواں کو صدقہ کرے، گاچناچہ اگر اس نے ان کی طرف اشارہ کیا اور ان کے علاوہ نقدر یہ یا ان کے علاوہ کی طرف اشارہ کیا اور یہ نقدر دیے یا مطلق ذکر کیا اور یہ نقدر یہ تو صدقہ نہیں کرے گا اور اسی پر فتنی دیا گیا ہے، یعنی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ کرے گا برخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہے اس غلام کی اجرت کو جس کو غصب کیا گیا ہو پھر اس کو اجرت پر دے دیا اور اجرت غاصب نے لی لی پس اسی طرح اس عبد مستعار کی اجرت کو جس کو مستیر نے اجرت پر دے دیا اور اجرت لے لی اور اسی طرح اس نفع کو صدقہ کرے گا جو مودع (ودیعت) یا مخصوصہ میں تصرف کرنے سے حاصل ہو جب کہ وہ شئی ان اشیاء میں سے ہو جو اشارے سے متین ہو جاتی ہوں اور اسی طرح اس نفع کو صدقہ کرے گا جو اس ودیعت یا مخصوصہ کو خریدنے سے حاصل ہو جو اشارے سے متین نہیں ہوتی جب کہ ان کی طرف اشارہ کیا جائے اور انہی کو نقدر یا جائے۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”او بالشراء“ کا عطف ”التصرف“ پر ہے، بہر حال اگر اس نے ان کی طرف اشارہ کیا اور ان کے علاوہ نقدر یہ یا ان کے علاوہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ نقدر یہ یا مطلق رکھا اور وہ نقدر یہ اس طور پر کہ کسی شئی کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ اس نے کہا میں نے ہزار دراہم کے بد لے خریدا ہے اور غصب یا ودیعت کے دراہم سے نقدر یہ تو ان تمام صورتوں میں اس کے لیے نفع حلال ہے اور اس کے لیے صدقہ کرنا واجب نہیں ہے۔

شرح:

و تصدق سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عبارت میں تین صورتیں بیان کی ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کا غلام غصب کر لیا یا کسی سے غلام عاریت پر لیا اور اس کو اجرت پر دے دیا پھر وہ غلام ہلاک ہو گیا تو غاصب مالک کو اس کی قیمت دے گا اور جو اجرت اس نے لی ہے اس کو صدقہ کرے گا۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے جب کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب اجرت کو صدقہ نہیں کرے گا (یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلا قول ہے البتہ دوسرے قول کے مطابق اجرت کو صدقہ کرے گا)۔

[النبایہ: ۳۷۵/۱۳]

کذا تصدق سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شئی مخصوصہ یا ودیعت ایسی ہو جو متین کرنے سے متین نہ ہو تو امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی مزید چار صورتیں نہیں گی۔

- (۱) پہلی صورت یہ ہے کہ غاصب یا مودع نے تصرف کرتے وقت ان کی طرف اشارہ کیا ہوا اور انہی میں سے دراهم دیئے تواب حاصل شدہ نفع حلال نہیں ہوگا بلکہ اس کو صدقہ کیا جائے گا۔
- (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ غاصب یا مودع نے تصرف کرتے وقت ان کی طرف اشارہ کیا اور دراهم ان میں سے نقدنیں دیئے بلکہ دوسرے دراهم سے دیئے تواب حاصل ہونے والا نفع حلال ہوگا۔
- (۳) تیسرا صورت یہ ہے کہ غاصب یا مودع نے تصرف کرتے وقت ان کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ دوسرے دراهم کی طرف اشارہ کیا لیکن دراهم انہی میں سے ادا کیے تواب بھی حاصل ہونے والا نفع حلال ہوگا۔
- (۴) چوتھی صورت یہ ہے کہ غاصب یا مودع نے تصرف کرتے وقت مطلق دراهم کا ذکر کیا یعنی کسی بھی دراهم کی طرف اشارہ نہیں کیا اور یوں کہا میں یہ شیٰ ہزار دراهم کے بد لے خریدتا ہوں۔ پھر اس نے ہزار مخصوصہ یا وادیعت کے دراهم میں سے ادا کیے تو اس سے حاصل ہونے والا نفع حلال ہوگا۔ چنانچہ ان تین صورتوں میں صدقہ کرنا واجب نہیں ہے اور یہ نفع حلال ہے یہ امام کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذہب ہے جب کہ ہمارے مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے امام کرنی رحمہم اللہ تعالیٰ کے قول پر فتویٰ دیا ہے اور بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے دوسرے قول کو مختار فرمایا ہے: [شامی: ۶/۱۸۹، بحر الرائق: ۸/۲۰۷، هندیہ: ۵/۱۳۱، ہاشمی زیور: حصہ ۵]

عبارت:

فان غصب وغيره زال اسمه اعظم منافعه ضمنه و ملکه يلاحل قبل اداء بدلہ کذبح شاة و طبخحها و شیها او طحن بیر و زرعه و جعل الحديد سيفا و الصفر اباء و البناء على ساجة و لبن الساجة بالجيم خشبہ مخوقة مهیا للاساس عليها و هذا عندنا لانه احدث ضعة متقومة صیرت حق المالک هالکا من وجه و عند الشافعی رحمة الله تعالى لا يتقطع حق المالک عنه لان العین باق و لا يغير فعل الغاصب لانه محظور فلا يصیر سببا للملک فان ضرب الحجرین درهما او دینارا او اباء لم یملک هو لمالکه بلا شئ هذا عنده ابی حنیفه رحمة الله تعالى لان الاسم باق و معناه الاصلی الشمنیة و کونه موزونا و هو باق حتى تجري فيه الربوا و عندہما یصیران للغاصب قیاسا على غيرهما فان ذبح شاة غیره و طرحها المالک عليه و اخذ قیمتها او اخذها و ضمنه نقصانها و کذا لو حرق ثوبا او فوت بعض العین و بعض دفعه لا کله حتى لو فوت کل النفع یضمنه کن القيمة و فی یسیر نقصہ و لم یفوت شیا منها ضمن ما نقص.

ترجمہ:

اور اگر ایک شخص نے کسی شئی کو غصب کیا اور اس کو تبدیل کر دیا، دراهم حاکم اس کا نام اور اکثر منافع زائل ہو گئے تو وہ اس کا ضامن ہوگا اور وہ اس کا بدل ادا کرنے سے قبل بلاحت کے مالک بن جائے گا جیسے کبھی کو ذبح کرنا اور اس کو پکانا اور اس کو بھوننا یا گندم کو پیننا اور کاشت کر دینا اور لو ہے کو تواریا بیتیل کو برتن اور شہتیر اور اینٹوں پر عمارت بنانا۔ ”الساجة“ جیم کے ساتھ ہے وہ چھیلی ہوئی لکڑی جو تیار کی جاتی ہے تاکہ اس پر چھت رکھی جائے اور یہ ہمارے زدیک ہے اس لیے کہ غاصب نے ایسی بناوٹ پیدا کی ہے جو مقوم ہے جس سے مالک کا حق من وجہ ہلاک ہو گیا اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے زدیک مالک کا حق اس سے منقطع نہ ہوگا اس لیے کہ عین موجود ہے اور غاصب کے فعل کا اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ وہ من نوع ہے، چنانچہ وہ ملک کا سبب نہیں ہوگا پھر اگر غاصب نے مجرم (سونا اور چاندی) کو

درہم یاد بینار یا برتن بنادیا تو غاصب اس کا مالک نہ ہو گا وہ شئی بلاغ عوض اس کے مالک کی ہوگی، یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اس لیے کہ نام باقی ہے اور اس کا اصلی معنی خدمت اور موزون ہوتا ہے اور وہ باقی ہے۔ لہذا اس میں ربا جاری ہو گا اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں غاصب کی ہو جائیں گی ان کے علاوہ پر قیاس کرتے ہوئے اور اگر کسی نے بکری کو ذبح کر دیا تو مالک بکری اس کے پاس ڈال دے اور اس کی قیمت لے لے یا بکری لے لے اور اس کے نقصان کا ضامن بنائے اور اسی طرح اگر اس نے کپڑا جلا دیا یا بعض شئی اور بعض نفع فوت کر دیا نہ کہ تمام نفع کو فوت کیا تو وہ تمام قیمت کا ضامن ہو گا اور تھوڑے سے نقصان میں دراں حاکمہ شئی میں سے کچھ فوت نہ کیا ہو تو وہ نقصان کا ضامن ہو گا۔

ترجمہ:

فان غصب سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھنے سے قبل ایک ضابطہ جان لینا چاہیے۔

ضابطہ:

جب شئی مخصوصہ میں غاصب کے فعل سے تبدیلی واقع ہو جائے کہ اس کا نام اور اکثر منافع زائل ہو جائیں اور وہ شئی غاصب کی ملکیت کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ اس کو جدا کرنا ممکن نہ ہو تو مالک کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے اور غاصب اس کا مالک بن جاتا ہے لیکن ضمان ادا کرنے سے قبل غاصب کے لیے اس شئی سے نفع حاصل کرنا حلال نہیں ہے جیسے ایک شخص نے بکری غاصب کی اور اس کو ذبح کر کے پکالیا یا بھون لیا تو اب غاصب اس کا مالک بن گیا لیکن کھانا حلال نہیں ہے جب تک ضمان ادا نہ کردے اور اسی طرح اگر گندم غاصب کی اور اس کو پیس لیا یا کاشت کر دیا تو اب غاصب مالک بن گیا لیکن آٹا کھانے سے قبل ضمان ادا کرنا ضروری ہے اور اس طرح لوہا غاصب کیا اور اس سے توار بنا دی یا پتیل غاصب کیا اور اس سے برتن بنالیے تو ضمان ادا کرنے سے قبل ان کا استعمال ناجائز ہے اور اسی طرح کسی کا شہیر (وہ لکڑی) ہوتی ہے جس پر چھت بنالی جاتی ہے) غاصب کیا یا ایشیں غاصب کی اور ان پر عمارت بنالی اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب ضامن نہ ہو گا بلکہ مالک کی ملکیت زائل نہ ہوگی۔

اشکال:

شوافع رحمہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے احناف پر اشکال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک غاصب ضمان ادا کرنے سے قبل اس کا مالک بن گیا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ غاصب نے ایک حرام کام کیا ہے اور حرام کام ملک ثابت ہونے کا (جو کہ نعمت ہے) سبب نہیں بتا چنانچہ غاصب اس کا فعل حرام سے مالک نہیں بنے گا (مکشی)

احناف کی دلیل یا جواب:

لانہ احدث سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ احناف کی دلیل یا اشکال مذکورہ کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے غاصب کی ملکیت فعل حرام سے ثابت نہیں کی کہ آپ نے اشکال کر دیا بلکہ غاصب کی ملکیت ثابت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شئی میں ایک صنعت پیدا کی ہے جو مقوم ہے اور اس سے مالک کا حق کچھ نہ کچھ ہلاک ہو گیا ہے چنانچہ غاصب اس کا مالک بن گیا۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالک کا حق منقطع نہ ہو گا کیونکہ عین باقی ہے، جب عین باقی ہے تو غاصب کے فعل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا فعل حرام ہے اور حرام فعل ملک کا سبب نہیں بتا۔ لہذا غاصب اس کا مالک نہیں بنے گا۔

فان ضرب سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے سونا یا چاندی غصب کی اور پھر چاندی کے دراہم اور سونے کے دناییر بنا لیے یا سونے یا چاندی کا برتن بنادیا تو ان صورتوں میں امام ابو حنفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب اس کامالک نہیں بنے گا اور یہ سونا اور چاندی مالک کارہے گا اور اس بناوٹ کے عوض مالک کوئی شئی نہیں دے گا بلکہ مفت لے گا اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب دراہم اور دینار کامالک بن جائے گا۔

صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کو دوسرا اشیاء پر قیاس کیا ہے کہ جب غاصب لو ہے کوتلوار یا عتیل کو برتن بنادے تو وہ اس کامالک بن جاتا ہے۔ لہذا سونے اور چاندی کو دینار اور دراہم بنانے سے مالک بن جائے گا۔

امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو دینار اور دراہم بنانے سے مالک کی ملکیت بالکل زائل نہیں ہوئی کیونکہ سونے اور چاندی میں دو اشیاء تھیں ایک من ہونا اور دوسرا موزوںی ہونا اور یہ دونوں اشیاء دینار اور دراہم میں بھی ہیں کہ وہ من بھی ہیں اور موزوںی بھی ہیں لہذا ان بھی سونے کی طرح سود جاری ہوتا ہے۔

فائدہ:

مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فان غصب و غير و زال اسمه و اعظم منافعه“ اس میں کچھ تقدیمات ہیں۔

پہلی قید یہ ہے کہ اس شئی میں تبدیلی غاصب کے فعل سے ہوئی ہو چنانچہ اگر غاصب کے فعل کے بغیر شئی میں تبدیلی ہو گئی مثلاً انگور غصب کیے تھے جو پڑے پڑے کشمکش بن گئے تو اس صورت میں غاصب مالک نہیں ہو گا البتہ مالک کو خیار ہو گا چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے اور اس کا ضامن بنادے۔ [بخاری: ۲۰۸]

فان ذبح سے مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ ”زال اسمه“ کی قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ غاصب کے فعل سے اس کا نام بدل جانا ضروری ہے چنانچہ اگر اس کا نام نہیں بدل جیسے ایک شخص نے بکری غصب کی اور اس کو ذبح کر دیا تو اب مالک کو خیار ہو گا اگر چاہے تو بکری غاصب کو دے اور اس کی قیمت اس شخص لے لے اور اگر چاہے تو ذبح شدہ بکری لے لے اور نقصان کا ضامن بنائے، نقصان معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زندہ بکری کی قیمت لگائی جائے پھر ذبح شدہ بکری کی قیمت لگائی جائے جو فرق ہو اس کا ضامن بن جائے۔

و کذا لو حرق سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی کے کپڑے کو غصب کر لیا اور اس کو پھاڑ دیا یا کچھ کپڑا پھاڑا جس سے کچھ فوت ہو گیا تو ان دونوں صورتوں میں بھی چونکہ غاصب کے فعل سے نام زائل نہیں ہوا لہذا مالک کو خیار ہے اگر چاہے تو کپڑا لے لے اور نقصان کا ضامن بنائے اور اگر چاہے تو کپڑا نہ لے اور اس کی قیمت لے لے اور اگر اس نے سارا کپڑا پھاڑ دیا تو مالک کا حق ختم ہو جائے گا۔ لہذا مالک اس کو قیمت کا ضامن بنائے گا۔

وفی یسیر نقصہ سے مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی سے کپڑا غصب کیا اور اس میں تھوڑا سا نقص پیدا کر دیا جس سے کپڑے کی عین خراب نہیں ہوئی تو وہ اس نقصان کا ضامن ہو گا۔

فاحش اور یسیر کی تعریف:

”شرابلایہ“ میں نقص فاحش اور یسیر کے بارے میں تین اقوال بیان کیے ہیں۔

(۱) جو نقص ربع قیمت کے نقصان کو ثابت کرے وہ فاحش ہے اور جو اس سے کم کو ثابت کرے وہ یسیر ہے۔

(۲) نقص جس سے نصف قیمت کم ہو جائے وہ فاحش ہے اور جو نصف قیمت سے کم کو ثابت کرے وہ یسیر ہے۔

(۳) جس نقص سے بعض عین اور بعض نفع فوت ہو جائے اور بعض باقی رہے تو وہ فاحش ہے اور اگر نقص سے نفع فوت نہ ہو بلکہ اس میں کی آجائے تو یہ تیرہ ہے اور یہی قفسی صحیح ہے جیسا کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف عبارت میں اشارہ کیا ہے۔ [بخاری ۲۱۲/۸]

عبارت:

و من بني على ارض غيره او غرس امر بالقلع و الرد هذا في ظاهر الرواية و عند محمد رحمه الله تعالى ان كان قيمة البناء او الغرس اكثرا من قيمة الارض فالغاصب يملكه الارض بقيمتها و للملك ان يضمن له قيمة بناء او شجر امر بقلعه ان نقصت به اي ان نقصت الارض بالقلع ثم بين طريق معرفة قيمة ذلك فقال فتقسم بلا شجر و بناء و تقوم مع احدهما مستحق القلع فيضمن الفضل بينهما قيل قيمة الشجر المستحق للقلع اقل من قيمة مقلوعاً فقيمة المقلوع اذا نقصت منها اجرة القلع فالباقي قيمة الشجر المستحق للقلع فإذا كانت قيمة الارض مائة و قيمة الشجر المقلوع عشرة و اجرة القلع درهما بقى تسعه دراهم فالارض مع هذا الشجر تقوم بمائة و تسعه دراهم فيضمن الملك التسعة فان حمر التوب او صفر اولت السوق بسمن ضمه ابيض و مطل سويقه او اخذهما و غرم ما ذاد الصبغ و السمن فان سود ضمه ابيض او اخذه و لا شيء للغاصب لانه نقص هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ و عندهما التسوید كالتحمیر قيل هذا الاختلاف بحسب اختلاف العصر فينظر ان نقصه السواد كان نقصانا و ان زاده يعد زيادة و عند الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ الملك يمسك الثوب و يأمر الغاصب بقلع الصبغ ما امكن و لا فرق بين السواد و غيره بخلاف مسألة السوق فان التمييز غير ممکن له القياس على قلع البناء قلنا في قلع البناء لا يتلف مال الغاصب لان النقص يكون له وهنا يتلف فرعایة الجانين فيما قلنا والسوق مثلی فان طرحه على الغاصب يأخذ المثل بخلاف التوب فيأخذ فيه القيمة .

ترجمہ:

اور جس نے کسی کی زمین پر عمارت بنالی یا پودے لگادیئے تو اس کو اکھاڑنے اور واپس کرنے کا حکم دیا جائے گا یہ ظاہر الروایہ میں ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر عمارت اور پودوں کی قیمت زمین کی قیمت سے زائد ہو تو غاصب زمین کا اس کی قیمت کے ساتھ مالک بن جائے گا اور مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ غاصب کے لیے اس عمارت یا درختوں کی قیمت کا ضامن بن جائے جن کے اکھاڑنے کا حکم دیا گیا ہے اگر ان کی وجہ سے زمین میں میں کمی ہو گی یعنی اگر زمین میں اکھاڑنے سے نقص پڑ گیا ہو پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت پہچاننے کا طریقہ بیان کیا چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ زمین کی درخت اور عمارت کی بغیر قیمت لگائی جائے اور ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ قیمت لگائی جائے جس کے اکھاڑنے کا مستحق ہے پس وہ ان دونوں کے درمیان فرق کا ضامن بن جائے گا کہا گیا ہے اس درخت کی قیمت جو اکھاڑے جانے کا مستحق ہے زیادہ کم ہوتی ہے اکھاڑے گئے درخت سے چنانچہ اکھاڑے گئے درخت کی قیمت سے جب اکھاڑنے کی اجرت کو کم کر دیا جائے تو باقی اس درخت کی قیمت ہو گی جو اکھاڑے جانے کا مستحق ہے پس جب زمین کی قیمت سورہم ہو اور اکھاڑے گئے درخت کی قیمت دس درہم ہو اور اکھاڑنے کی اجرت ایک درہم ہو تو سورہم باقی رہ گئے پس زمین کی اس درخت کے ساتھ ایک سورہم ایک سورہم قیمت لگائی جائے گی۔ چنانچہ زمین کا مالک سورہم کا ضامن ہو گا اور اگر غاصب نے کپڑے کو سرخ رنگ دے دیا ہے زرد رنگ دے دیا یا ستوکھی سے ملا دیا تو وہ سفید کپڑے کا اور اس کی مثل ستوا کا ضامن بنایا جائے گا یا مالک ان دونوں کو لے لے اور جو رنگ

اور کچھی زائد ہوا ہے اس کا توان دے اور اگر اس نے سیاہ رنگ دے دیا تو وہ سفید کا ضامن بنائے گایا مالک اس کو لے لے اور غاصب کے لیے کچھنہ ہواں لیے کہ کپڑا اس سے ناقص ہو گیا ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک سیاہ رنگ دینا سرخ رنگ دینے کی طرح ہے کہا گیا ہے یہ اختلاف زمانے کے اختلاف کے سبب سے ہے پس دیکھا جائے گا اگر کا لے رنگ نے کپڑے میں کمی کر دی ہے تو یہ نقصان شمار ہو گا اور اگر زیادتی کر دی ہے تو یہ زیادتی شمار ہو گی اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالک کپڑے کو روک لے گا اور غاصب کو رنگ اتارنے کا حکم دے گا جتنا ممکن ہو اور سیاہ اور اس کے غیر میں فرق نہیں ہے برخلاف ستون کے مسئلے کے ہے کیونکہ اس کو جدا کرنا ممکن نہیں ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل عمارت کو اکھاڑنے پر قیاس کرنا ہے ہم نے کہا عمارت کے اکھاڑنے میں غاصب کا مال ضائع نہیں ہو گا اس لیے کہ ثوئی ہوئی عمارت اسی کی ہو گی اور یہاں مال ضائع ہو گا چنانچہ دونوں جانبوں کی رعایت اس میں ہے جو ہم نے کہا ہے اور ستونی ہے چنانچہ اگر مالک نے یہ غاصب پر ڈال دیے تو مثل لے گا برخلاف کپڑے کے ہے کہ اس میں قیمت لے گا۔

شرطح:

و من بنسى على سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی کی زمین غصب (غصب یہاں لغوی معنی میں ہے کیونکہ ٹھین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین میں غصب شرعی نہیں ثابت ہوتا) کر لی پھر اس پر عمارت یاد رخت لگا لیے تو ظاہر الروایۃ کے مطابق غاصب کو عمارت اور درخت اکھاڑنے کا اور زمین واپس کرنے کا حکم دیا جائے بشرطیکہ اکھاڑنے سے زمین کا نقصان نہ ہو اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیکھا جائے گا اگر زمین کی قیمت عمارت کی قیمت سے زیادہ ہو تو غاصب کو اکھاڑنے اور حوالے کرنا کا حکم دیا جائے گا اور اگر زمین کی قیمت عمارت کی قیمت سے کم ہو تو غاصب اس زمین کی قیمت دے کر اس کا مالک بن جائے گا۔ [بخاری الاق]

وللملالک ان يضمن سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس عمارت یاد رختوں کے اکھاڑنے سے زمین کا نقصان فاحش ہو کہ وہ کسی قابل نہیں رہے گی تو اب مالک غاصب کو اس عمارت یاد رختوں کی قیمت دے دے لیکن قیمت وہ ہو گی جو اکھڑی ہوئی عمارت یا درختوں کی ہوتی ہے اور اگر عمارت یاد رخت اکھاڑنے سے تھوڑا سا نقصان ہو تو اب مالک زمین کو لے لے۔ [شامی: ۶/۱۹۲]

ثم بین طریق سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ زمین کا نقصان ہونے کی صورت میں مالک اکھاڑے ہوئے درختوں کا ضامن ہو گا اور موجودہ درختوں کا مالک بن جائے گا اب موجودہ درختوں کی قیمت جو اکھڑے ہوئے درختوں کے مطابق دینی ہے یہ قیمت کس طرح معلوم ہو گی اس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس زمین کی درختوں اور عمارت کے بغیر قیمت لگائی جائے پھر عمارت اور درختوں میں سے جس کو اکھاڑنا ہواں کے ساتھ زمین کی قیمت لگائی جائے جو فرق ظاہر ہو، اس کا مالک ضامن بن جائے، چنانچہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ زمین کی درمرتبہ قیمت لگائی جائے ایک مرتبہ تہراز میں کی اور دوسرا مرتبہ ان درختوں یا عمارت کے ساتھ جو اکھاڑنے کے مستحق ہو گے ہیں۔ اب جو درخت اکھاڑے جانے کے مستحق ہو گئے ان کی قیمت اکھڑے ہوئے درختوں سے کم ہوتی ہے کیونکہ اکھڑے ہوئے درخت کی قیمت میں اکھاڑنے والے کی اجرت بھی شامل ہوتی ہے جو کہ لگے ہوئے درختوں کی قیمت میں شامل نہیں ہوتی، پس جب اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت سے اکھاڑنے والے کی اجرت کو کم کیا جائے گا تو ان درختوں کی قیمت معلوم ہو جائے گی جو اکھاڑے جانے کے مستحق ہیں، اس کی مثال یوں سمجھئے کہ زمین کی قیمت سودا ہم ہے اور بازار سے اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت معامل کی تو وہ دس دراہم ہے اور اکھاڑنے والے کی اجرت ایک دراہم ہے پس معلوم ہوا کہ موجودہ درختوں کی قیمت نو دراہم ہے پس زمین کا مالک نو دراہم غاصب کو دے کر درختوں کا مالک بن جائے گا

فان حمر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کپڑا غصب کیا اور اس کو سرخ رنگ یا زرد رنگ دے دیا یا ستون غصب کیے اور ان کو گھنی میں ملا دیا تو اب مالک کو اختیار ہے خواہ کپڑا اور ستون غاصب کو دے دے اور اس کو سفید کپڑے اور ستون کا ضامن بنائے اور اگر چاہے تو رنگین کپڑا یا گھنی ملے ہوئے ستولے اور رنگ اور گھنی کی قیمت غاصب کو ادا کر دے۔ اس صورت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اگر غاصب نے کپڑے کو سیاہ رنگ دے دیا تو اب بھی مالک کو اختیار ہے اگر چاہے تو سفید کپڑے کا ضامن بنائے اور اگر چاہے تو سیاہ کپڑا لے اور غاصب کو کچھ نہ دے یہ امام ابوحنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس صورت کا حکم بھی ما قبل والی صورت کی طرح ہے کہ اگر سیاہ کپڑا لینا چاہے تو سیاہ رنگ کی قیمت غاصب کو دے لیکن یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے بلکہ عصری ہے کہ امام عظیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سیاہ رنگ عیب تھا اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عیب نہ تھا چنانچہ ہر ایک نے اپنے زمانے کے لحاظ سے حکم بیان کیا ہے البتہ صحیح بات یہ ہے کہ رنگوں کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ اس رنگ کی وجہ سے کپڑے کی قیمت زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے اگر زیادتی ہوئی ہو تو مالک رنگ کی قیمت دے دے اور اگر کمی ہوئی ہو تو قیمت نہ دے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ احتجافِ حرمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب غاصب نے کپڑے کو رنگ دے دیا تو مالک کو اختیار ہو گا اگرچا ہے تو اس کا ضامن بنائے اور اگرچا ہے تو کپڑا لے لے۔ جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالک اسی کپڑے کو روک کر غاصب کو حکم دے گا کہ اس کا رنگ اتارو جتنا ممکن ہو سکے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بناء اور شجر والے مسئلے پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح وہاں غاصب کو عمارت اور درخت اکھاڑے کا مکلف بنایا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی رنگ اتارنے کا مکلف بنایا جائے گا۔ البتہ ستوکے مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہماری مخالفت نہیں کرتے کیونکہ ستوکو گھی سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا غاصب کو اس کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

قىلنا فى ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا کہ کپڑے والے مسئلے کو عمارت اور درختوں والے مسئلے پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے کیونکہ عمارت اور درخت اکھڑے کی صورت میں غاصب کامال (یعنی عمارت کا سامان وغیرہ) ضائع نہیں ہوا اور وہ اس کے کام آئے گا جب کہ کپڑے کی صورت میں رنگ جو کہ غاصب کامال ہے اگر رنگ اتارنے کا حصرم دیا جائے گا تو یہ رنگ ضائع ہو جائے گا۔ لہذا ہم نے جو کہا ہے اس میں دونوں فریقین کی رعایت ہے کہ اگر مالک کپڑے رنگ کے ساتھ لے گا تو رنگ کی قیمت دے دے گا تو غاصب کی رعایت ہو گی اور مالک کی بھی رعایت ہو گئی کہ اس کو کپڑا مل گیا۔ البتہ علامہ ابو عصمه رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر مالک چاہے تو رنگیں کپڑے کو فروخت کر دے پھر مالک کپڑے کی قیمت لے لے اور غاصب رنگ کی قیمت لے لے علامہ ابن حکیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قول کو احسن فرمایا ہے۔

[بجز الرائق: ۲۱۳/۸]

و السویق سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ متن کی عبارت ”ضمنہ ابیض و مثل سویقه“ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ سویق مثلی اشیاء میں سے ہے اور کپڑا تکی اشیاء میں سے ہے لہذا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ مالک اس کو سفید کپڑے کا ضامن بنائے اس سے مراد سفید کپڑے کی قیمت ہے یا اس وقت ہے جب مالک نے کپڑے کا وصف یعنی لمبائی، چوڑائی، موٹائی بیان نہ کی ہو اور اگر یہ بیان کردی تو پسپر کپڑے میں بھی اسی کے مثل کپڑا لازم ہو گا جیسا کہ یہ بات شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماقبل گزرنے والے کلام (فاذ اعرفت هذا عرفت حکم المذروعات الخ) سے مفہوم ہوتی ہے۔ [واللہ اعلم بالصواب] اور یہ جو فرمایا ہے کہ ستوکی مثل کا ضامن بنائے تو اس سے مراد یہ ہے انہی کی مثل ستولے۔

فصل

عبارت:

ولو غيب ماغصب و ضمن المالك قيمة ملکه خلافا للشافعی رحمة الله تعالى لان الغصب لا يكون سببا للملك قلنا انما يملکه ضرورة ان المالک يملک بدلہ لئلا يجتمع البدل و المبدل في ملک شخص واحد بخلاف ما لا يقبل الملك كالمندب. و صدق الغاصب في قيمة مع حلفه ان لم يقم حجة الزيادة، فان ظهر المغصوب و قيمته اکثر و قد ضمن الغاصب بقوله اخذه المالک و رد عوضه او امضى الضمان و ان ضمن بقول مالکه او بحجة او بنکول غاصبه فهو له و لا خيار للملك لانه تم ملکه لان الملك رضي بذلك حيث ادعى عليه هذا المقدار و نقيب غاصب ضمن بعد بيعه لا اعتاق عبده ضمن بعده لان الملك المستند کاف لنفاذ البيع لا للاعتاق و زوائد الغصب متصلة كالسمن و الحسن و منفصلة كالولد و الشمر لا يضمن الا بالتعدي او بالمنع بعد الطلب هذا عندنا و عند الشافعی رحمة الله تعالى مضمونة وقد مر ان هذا مبني على الاختلاف في حد الغصب و ضمن نقصان و لادة معه و جبر بولد بقى به خلاف لزفر و الشافعی رحمة الله تعالى فان الولد ملکه فلا يصلح جابرًا للملکة قلنا سبهماشی واحد و هو الولادة و مثل هذا لا يعد نقصانا.

ترجمہ:

اور اگر غاصب نے اس شی کو جو غصب کی غاصب کر دیا اور مالک نے اس کو اس شی کی قیمت کا ضامن بنا دیا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا برخلاف امام شافعی رحمة الله تعالى کے ہے اس لیے کہ غصب ملک کا سبب نہیں ہے ہم نے کہا سوائے اس کے نہیں کہ وہ اس کا مالک اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے بنائے کہ مالک اس کے بدل کا مالک بن گیا ہے تاکہ بدل اور مبدل ایک شخص کی ملکیت میں جمع نہ ہو جائیں برخلاف اس کے ہے جو ملک قبول نہ کرے جیسے مدبراً و غاصب کی اس کی قیمت کے بارے میں اس کے حلف کے ساتھ تصدیق کی جائے گی اگر زیادتی کی گواہی قائم نہ ہو پھر اگر شی مخصوص طاہر ہو جائے اور اس کی قیمت اکثر ہو دراں حالکہ غاصب اپنے قول سے ضامن بنا ہو تو مالک اس کو لے لے گا اور اس کا عوض واپس کر دے گایا مالک ضامن کو جاری رکھے اور اگر غاصب مالک کے قول سے ضامن بنا ہو یا گواہی یا غاصب کے قسم اٹھانے کے انکار سے تو وہ شی اس کی ہوگی اور مالک کو خیر نہ ہو گا اس لیے کہ اس کی ملکیت تام ہو گئی ہے کیونکہ مالک اس پر راضی ہو گیا ہے اس طور پر کہ مالک نے اس پر اس مقدار کا دعویٰ کیا ہے اور اس غاصب کی بیع نافذ ہو گی جو شی کی بیع کے بعد ضامن بنا ہونہ کے غصب کے غلام کو آزاد کرنا صحیح ہے جس کو آزاد کرنے کے بعد ضامن بنا ہواں لیے کہ ملک مستند بیع نافذ ہونے کے لیے کافی ہے نہ کہ اعتاق کے لیے اور غصب (مراد مخصوص ہے) کی زوائد کا خواہ متصل ہوں جیسے موٹا ہونا خوب صورت ہونا یا متفصل ہوں جیسے بچہ اور پھل کا ضامن تعدی سے اور طلب کرنے کے بعد منع کرنے سے ہی ہو گا یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی رحمة الله تعالى

کے نزدیک یہ مضمون ہیں۔ اور یہ بات گزر چکی ہے کہ غصب کی تعریف میں اختلاف پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ولادت کا ضامن ہو گا اور باقی رہنے والے بچے سے یہ نقصان پورا کیا جائے گا۔ برخلاف امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہے کیونکہ بچے مخصوص کی ملک ہے لہذا وہ اس کی ملک کے لیے جابر بنے کی صلاحت نہیں رکھتا، ہم نے کہا ان دونوں کا سبب ایک شئی ہے اور وہ ولادت ہے اور اس کی مثل کو نقصان شمار نہیں کیا جاتا۔

تشریح:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس فصل میں متفرق مسائل کو جن کا غصب سے تعلق ہے بیان کریں گے۔ [بخارا نق: ۲۱۵/۸] و لو غیب سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شئی مخصوصہ بکو غاصب نے غاصب کر دیا اور ماں کے نے اس کو ضامن بنا دیا تو اب غاصب اس شئی کا مالک بن جائے گا یہ احناف کا مذہب ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب ضامن ادا کرنے کے بعد بھی ماں کے نہیں بنے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

ان کی دلیل یہ ہے کہ غصب بھی فعل حرام ہے جب یہ فعل حرام ہے تو ملک ثابت ہونے کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ ملک مشروع ہے اور غصب غیر مشروع ہے۔ لہذا غیر مشروع شئی مشروع کے ثابت ہونے کا سبب نہیں ہو سکتی جیسا کہ اگر غاصب نے کسی کا مد بر غلام غصب کر لیا ہوا اور وہ غلام بھاگ جائے پھر ماں کا مالک غاصب کو غلام کی قیمت کا ضامن بنائے تو متفقہ طور پر غاصب ضامن ادا کرنے کے باوجود ماں ک نہیں بنتا تجہی مدد بر کی صورت میں ماں کے نہیں بنتا تو ہر شئی کا مالک نہیں بنے گا۔ [البناۃ: ۵۰۸/۱۳]

احناف کی دلیل:

قلنا انما سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ احناف حبہم اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں جو کہ ایک اصول پر مبنی ہے اصول یہ ہے بدل اور مبدل ایک شخص کی ملک میں جمع نہیں ہو سکتے چنانچہ جب غاصب نے شئی مخصوصہ بکی ضامن یعنی بدل دے دیا تو جو شخص بدل کا مالک بن جائے گا تو مبدل اس کی ملک سے خارج ہو جائے گا جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مدد بر پر قیاس کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مدد بر ایسی شئی ہے جو ایک ملک سے دوسری ملک میں منتقل نہیں ہو سکتا جب یہ ایک ملک سے دوسری ملک میں منتقل نہیں ہو سکتا تو بدل ادا کرنے کے باوجود غاصب اس کا مالک نہیں بنے گا۔ [البناۃ: ۵۰۸/۱۳]

نوٹ:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اگر ”ولو غیب“ کی بجائے ”لو غاب“ فرماتے تو یہ احسن ہوتا کیونکہ اگر شئی مخصوصہ بکو غاصب کے فعل کے بغیر غاصب ہو جائے تو بھی ضامن ادا کرنے کی صورت میں غاصب ماں کے بن جاتا ہے، چنانچہ غاصب کے فعل اور عدم فعل کو اس میں دخل نہیں ہے بلکہ شئی غاصب ہونے پر یہ حکم ہے۔ لہذا ”لو غاب“ فرمانے کی صورت میں یہ حکم عام ہو جائے گا۔ [بخارا نق: ۲۱۶/۸] و صدق الغاصب سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کی شئی غصب کی اور وہ شئی اس نے غاصب کر دی یا غاصب ہو گئی پھر ماں کے نے اس پر دعویٰ کیا اب اس شئی کی قیمت میں اختلاف ہو گیا ماں کے نے کہا کہ وہ دس درہم کی تھی اور غاصب نے کہا کہ وہ پانچ درہم کی تھی اب ماں کے زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے اور غاصب زیادتی کا منکر ہے۔ لہذا ماں کے مدعا ہے اور غاصب مدعا علیہ ہے اب اگر ماں اپنے دعوے پر گواہی قائم کر دے تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور اگر ماں کے پاس گواہی نہ ہو تو غاصب سے

حلف لیا جائے گا اگر اس نے حلف اٹھالیا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ البتہ اگر غاصب کے پاس بھی گواہی ہو تو اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی بلکہ اس سے صرف حلف لیا جائے گا۔

لہذا جب فیصلہ ہو گیا اور غاصب نے اس شئی کی قیمت ادا کر دی پھر کچھ عرصے بعد وہ شئی جو غاصب ہو گئی تھی مل گئی اور اس کی قیمت اس رقم سے جو غاصب نے ضمان میں ادا کی تھی زیادہ تھی یا برابر تھی یا کم تھی، تینوں صورتوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ غاصب نے ضمان کس کے قول کے مطابق ادا کیا تھا اگر غاصب نے اپنے قول کے مطابق ضمان ادا کیا تھا تو اب مالک کو اختیار ہو گا، اگر چاہے تو شئی لے لے اور اس کا عوض واپس کر دے اور اگر چاہے تو شئی غاصب کے پاس رہنے دے اور ضمان کو باقی رکھے۔ البتہ اگر غاصب مالک کے قول کے مطابق ضامن بنا تھا یا مالک نے اپنے دعوے پر گواہی پیش کی تھی اور گواہی کی وجہ سے ضامن بنا تھا یا مالک کے پاس اپنے دعوے پر گواہی نہ تھی اور قاضی نے غاصب سے حلف اٹھانے کو کہا تو اس نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور قاضی نے مالک کے قول کے مطابق فیصلہ کر دیا تو اب وہ شئی غاصب کی ہو گی اور مالک کو کسی قسم کا اختیار نہ ہو گا کیونکہ غاصب کی ملکیت اس شئی پر مکمل ہو چکی ہے کہ مالک نے جتنی مقدار کا دعویٰ کیا تھا تو وہ اس پر راضی تھا اور غاصب نے مالک کی رضاء اور دعوے کے مطابق قیمت ادا کی ہے جب قیمت یعنی میں مالک کی رضاء شامل ہے تو اس کو اختیار نہ ہو گا۔

و نفذ بیع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر غاصب نے شئی مخصوصہ کو فروخت کر دیا اور پھر اس کا ضمان ادا کر دیا تو اس کی بیع نافذ ہو جائے گی اور اگر غاصب نے مخصوصہ غلام کو آزاد کر دیا تو یہ آزاد کرنا نافذ نہ ہو گا۔

فرق:

لان المُلْك سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں میں فرق بیان کر رہے ہیں کہ شئی مخصوصہ میں غاصب کی ملکیت ناقص ہوتی ہے کیونکہ وہ مستند ہوتی ہے اور جو ملک مستند ہو وہ من وجہ ثابت ہوتی ہے اور حقیقی طور پر ثابت نہیں ہوتی چنانچہ ایسی ملک ناقص ہوتی ہے اور ناقص ملک بیع کے نافذ ہونے کے لیے کافی ہے اور آزادی نافذ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔

فائدہ:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ضمن بعد بیعہ“ کہ بیع کے بعد ضمان ادا کیا ہو چنانچہ اگر مالک نے غاصب کو شئی فروخت کر دی یا ہبہ کر دی تو اب غاصب کی بیع نافذ نہ ہو گی بلکہ باطل ہو گی۔

اور یہ جو فرمایا ہے کہ غاصب نے بیع کے بعد ضمان ادا کیا ہو تو اس ضمان سے مراد یہ ہے کہ غصب والے دن کے مطابق ضمان ادا کیا ہو تو اس کی بیع نافذ ہو گی۔ لہذا اگر غاصب نے بیع والے دن کی ضمان ادا کی تو یہ ناجائز ہے یعنی اگر غصب کے دو ماہ بعد شئی کی بیع کی اب بیع والے دن اس کی قیمت سورہ پر ہے اور غصب والے دن ستر روپے تھی تو غاصب مالک کو ستر روپے دے گا تو اس کی بیع نافذ ہو گی اور اگر غاصب نے سورہ پر دیئے تو یہ بیع نافذ نہ ہو گی۔

ضمن نقصان سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے حاملہ باندی غصب کی اور باندی نے غاصب کے پاس بچے کو جنم دیا اور باندی میں ولادت کی وجہ سے نقص پڑ گیا تو غاصب اس نقصان کو پورا کرے گا البتہ اگر وہ نقصان بچے کی قیمت سے پورا ہو جائے تو صحیح ہے ورنہ پورا نہ ہونے کی صورت میں نقصان غاصب پر لازم ہو گا یہ ہمارا نہ ہب ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نقصان بچے سے پورا نہیں کیا جائے گا کیونکہ بچہ بھی مالک کی ملکیت ہے جب یہ مالک کی

ملکیت ہے تو یہ کس طرح نقصان کو پورا کرے گا۔

قلنا سببها سے احتفاظ رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے شارح رحمہم اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ زیادتی (بچہ) اور نقصان (یعنی باندی میں جو نقص ہوا) کا سبب ایک ہے اور وہ ولادت ہے کیوں کہ اس کی وجہ سے بچہ بھی ہوا اور باندی میں نقص بھی ہوا جب ولادت دونوں کا سبب ہے تو اس کو نقصان شمار نہیں کیا جائے گا (یعنی یہ ولادت صرف باندی میں نقص کا نسب نہیں ہے بلکہ بچہ کا بھی سبب ہے جب دونوں کا سبب ولادت ہے تو صرف باندی کے نقص کو شمار کرنا اور بچہ کو شمار نہ کرنا مناسب نہیں بلکہ دونوں (نقصان اور زیادتی) کو جمع کیا جائے گا اگر نقصان بڑھ جائے تو غاصب ادا کرے گا۔

عبارت:

فلو زنی بامة غصباها فردت حاملاً في ولدت فماتت ضمن قيمتها هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند هما لا يضمن لان الرد وقع صحيححا و قد ماتت في يد المالك بسبب حادث في ملكه و هو الولادة و له انه لم يصح الرد لأن سبب التلف حصل في يد الغاصب بخلاف الحرة لأنها لا تضمن بالغصب ليقي الضمان بعد فساد الرد ثم عطف على الحرة قوله، و منافع ما غصب سكنه او عطله فانها غير مضمونة باجر عندها سواء استوفى المنساق كما اذا اسكن في الدار المقصوبة او عطلها و عند الشافعي رحمه الله تعالى مضمونة باجر المثل في الصورتين و عند مالك مضمونة ان استوفى لا ان عطلها و هذا بناء على عدم تقويمها عندنا و ان تقومها ضروري في العقد. و اتلاف خمر المسلمين و خنزيره و ان اتلفهما الذمي ضمن خلاف للشافعي رحمه الله تعالى فان الذمي تبع المسلمين فلا تقوم في حقه و لنا انه متروك على اعتقاده.

ترجمہ:

پس اگر ایک شخص نے اس باندی سے زنا کیا جس کو اس نے غصب کیا پھر اس کو حاملہ ہونے کی حالت میں واپس کیا گیا اور اس نے بچہ جنا اور وہ مرگی تو غاصب اس کی قیمت کا ضامن ہو گا یہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ضامن نہ ہو گا اس لیے کہ واپس کرنا صحیح طور پر واقع ہوا ہے اور باندی مالک کے قبضے میں ایسے سبب سے ہلاک ہوئی ہے جو اس کی ملک میں پیدا ہوا ہے اور وہ ولادت ہے اور امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ واپس کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ضائع ہونے کا سبب غاصب کے قبضے میں حاصل ہوا ہے برخلاف آزاد باندی کے ہے اس لیے کہ وہ غصب کی وجہ سے مضمون نہیں ہوتی تاکہ فساودہ کے بعد ضمان باقی رہے پھر مصنف رحمہم اللہ تعالیٰ نے ”على الحرة“ پر اپنے اس قول کو عطف کیا اور شی مخصوصہ کے منافع خواہ اس میں رہے یا اس کو خالی چھوڑ دے وہ ہمارے نزدیک اجرت کے بد لے مضمون نہیں ہیں، برابر ہے کہ اس نے منافع وصول کر لیے ہوں جیسا کہ جب وہ مخصوصہ بکھر میں سکونت اختیار کرے یا اس کو خالی چھوڑ دے اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں صورتوں میں اجر مشتمل کے بد لے مضمون ہیں اور امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس نے منافع وصول کر لیے تو وہ مضمون ہیں اگر کھر خالی چھوڑ دیا تو مضمون نہیں ہیں اور یہ ہمارے نزدیک منافع کے مقوم نہ ہونے کی بناء پر ہے اگرچہ ان کا مقوم ہونا عقد میں ضروری ہے اور مسلمان کا شراب اور خنزیر کو ضائع کرنے پر ضمان نہیں ہے اور اگر ذمی نے ان دونوں کو ضائع کیا تو وہ ضامن ہو گا امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے برخلاف ہے کیونکہ ذمی مسلمان کا تابع ہے چنانچہ ذمی کے حق میں تقویم نہیں ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ذمی کو اس کے اعتقاد پر چھوڑ جائے گا۔

تشریح:

فلورنی بامہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی کی باندی غصب کر لی اور اس باندی سے زنا کر لیا اور حاملہ ہونے کی حالت میں غاصب کو واپس کر دی جب اس باندی نے بچہ جنم تو وہ مرگی تواب امام ابوحنین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب اس کی قیمت کا ضمان ادا کرے گا اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب ضمان ادا نہیں کرے گا۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل:

لان الرد وقع سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ جب غاصب نے باندی واپس کی تھی تو واپس کرنا صحیح ہوا تھا کہ غاصب نے شی متحق کولو نادی اور واپس کرنے کا صحیح ہونا ضمان سے بری ہونے کو ثابت کرتا ہے البتہ واپسی کے بعد مالک کے پاس سبب پیدا ہونے کی وجہ سے باندی ہلاک ہوئی ہے وہ سبب ولادت ہے۔ [البنایہ: ۵۲۱/۱۳]

امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل:

وله انه لم سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ جب باندی کو غصب کیا تھا تو اس وقت اس میں ضائع ہونے کا سبب نہیں تھا بلکہ باندی حمل سے فارغ تھی البتہ واپس کرتے وقت اس میں حمل یعنی ضائع ہونے کا سبب موجود تھا جب واپس کرتے وقت یہ سبب تھا تو واپسی صحیح طور پر نہ ہوئی چنانچہ غاصب ضامن ہوگا۔ [البنایہ: ۵۲۲/۱۳]

بخلاف الحرة سے مصنف رحمہم اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے آزاد عورت کو انعام کر لیا اور اس سے زنا کیا پھر وہ حاملہ ہوئی اور ولادت کے وقت مرگی تواب غاصب ضامن نہ ہوگا کہ رد کے فاسد ہونے کی وجہ سے غصب کا ضمان باقی رہے۔

و منافع ماغصب سے مصنف رحمہم اللہ تعالیٰ شی مخصوصہ کے منافع کی ضمان کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی کا غلام یا مکان وغیرہ غصب کر لیا اور اپنے استعمال میں کچھ عرصہ رکھا پھر واپس کر دیا تو آیا وہ اپس کرتے وقت ان منافع کا ضمان ادا کرے گا جو اس نے استعمال کیے ہیں اس میں انہے کرام کا اختلاف ہے۔

امام ابوحنین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب مخصوصہ شی کے منافع کا ضمان ادا نہیں کرے گا خواہ اس نے ان کو استعمال کیا ہے یا نہ کیا ہے استعمال کرنے کی صورت پر ہے کہ مخصوصہ گھر میں رہائش اختیار کی ہو اور استعمال نہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ گھر غصب کر لیا اور اس کو خالی رکھا تو ان دونوں صورتوں میں غاصب ضمان ادا نہیں کرے گا۔

امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب مخصوصہ شی کے منافع کا ضمان ادا کرے گا خواہ اس نے منافع وصول کیے ہوں یا نہ کیے ہوں البتہ ضمان اجر مثل کے ساتھ ادا کرے گا مثلاً غاصب اس گھر میں ایک ماہ رہا ہو تو ضمان ادا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ یہ معلوم کیا جائے ایسے مکان کا ایک ماہ تک لکنا کرایہ ہوتا ہے چنانچہ اجر مثل جو ہو وہ ادا کرے گا۔

امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب نے مخصوصہ شی کے منافع استعمال کیے ہوں تو ضمان ادا کرے گا اور اگر وصول نہ کیے ہوں تو ضمان ادا نہیں کرے گا کیونکہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو ضمان کس شی کا ادا کرے گا۔

اشکال:

ہذا بناء سے شارح رحمہم اللہ تعالیٰ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک منافع کا ضمان نہیں ہے خواہ وصول کیے ہوں یا نہ کیے ہوں حالانکہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک منافع مال متقوم ہیں کیونکہ عقد اجارہ میں

اجرت منافع کے بد لے ہوتی ہے جب منافع مال متفقہ ہیں تو ان کو غصب کرنے کی وجہ سے ضمان لازم ہونا چاہیے۔

جواب:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے کہ یہ مذکورہ مسئلہ کہ منافع کا ضمان نہیں ہے یہ منافع کے متفقہ ہونے کی بنیاد پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ منافع اصل میں غیر متفقہ ہیں لیکن چونکہ عقد اجارہ کی ضرورت ہے اسی ضرورت کی بناء پر ان کو صرف عقد اجارہ میں متفقہ بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ مال غیر متفقہ ہیں جب یہ مال غیر متفقہ ہیں تو ان کی ضمان نہیں ہے۔

عبارت:

ولو غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له كالنقل من الظل الى الشمس او جلد ميتة فدبغه به اى بمالا قيمة له كالتراب والشمس اخذهما المالك بلا شئ و لو اتلفها ضمن و لو خللها بذى قيمة كالملح والخل ملکه ولا شئ عليه هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و عندهما اخذها المالك اعطى ما زاد الملح فلو دبغ به الجلد اى بشئى له قيمة كالفترط والغضى اخذه المالك و رده ما زاد الدبغ فيه و لو اتلفه لا يضمن هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و عندهما يضمن الجلد مدبوغا ويعطيه المالك ما زاد الدبغ فيه فالحاصل انه اذا خلل او دبغ بما لا قيمة له اخذهما المالك لان الاصل حقه وليس من الغاصب سوى العمل ولا قيمة له اما اذا خلل او دبغ بذى قيمة يصير ملكا للغاصب ترجيحاً للمال المتفق على غير التقويم والفرق لا بى حنيفة رحمه الله تعالى بين الخل والجلد ان المالك يأخذ الجلد و لا يأخذ الخل لان الجلد باق لكن زال عنه التجسسات والخمر غير باق بل صارت حقيقة اخرى و انما لا يضمن الجلد عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى اذا اتلفه لان غصب جلدا غير مدبوغ و لا قيمة له و الضمان يتبع التقويم لكن العين اذا كانت باقيا لا يشترط .

ترجمہ:

اور اگر مسلمان کی شراب غصب کی پھر اس کو ایسی شئ کے ذریعے سرکہ بنا یا جس کی قیمت نہیں ہوتی جیسے سائے سے دھوپ کی طرف منتقل کر دینا یا مدارکی کھال غصب کی پھر اس کو اس شئ کے ساتھ دباغت دی یعنی ایسی شئ کے ساتھ جس کی قیمت نہیں ہوتی جیسے مٹی اور دھوپ تو مالک ان دونوں کو بلا عوض لے لے گا اور اگر غاصب نے اس کو ضائع کر دیا تو وہ ضامن ہو گا اور اگر شراب کو ذی قیمت شئ کے ساتھ سرکہ بنا یا جیسے نمک اور سرکہ تو غاصب اس کا مالک بن جائے گا اور اس پر کوئی شئ نہیں ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالک اس کو لے لے گا اور مالک جو نمک زائد ہوا ہے دے گا پس اگر غاصب نے ذی قیمت کے ساتھ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالک اس کو لے لے گا اور مالک جو نمک زائد ہوا ہے دے گا پس اگر غاصب نے ذی قیمت کے ساتھ کھال کو دباغت دی یعنی ایسی شئ کے ساتھ جو قیمت والی ہو جیسے سلم اور مادہ تو مالک اس کو لے لے گا اور اس شئ کو واپس کرے گا جو دباغت میں زائد ہوئی ہے اور اگر غاصب نے اس کو ضائع کر دیا تو ضامن نہیں ہو گا یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک دباغت دی ہوئی کھال کا ضامن ہو گا اور مالک اس کو وہ شئ دے گا جو دباغت میں زائد ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب غاصب نے سرکہ یاد باغت ایسی شئ کے ساتھ دی جس کی قیمت نہیں ہوتی تو مالک ان کو دونوں کو لے لے گا اس لیے کہ مالک کا حق اصل ہے اور غاصب کی عمل کے علاوہ کوئی شئ نہیں ہے اور عمل کی قیمت نہیں ہے۔ بہر حال جب اس نے سرکہ یاد باغت ذی قیمت شئ کے ساتھ دی تو وہ شئ مال متفقہ کو غیر متفقہ پر ترجیح دینے کی وجہ سے غاصب کی ہوجائے گی اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا

فصل

سر کے اور کھال کے درمیان فرق کرنا کہ مالک کھال کو لے لے گا اور سر کے کونہ لے گا اس لیے کہ کھال باقی ہے لیکن اس سے نجاست زائل ہو گئی ہیں اور شراب باقی نہیں ہے بلکہ وہ دوسرا حقیقت بن گئی ہے اور سوائے اس کے نہیں کہ امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب کھال کا ضامن نہ ہو گا جب وہ اس کو ضائع کر دے اس لیے کہ اس نے بلا د باغت دی ہوئی کھال غصب کی تھی اور اس کی قیمت نہیں ہوتی اور ضامن تقویم کے پیچھے ہوتا ہے لیکن عین جب باقی ہے تو تقویم شرط نہیں ہے۔

تشریح:

ولو غصب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالاعبارت میں چار صورتیں بیان کی ہیں جن کی وجہ حصریوں ہے کہ ایک شخص نے کسی مسلمان کی شراب یا مردار کی کھال غصب کی پھر شراب یا مردار کی کھال میں سے ہر ایک کو غیر ذی قیمت شئی سے سرکہ بنا یا د باغت دی یا ذی قیمت شئی سے سرکہ باد باغت دی۔

پہلی صورت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فخللها بما لا قيمة سے بیان کی ہے کہ ایک شخص نے مسلمان کی شراب غصب کی اور اس کو ذی قیمت شئی کے بغیر سرکہ بنا یا مثلاً شراب کو سائے سے نکال کر دھوپ میں رکھ دیا یا پھر دھوپ سے اٹھا کر سائے میں رکھ دیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ شراب کا مالک اس سر کے غاصب سے بلا کسی عوض دیے لے لے گا۔

دوسری صورت کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے او جلد میتہ فدبغہ به سے بیان کی ہے کہ ایک شخص نے کسی کے مردار جانور کی کھال غصب کی اور اس کو ایسی شئی کے ساتھ د باغت دی جس کی قیمت نہیں ہوتی مثلاً مٹی سے دی یا دھوپ میں رکھ د باغت دی تو اس کا حکم یہ ہے کہ مالک اس کو غاصب سے بلا کسی عوض دیے لے لے گا اس کے مالک کھال میں غاصب کا مال متفق نہیں لگا۔

اور اگر غاصب نے شراب کو سرکہ بنا نے کے بعد اور کھال کو د باغت دینے کے بعد ضائع کر دیا تو اس غاصب سر کے اور کھال کا ضامن ہو گا البتہ کھال کا ضامن کس طرح ادا کرے گا اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے بعض نے فرمایا ہے کہ د باغت دی ہوئی کھال کی قیمت ادا کرے گا اور بعض نے کہا ہے کہ بغیر د باغت دی ہوئی کھال کی قیمت ادا کرے گا۔ [البنا یہ: ۵۳۲ / ۱۳]

تمیری صورت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ولو خللها بدی قیمة سے بیان کی ہے کہ ایک شخص نے شراب غصب کی اور اس کو ذی قیمت شئی مثلاً نمک یا سرکے کے ذریعے سرکہ بنا یا تو اس کا حکم یہ ہے کہ امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالک اس سر کے کو نہیں لے گا۔ بلکہ یہ سرکہ غاصب کی ملک بن گیا ہے اور غاصب کے ذمے کوئی شئی نہیں ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالک کو لے گا اور غاصب نے جو نمک وغیرہ استعمال کیا ہے وہ بھی دے گا اور اگر غاصب نے اس کو سرکہ بنا نے کے بعد ضائع کر دیا تو امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب ضامن نہ ہو گا اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن ہو گا۔

چوتھی صورت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فلو دبغہ بالجلد سے بیان کی ہے کہ ایک شخص نے مردار کی کھال غصب کی اور اس کی ذی قیمت شئی مثلاً سلم (کیکر کے مشابہ ایک درخت ہے جس کے پتوں سے کھال کو د باغت دی جاتی ہے۔) کے پتوں سے د باغت دی یا مازو (یہ بھی ایک درخت ہے جس کے پتے سیال شی کو خشک کرتے ہیں) کے پتوں سے د باغت دی تو اس کا حکم یہ ہے کہ مالک اس کھال کو لے گا اور د باغت میں جن پتوں وغیرہ کی ضرورت پڑی تھی ان کی قیمت ادا کرے گا۔ اب اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کاری یہ ہے کہ پہلے ذبح کیے ہونے جانور کی کھال کی قیمت معلوم کی جائے پھر د باغت دی ہوئی کھال کی قیمت معلوم کی جائے جو فرق نکلے تو مالک وہ ادا کر دے مثلاً ذبح شدہ جانور کی کھال سور و پے کی ہے اور د باغت والی کھال ڈیڑھ سور و پے کی ہے تو پچاس روپے غاصب کو دے دے۔

امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مالک کے لیے کھال لینا اس وقت صحیح ہے جب غاصب نے کھال اس کے گھر سے غصب کی ہو، ہر حال اگر مالک نے مردار کو باہر پھینک دیا تھا وہاں سے ایک شخص نے اس کی کھال اتار کر دیا باغت دے دی تو اب مالک کو کھال لینے کا اختیار نہیں ہے۔

[البنایہ: ۵۳۱/۱۲]

اور اگر غاصب نے اس کھال کو دیا باغت دینے کے بعد ضائع کر دیا تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب ضامن نہ ہوگا جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک غاصب دیا باغت دی ہوئی کھال کی قیمت ضامن کے طور پر ادا کرے گا اور دیا باغت دینے میں جو شئی غاصب نے استعمال کی تھی اس کی قیمت مالک سے لے لے گا یہ اس وقت ہے جب غاصب نے کھال کو خود ضائع کیا ہو چنانچہ اگر دیا باغت دی ہوئی کھال خود ضائع ہو گئی تو بالا جماعت غاصب ضامن نہ ہوگا۔

فالحاصل انه سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ پورے مسئلے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ جب غاصب نے شراب کو یا کھال غیر ذی قیمت شئی سے سرکہ بنایا یاد باغت دی تو مالک اس سرکے اور کھال کو لے لے گا کیونکہ اس شئی میں اصل حق مالک کا ہے زہار سرکہ بنانا اور دیا باغت دینا تو یہ محض ایک عمل ہے جو کہ مالی مقتوم نہیں ہے جب یہ مالی مقتوم نہیں ہے تو مالک بلا عوض دیے شئی لے لے گا اور اگر غاصب نے ذی قیمت شئی سے سرکہ بنایا ہو یاد باغت دی ہو تو اب چونکہ غاصب نے مال مقتوم لگایا ہے اس لیے یہ شئی غاصب کی ملک ہو جائے گی کیونکہ اگر اس صورت میں بھی ملک نہ ہو تو پھر ذی قیمت اور غیر ذی قیمت والی صورت میں فرق نہ ہو گا حالاں کہ ذی قیمت رانج ہے تو اسی بناء پر غاصب ذی قیمت والی صورت میں شئی کا مالک بن جائے گا۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تابع:

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”در منقی“ کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ شارح کا یہ فرمانا ”اما اذا خلل او دبغ بدی قيمة يصير ملکا للغاصب“ کہ وہ شئی غاصب کی ملک بن جائے گا یہ قول تابع پر منی ہے۔

والفرق لابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق تیری اور چوتھی صورت کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تیری صورت میں فرمایا تھا کہ شراب سرکہ بننے کے بعد غاصب کی ملک بن گئی ہے۔ لہذا مالک اسی کو نہیں لے گا اور کھال کی صورت میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مالک اس کو لے لے گا فرق یہ ہے کہ کھال کی ذات باقی ہے اس سے صرف نجاست زائل ہو گئی ہے جب ذات باقی ہے تو مالک اس کو لے لے گا جب کہ تیری صورت میں شراب کی حقیقت بدل چکی ہے کہ جب وہ سرکہ بن گئی تو اس کی حقیقت دوسری ہو گئی ہے جب حقیقت بدل گئی ہے تو مالک اس کو نہیں لے گا۔

اشکال:

انما لا يضممن سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اشکال مقدر کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ ہے کہ جب کھال دیا باغت کے بعد بھی مالک کی ہے تو اگر غاصب اس کو دیا باغت کے بعد ضائع کر دے تو اس کو ضامن ہونا چاہیے کہ اس نے غیر کی ملک ضائع کر دی لیکن امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غاصب ضامن نہ ہوگا۔

جواب:

اس کا جواب شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ کھال ضائع کرنے کی وجہ سے

غاصب ضامن نہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے کھال غصب کی تھی تو وہ اس وقت غیر مذبور غصبی جب وہ غیر مذبور غصبی تو اس کی قیمت نہ تھی جب وہ بھی نہ تھی تو اس کا ضمان بھی کیونکہ ضمان تھی شی کا ہوتا ہے لہذا کھال ضائع کرنے کی وجہ سے وہ ضامن نہ ہوگا۔ شہبے کا ازالہ:

مذکورہ بالا جواب سے یہ شہبے پیدا ہوا ہے کہ جب غیر مذبور غصب کھال مال متفق نہیں ہے تو اگر غیر مذبور غصب کے پاس موجود ہو تو بھی مالک کو کھال نہیں لئی جائی کیونکہ جب وہ مال متفق نہیں ہے تو اس میں غصب ثابت نہیں ہوا جب غصب ثابت نہیں ہوا تو مالک واپس نہیں لے سکتا۔ حالانکہ جب غیر مذبور غصب کے پاس موجود ہو تو مسلکہ یہ ہے کہ مالک اس کو لے لے گا تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکن العین سے اس شہبے کا ازالہ فرمایا ہے کہ جب کھال موجود ہو تو اس وقت مالک کے لینے کے لیے کھال کا متفق ہونا شرط نہیں ہے یہ متفق ہونا صرف غاصب کے ضمان ادا کرنے کے لیے شرط ہے کہ اگر مال متفق ہوگا تو غاصب ضامن نہ ہوگا جہاں تک کہ غاصب سے اس واپس لینے کا تعلق ہے تو اس میں مال متفق اور غیر متفق ہونے کو خل نہیں ہے بلکہ غاصب کوششی واپس کرنا ضروری ہے خواہ متفق ہو یا غیر متفق ہو۔

عبارت:

ضمن بكسر معرف و اراقة سکرو منصف و صح بيعها المعرف الله اللهو كالظببور والمرزمار و تحوهما هدا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و عندهما لا يضمن و عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى انما يضمن قيمة غير الھو ففى الطنبور يضمن الخبر المنحوت واما طبل الغروات والدف الذى يباح ضربه فى الفرس فمضبوون بالاتفاق و فى ام ولد غصبت فهلک لا يضمن بخلاف المدببر هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى فان المدببر متفقون عند لا ام الولد و عندهما يضمنهما لتفقهما و من حل عبد غيره او رباط دابته او فتح باب اصطبلها اور قفص طائره فذهبت او سعى الى سلطان بمن يؤذيه و لا يدفع بلا رفع او من يفسق عطف على من يؤذيه و لا يمتنع بنهيء او قال مع سلطان قد يغrom و قد لا يغrom انه وجد مالا فيغرمه السلطان شيئا لا يضمن و لو غرم البة يضمن و كذا لو سعى بغير حق عند محمد رحمه الله تعالى زجرأ له و به يفتى و عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و ابى يوسف رحمه الله تعالى لا يضمن الساعي لانه توسط فعل فاعل مختار و فى فتح باب الاصطبل و القفص خلاف محمد رحمه الله تعالى لهم توسط فعل المختار و له ان الطائر مجبوه على النفار.

ترجمہ:

اور آلم موسیقی توڑنے سے اور سکر (کھجور کا پانی جب شدت اختیار کر چکا ہو) اور منصف (کھجور کا پانی جس کو پکانے سے نصف باقی رہ گیا ہو) کے بھانے سے ضامن ہوگا اور ان کی بیچ صحیح ہے۔ ”مغزف“ موسیقی کا آلم ہے جیسے طببور اور بانسری اور ان دونوں جیسے آلات یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن نہ ہوگا اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوائے اس کے نہیں کہ اس کی قیمت کا ہلہ کو کے علاوہ ضامن ہو گا چنانچہ طببور میں تراشی ہو لکڑی کا ضامن ہوگا اور بہر حال لشکر کے ڈھول اور وہ ڈاف جس کو نکاح میں بجانا مباح ہے تو ان کا بالاتفاق ضامن لیا جائے گا اور اس ام ولد میں جس کو غصب کیا گیا پھر وہ ملاک ہو گئی تو وہ ضامن نہیں ہوگا اگر خلاف مدبر کے ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کیوں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مدبر مال

متocom ہے نہ کہ امام ولد اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں کے متocom ہونے کی وجہ سے دونوں کا ضامن ہوگا اور جس نے کسی کے غلام کو ڈھول دیا کسی کے جانور کی رسی ڈھول دیا جانوروں کے اصطبل کا دروازہ ڈھول دیا کسی کے پرندے کے پنجرے کا دروازہ ڈھول دیا پھر وہ شی چل گئی یا باادشاہ کو اس شخص کی شکایت لگائی جس نے ساعی کو ایذا دی اور وہ ایذا بلا شکایت کے ختم نہیں ہوگی یا اس شخص کی جو فتنہ کرتا ہوا س کا عطف من یو ذیہ پر ہے اور وہ منع کرنے کے باوجود نہیں رکتا یا ساعی نے اس باادشاہ سے کہا جو بھی تاو ان لازم کرتا ہے اور کبھی لازم نہیں کرتا کہ فلاں نے مال پایا ہے پھر باادشاہ نے اس کو کسی شی کا تاو ان لازم کر دیا تو ساعی ضامن نہ ہوگا اور اگر باادشاہ یقین طور پر تاو ان لازم کرتا ہو تو ساعی ضامن ہوگا اور اسی طرح اگر اس نے بلاحق شکایت لگائی امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اس کو ڈائٹنے کے لیے اور اس پر ہی فتویٰ ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ اور امام ابویوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساعی ضامن نہ ہوگا اس لیے کہ یہ فاعل مختار کے فعل کا واسطہ بناتا ہے اور اصطبل اور پنجرے کا دروازہ ڈھولنے میں امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل فاعل مختار کے فعل کا واسطہ بناتا ہے اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ پرندہ بھاگنے کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔

تشریح:

و ضمن بکسر سے مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کے موسيقی کے آلات مثلاً ڈھول بانسری وغیرہ توڑ دیے یا کسی کا سکرا اور منصف (دونوں کی تفسیر ترجیح میں گزر چکی ہے) بہادی تو امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک توڑ نے اور بہانے پر ضمان ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضمان نہیں ہے اور اسی طرح ان آلات کی بیچ امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح ہے جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح نہیں ہے اور امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ جو ضمان کے قائل ہیں اس سے مراد اس شی کی قیمت ہے موسيقی کے آلے کے اعتبار سے جو قیمت ہے اس کا ضمان نہیں ہے مثلاً ایک ڈھول دس ہزار کا ہے لیکن اس میں لکڑی اور درود اسماں تین ہزار کا ہے تواب توڑ نے والا صرف تین ہزار روپے ادا کرے گا۔

واما فی طبل سے یہ بیان کرتا ہے ہیں کہ وہ ڈھول جس کے ذریعے اعلان جنگ کیا جاتا ہے یا وہ ڈاف جوشادی وغیرہ میں بجا یا جاتا ہے اگر کسی نے اس کو توڑ دیا تو بالاتفاق وہ ضامن ہوگا۔

راجح قول:

مشائخ رحمہما اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔

[در مختار: ۲۱۲، بحر الرائق: ۸/۲۲۶، ۲۸۸، حدایہ: ۳/۵۲۲]

فائدہ:

امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا اختلاف صرف ضمان میں ہے چنانچہ ان آلات کو توڑنا بالاتفاق مباح ہے۔ اور یہ اختلاف اس آلے میں ہے جو دوسرے کام کی بھی صلاحیت رکھتا ہو جیسے ڈھول گانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے البتہ وہ آلے جو صرف موسيقی کے استعمال کے لیے ہوتے ہیں ان کو توڑ نے سے بالاتفاق ضمان نہیں ہے۔ اور یہ اختلاف اس وقت ہے جب اس نے امام کی اجازت کے بغیر توڑے ہوں چنانچہ اگر اس نے امام کی اجازت سے توڑے ہوں تو بالاتفاق ضمان نہیں ہے۔

اور یہ اختلاف اس وقت ہے جب یہ آلات مسلمان کے ہوں اگر ذمی کے ہوں تو بالاتفاق ضامن ہوگا۔

[شامی، ۶/۲۱۲]

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ تصحیح:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”المغزف“ کی تفسیر ”اللھو“ سے کی ہے علامہ ابن الکمال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”المغزف“ ایک خاص موسیقی کا آله ہے جس کو اہل بین بناتے ہیں اور آلة اللھو کے لیے الغزف مستعمل ہے، چنانچہ اس کی تفسیر ”آلۃ اللھو“ سے کرنا خطاء پر منی ہے۔ [شامی ۶/ ۲۱۳]

و من حل عبد یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اصول پر چند مسائل متفرع کر رہے ہیں اصول یہ ہے کہ اگر ایک حکم کا سبب اور عملت دونوں موجود ہوں تو حکم کی نسبت عملت کی طرف کی جائے گی سبب کی طرف نہیں کی جائے گی۔

چنانچہ اگر ایک شخص نے کسی کاغلام کھول دیا کسی کے جانور کی رسی کھول دی یا کسی کے جانوروں کے اصطبل کا دروازہ کھول دیا کسی کے پنھرے کا دروازہ کھول دیا اور وہ غلام یا جانور یا پرندہ چلا گیا تو اب اس کھولنے والے شخص پر ضمان نہیں ہے البتہ جانور اور پرندے کی صورت میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک ضمان ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ پرندے کی طبیعت میں فرار ہونا پیدا کیا گیا چنانچہ جب پنھرے کا دروازہ کھولا جائے گا تو وہ لازمی طور پر چلا جائے گا لہذا کھونے والے پر ضمان ہو گی۔

شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ اسی مذکورہ بالا اصول پر قائم ہیں کہ یہ شخص پرندے اور جانور کے جانے کا سبب ہے اور پرندہ اور جانور جانے میں فاعل مختار ہیں جب وہ دونوں فاعل مختار ہیں تو حکم (بھاگنے) کی نسبت فاعل مختار (یعنی عملت) کی طرف ہو گی اور اس شخص (یعنی سبب) کی طرف نہ ہو گی۔

”شرنبالیہ“ میں مذکور ہے کہ مذکورہ بالا صورتوں میں کھولنے والے شخص کا ضامن نہ ہونا اس وقت ہے جب وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جو جانور یا پرندے کو بھاگنے میں مھین ہو میں اگر اس شخص نے پنھرے کا دروازہ کھول کر پرندے کو ”کش کش“ کہا یا جانور کو کھول کر ”ہش ہش“ کہا یا ایسا کوئی کام کیا جس نے پرندے اور جانور کو جانے میں مدد دی تو اب یہ شخص ضامن ہو گا۔ [شامی ۶/ ۲۱۲]

او سعی الی سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا اصول (کہ جب حکم کا سبب اور عملت موجود ہو تو حکم کی نسبت سبب کی طرف نہیں کی جاتی) پر دوسرا مسئلہ متفرع کر رہے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے سے قبل ”ساعی“ کی تعریف جان لیں۔

ساعی کی تعریف:

ساعی زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کو بادشاہ نے مقرر کیا ہو لیکن یہاں اس کا الفوی معنی ”چغل خور“ مراد ہے اس کو ”مشلت“ بھی کہا جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ”مشلت“ کے کہا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بر امشلت ہے یعنی جو اپنے بھائی کی بادشاہ کے پاس چفلی کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ اور اپنے بھائی کو اور جھوٹی شکایت کی وجہ سے بادشاہ کو بلا کت میں ڈالتا ہے اس لیے مشلت کہا جاتا ہے۔

[حاشیہ طھطاوی علی الدر المختار ۲/ ۱۱۵]

اس مسئلے میں کل چار صورتیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ ساعی نے ایسے شخص کی شکایت لگائی جو اس کو

تکلیف دیتا ہے اور سائی خود تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہے (چنانچہ اگر خود تکلیف دور کرنے پر قادر ہو اس کے باوجود شکایت لگائے تو یہ ضامن ہو گا)۔ یا پھر ایسے شخص کی شکایت لگائی جو کسی فسق میں مبتلاء ہے اور منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتا تو اب اگر بادشاہ نے مذکورہ شخص (جس کی شکایت لگائی گئی) کو سزادی تو سائی ضامن نہ ہو گا۔ یہ صورت اوسعی الی سلطان سے لا یمتنع بنہبہ“ کی عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ سائی نے بادشاہ سے کہا کہ فلاں شخص کو خزانہ ملا ہے چنانچہ آپ اس سے تاو ان لیں تو اب اگر بادشاہ عادل ہو کہ کبھی لوگوں سے تاو ان لیتا ہوا رکھنی نہ لیتا ہو تو اگر بادشاہ نے مذکورہ شخص سے تاو ان لے لیا۔ پھر سائی کا کذب ظاہر ہو گیا تو سائی ضامن نہ ہو گا۔ یہ صورت اوسی مع سلطان سے شیالا یضمون کی عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔

تیسرا صورت یہ ہے کہ سائی نے بادشاہ سے کہا کہ فلاں کو خزانہ ملا ہے۔ چنانچہ آپ اس سے تاو ان لیں تو اب اگر بادشاہ ظالم ہو کہ ہر ایک سے تاو ان ضروری لیتا ہو تو ایسی صورت میں سائی ضامن ہو گا۔ یہ صورت ”لو غرم البة یضمون“ کی عبارت میں بیان کی ہے۔ البة ہمارے زمانے میں فتویٰ اس پر ہے کہ بادشاہ خواہ عادل ہو یا ظالم دونوں صورتوں میں سائی ضامن ہو گا۔ (حاشیۃ الطحاوی علی الدر المختار: ۵۱/۳) چوتھی صورت یہ ہے کہ سائی نے کسی شخص کی ناقص شکایت بادشاہ کو لگائی اور بادشاہ نے اس شخص کو سزادی تو اب امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سائی ضامن ہو گا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سائی ضامن نہ ہو گا یہ صورت ”وَكَذَالُو الی آخرہ تک بیان کی ہے۔

راجح قول:

مشائخ حبیبہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔

[ملتقی الا بحث/۹۸، شامی/۶، ۲۱۳/۲، شامی/۶، ۱۱۵/۲، حاشیۃ الطحاوی علی الدر المختار/۱۱۵/۲، شرح العقاۃ ۲/۱۱۳، مجمع الأئمہ/۹۹]

فائدہ:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلطان کی قید لگائی ہے یہ قید احترازی نہیں ہے چنانچہ اگر ایسے شخص کو شکایت لگائی جو اثر و سرخ والا ہو اور وہ اس شخص کو سزادے تو بھی یہی حکم ہے۔

[حاشیۃ الطحاوی علی الدر المختار/۱۱۵/۲]

علامہ سید ابو شجاع رحمہ اللہ تعالیٰ نے سائی کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا ہے اور بعض نے تفسیر لگانے کا فتویٰ دیا ہے۔ [شامی: ۶/۲۱۳]

قد بذلت جهداً كثیراً للتفیح هذه المسئلة و راجعت الى الكتب الكثیرة فان شئت تفصیل هذه المسئلة
فارجع الى المکتب المذکورة.

فلله الحمد اکمل الحمد فی البداية النهاية علی من و فقنى با تمام المجلد الثالث من شرح الوقاية و الصلة
و السلام علی من ارسله للهداية و هو اصل العلم فی الروایة و الدرایة و علی الله و صحبه علی يوم النهاية و بیلہ
شرح المجلد الرابع من تشرح الوقاية ان شاء الله

.....☆☆☆☆.....

کتاب الشفعة

کتاب الشفعة کی کتاب الغصب سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک میں دوسرے کے مال کا اس کی رضاۓ کے بغیر مالک بنا جاتا ہے مگر غصب کا وقوع زائد ہے اس لیے غصب کو مقدم ذکر کیا اور اس کو موخر کیا۔

[بجرالراقت: ۲۲۸/۸]

کتاب الشفعة سے قبل چند باتیں بطور تمهید صحیحیں۔

لغوی معنی:

”الشفعة“ الشفع سے ماخوذ ہے جس کے معنی ”ملانا“ ہے۔

شرعی معنی:

شرعی معنی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تملک عقار علی مشتریہ جبراً بمثل ثمنہ“
دلیل:

شفعہ کے ثبوت کی دلیل آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک ہے ”الجار احق بشفعہ جارہ“ اور آپ علیہ السلام سے مردی ہے۔

قضی بالشفعہ فی کل شرکة لم تقسم ربعہ او حائطہ۔

رکن:

اس کا رکن مشتری یا باائع سے وہ زمین لینا ہے۔

شرط:

شفعہ کی دو شرطیں ہیں۔ (۱) محل شفعہ میں یا مکان وغیرہ ہو۔ (۲) اس کا مالک ایسے بدل سے بنائیا ہو جو مال ہو۔

حکم:

سب پائے جانے کے وقت شفعہ طلب کرنا جائز ہو جاتا ہے۔

صفت:

شفعہ کے ذریعے کسی زمین کو لینا ایسا ہے جیسے اس زمین کو نئے سرے سے خریدنا، چنانچہ اس میں خیار ویت اور خیار شرط جاری ہوں گے۔

سبب:

شفعہ کے سبب دو طرح کے ہیں۔ (۱) سبب الاغذ۔ (۲) سبب المشر ویت۔

سبب الاغذ (یعنی مشتری سے لینے کا سبب) یہ ہے کہ شفعی کی ملک مشتری کی زمین کے ساتھ شرکت یا جوار کے ذریعے ملی ہو۔

سبب المشر ویت (شفعہ مژروع ہونے کا سبب) اس ضرر کو دور کرنا ہے جو پڑوی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جائے گا۔

[بجرالراقت: ۲۲۸/۸، شامی ۶/۲]

عبارت:

ہی تملک عقار علی مشریعه جبراً بمثل ثمنہ ای بمثل ثمن المشتری و هو الثمن الذى اشتري به. و تجحب بعد البيع المراد بالوجوب الشبوت وتستقر بالاشهاد اذ حق الشفعة قبل الاشهاد متزلزل لانه بحيث لواخر الطلب تبطل فاذا اشهد استقر ای لا تبطل بعد ذلك بالتأخير. ويملك بالأخذ بالتراضی او بقضاء القاضی بقدر رؤس الشفوعاء لا الملك ای انما تملک العقار اذا اخذہ الشفيع برضاه و برضی المشتری و قوله بقضاء القاضی عطف على الاخذ لا على التراضی لان القاضی اذا حکم بثبت الملك للشفيع قبل.

ترجمہ:

شفعہ جائیدا کاس کے مشتری سے جرا مشتری کے ثمن کے مثل کے بد لے مالک بنتا ہے یعنی مشتری کے ثمن کے مثل اور یہ وہ ثمن ہے جس کے بد لے مشتری نے خریدا ہے اور بیع کے بعد واجب ہوتا ہے وجوہ سے ثبوت مراد ہے اور شفعہ گواہیوں سے پکا ہوتا ہے اس لیے کہ گواہ بنانے سے قبل حق شفعہ متزلزل تھا۔ کیونکہ وہ اس طور پر ہے کہ اگر طلب کو موزکر کیا جائے گا۔ تو حق شفعہ باطل ہو جائے گا پس جب گواہ بنانے لیے گئے تو وہ پختہ ہو جاتا ہے یعنی اس کے بعد تاخیر سے باطل نہیں ہوتا اور شفعہ باہمی رضامندی کے ساتھ اور قاضی کے فیصلے کی وجہ سے شفوعاء کے روؤس کے بعد مالک بنے گا نہ کہ مالک کے بقدر یعنی سوائے اس کے نہیں کہ جائیدا کا مالک بن جائے گا جب شفعہ جائیدا کو اپنی رضامندی اور مشتری کی رضامندی کے ساتھ لے گا اور ماتن کا قول ”بقضاء القاضی“ کا عطف ”الأخذ“ پر ہے ”التراضی“ پر نہیں ہے، اس لیے قاضی نے جب فیصلہ کر دیا تو شفعہ کے لیے ملکیت لینے سے قبل ثابت ہو جائے گی۔

تشریح:

ہی تملک سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے شفعہ کی شرعی تعریف بیان کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ شفعہ جائیدا کو مشتری سے زبردستی اسی ثمن کے بد لے خرید کر مالک بن جاتا ہے جو اس مشتری نے بالائی کو دیا تھا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”عقار“ کی قید لگائی ہے جس سے منقولی ثبتی اور منافع خارج ہو گئے اور ”جبراً“ کی قید لگائی جس سے بیع خارج ہو گئی۔ [بخاری رقم: ۲۲۸/۸]

و تجحب بعد سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ شفعہ کی وصفات بیان کر رہے ہیں پہلی صفت یہ ہے کہ شفعہ بیع کے بعد واجب ہوتا ہے اور وجوہ سے یہاں وجوہ شرعی مراد نہیں ہے بلکہ وجوہ سے ثبوت مراد ہے کیونکہ طلب شفعہ شفعہ پر واجب نہیں ہے کہ عدم طلب کی صورت میں ترک واجب لازم آئے اور دوسرا صفت یہ ہے کہ حق شفعہ گواہ بنانے سے پختہ ہو جاتا ہے یعنی جب شفعہ نے طلب شفعہ کا اظہار کر دیا تو اب طلب شفعہ پر گواہ بھی بنالے کیونکہ حق شفعہ کمزور حق ہے کہ اگر بیع کا علم ہونے کے بعد کچھ دیر تک طلب نہ کیا جائے تو یہ حق باطل ہو جاتا ہے جب یہ حق کمزور ہے تو اس کو گواہوں کے ذریعے پختہ کیا جائے گا تاکہ تاخیر سے باطل نہ ہو

و يملك بالأخذ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ شفعہ کے مالک بننے کے دو طریقے بیان کر رہے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ شفعہ مشتری سے باہمی رضامندی کے ساتھ گھر لے تو بھی شفعہ اس کا مالک بن جائے گا اور اسی طرح اگر شفعہ نے مشتری سے گھر نہیں لیا اور قاضی نے شفعہ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو بھی شفعہ مالک بن جائے گا اگرچہ مشتری راضی نہ ہو لہذا متن کی عبارت میں ”بقضاء القاضی“ کا عطف ”بالأخذ“ پر ہے اور ”التراضی“ پر نہیں ہے کیونکہ جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو شفعہ کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اگر پر مشتری راضی نہ ہو چنانچہ ”بقضاء القاضی“ کا عطف ”بالتضاری“ پر نہیں ہے۔

بقدر عدد الرؤس سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شفعت چند ماں کہ ہوں مثلاً ایک گھر میں تین حصے دار ہیں ایک کا حصہ نصف اور ایک کا ثلث اور ایک کا سدس ہے پھر صاحب نصف نے اپنا حصہ کسی کو فروخت کر دیا تو اب باقی دونوں شریک (صاحب ثلث اور صاحب سدس) حق شفعت میں برابر ہیں اور شفعت سے حاصل ہونے والا حصہ دونوں کے مابین نصف نصف ہو گا اور ملک کا اعتبار نہیں ہو گا کہ صاحب ثلث کو دو حصے اور صاحب سدس کو ایک حصہ مل جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذہب ہے بلکہ عدروس کی بناء پر دونوں اس میں نصف نصف کے مالک ہوں گے۔

[البنایہ: ۱۲/۲۲]

عبارت:

اخذہ لخلیط فی نفس المبیع ثم له فی حق المبیع ای ثم للشريك فی حق المبیع کالشرب و الطريق خاصتين کشرب نهر لا تجرى فيه السفن و طريق لا ينفذ ثم لجار ملاصق باهہ فی سکة اخری کو اضع جذوع على الحائط انما ذكروا اضع الجذوع لعلم انه جار و ليس بخليل و لا يشرط للجار الملاصق وضع الجذع حتى لو لم يكن له شيء على الحائط يكون جارا ملاصقا و عند الشافعی رحمه الله تعالى لا يثبت الشفعة للجار بل لل AOLین.

ترجمہ:

شفعہ نفس میچ میں شریک کے لیے (ثابت ہوتا ہے) پھر حق میچ میں شریک کے لیے (یعنی پھر حق میچ میں شریک کے لیے جیسے پانی کی باری اور راستہ جو دونوں خاص ہوں جیسے اس نہر کی پانی کی باری جس نہر میں کشتیاں نہ چلتی ہوں اور وہ راستہ جو آگے سے کھلا ہوانہ ہو پھر اس پڑوی کے لیے شفعة ثابت ہوتا ہے جس کا دروازہ دوسرا گلی میں ملاصق ہو جیسے دیوار پر شہیر رکھنے والا سوائے اس کے نہیں کہ ” واضح الجذوع ” کو ذکر کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ پڑوی ہے اور شریک نہیں ہے اور جار ملاصق کے لیے شہیر رکھنا شرط نہیں ہے لہذا اگر اس کی دیوار پر کوئی شئی نہ ہو تو بھی وہ جار ملاصق ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفعت پڑوی کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ پہلے دونوں (نفس میچ اور حق میچ میں شریک) کے لیے ہے۔

تشریح:

لخلیط فی نفس سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شفعت کا مستحق کون کون ہوتا ہے چنانچہ سب سے مقدم وہ شخص ہے جو نفس میچ میں شریک ہو یعنی دو شخصوں کے درمیان گھر مشترک تھا اور ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ ایک شریک نے اپنا حصہ فروخت کر دیا تو دوسرا شریک نفس میچ شریک ہے وہ شفعت کا حق دار ہے اگر یہ شفعت نہ کرے تو پھر حق میچ میں شریک کیلئے شفعت ثابت ہو گا یعنی دو شخصوں کا اپنی زمین میں آنے کا راستہ مشترک ہے تو اگر ایک نے اپنی زمین فروخت کر دی تو حق میچ میں شریک شفعت کا حق دار ہو گا اور حق میچ میں شریک ہونے کی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں بیان کی ہیں کہ دونوں پانی کی باری میں شریک ہوں یا راستے میں شریک ہوں اب یہ پانی کی باری اور راستہ دونوں عام نہیں ہیں۔ بلکہ راستے سے مراد یہ ہے کہ وہ آگے سے بند ہوا اور پانی کی باری سے مراد یہ ہے کہ زیسی نہر سے ہو جس نہر میں کشتیاں نہ چلتی ہو۔ نہر خاص کی تفسیر امام محدث رحمہم اللہ تعالیٰ سے مردی ہے جب کہ اکثر مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نہر سے پانی استعمال کرنے والوں کا اعتبار ہو گا اگر ان کو شمار کیا جاسکتا ہے تب وہ نہر خاص ہے ورنہ نہر عام ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ مجہدو حاکم کی رائے کے حوالے کیا جائے گا اگر وہ اس کو نہر خاص کہے تو وہ نہر خاص ہو گی ورنہ نہر عام ہو گی۔

[شامی: ۲/۲۲۰، البنایہ: ۱۲/۱۸]

ثم لجار ملاصق سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تیر شخص جو شفعت کا حق دار ہے اس کو بیان کر رہے ہیں وہ جار ملاصق ہے جار ملاصق وہ ہوتا ہے جس کے گھر کی پشت دار مشفوعد کی پشت سے ملی ہو اور اس کا دروازہ دوسرا لگی میں ہو چنان چہ پہلے دونوں شخص جب حق شفعت سے دستبردار ہو جائیں تو احتجاف کے نزدیک جار ملاصق کے لیے شفعت ثابت ہو گا جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جار ملاصق کے لیے شفعت ثابت نہیں ہوتا اور اس کے بقیہ پڑوی جن کا گھر دار مشفوعد سے ملا ہو اور دروازہ اسی لگی میں ہوتا وہ خلیط کے حکم میں ہیں۔

[درختار: ۲۲۱/۶]

کواضع جذوع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر دار مشفوعد کی دیوار پر دوسرے پڑوی کے شہیر رکھے ہوئے ہوں تو وہ پڑوی ہو گا اور خلیط نہ ہو گا چنان چہ جب خلیط فی نفس میج یا خلیط فی حق میج شفعت سے دستبردار ہو گا تب اس کو حق شفعت حاصل ہو گا جب یہ معلوم ہو گیا کہ شہیر رکھنے والا پڑوی ہو گا تو اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ پڑوی وہ ہو گا جس کا شہیر دار مشفوعد کی دیوار پر رکھا ہو تو اس شبے کو ولا یشرط للجار سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا کہ جار ملاصق کے شہیر رکھنے کی شرط نہیں ہے چنان چہ اگر جار ملاصق کا دار مشفوعد کی دیوار پر شہیر نہ ہو تب یعنی وہ جار ملاصق ہو گا۔

و عند الشافعی سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک حق شفعت جار (پڑوی) کے لیے ثابت نہیں ہے البتہ نفس میج اور حق میج میں شریک کے لیے جائز ہے۔

نوث:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب نقل کیا ہے یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا صحیح مذہب ہے کیوں کہ ”حدایۃ“ کی بعض شروحتات میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک جس طرح جار کے لیے حق شفعت نہیں ہے اسی طرح حق میج میں شریک کے لیے بھی حق شفعت نہیں ہے یہ حق نہیں ہے بلکہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب نقل کیا ہے یہی مذہب شواعر کی کتب میں منقول ہے اور یہی مذہب شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مذہلہ نے نقل کیا ہے۔

و يطلبها الشفيع في مجلس علمه بالبيع بلفظ يفهم طلبها كطلب الشفعة و نحوه مثل انا طالب للشفعة او اطلبها و اعتبار مجلس العلم اختيار الكريخي و عند بعض المشايخ زه ليس له خيار المجلس حتى ان سكت ادنى سكوت تبطل شفعته و هو طلب المواتية انما سمى بهذا ليدل على غایة التعجل كان الشفيع يشب و يطلب الشفعة ثم يشهد عند العقار او على من باع او مشترى فيقول اشتري فلان هذه الدار و اما شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة و اطلبها الان فاشهدو اعليه و هو طلب الاشهاد اعلم ان هذا الطلب انما يحب عند التمكن من لاشهاد عند الدار و عند صاحب اليدي حتى لو تمكنا ولم يشهد بطلب شفعته وفي الذخيرة اذا كان الشفيع في طريق مكة فطلب طلب المواتية و عجز عن الطلب الاشهاد عند الدار او عند صاحب الميديو كل وكيلان رجد و ان لم يوجد يرسل رسول او كتابا فان لم يوجد فهو على شفعته فإذا حضر طلب و ان وجد و لم يفعل بطلب شفعته ثم يطلب عند قاض يقول اشتري فلان دار كذا او انا شفيعها بدار كذا لي فمرة يسلم الى و هو طلب تملیک و خصومة.

ترجمہ:

او شفيع شفعته کو بیع کا علم ہونے والی مجلس میں ایسے لفظ سے طلب کرے گا جس سے شفعت طلب کرنا مفہوم ہوتا ہو جیسے شفعت طلب کرنا اور

اس جیسے الفاظ مثال کے طور پر میں شفعت کو طلب کرنے والا ہوں یا میں شفعت طلب کرتا ہوں اور مجلس علم کا اعتبار امام کرنی کا اختیار کردہ ہے اور بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو خیر مجلس نہیں ہے لہذا اگر اس نے ادنیٰ سکوت کیا تو اس کا حق شفعت باطل ہو جائے گا اور یہ طلب مواثبت ہے سوائے اس کے نہیں کہ اس کا یہ نام رکھا گیا تاکہ یہ انہائی جلدی پر دلالت کرے گویا کہ شفعت کو دتا ہے اور شفعت طلب کرتا ہے پھر شفعت جائزیاد کے پاس یا اس شخص پر جس کے پاس جائزیاد ہو یعنی باعث یا مشتری پر گواہ بنانے چنانچہ وہ کہے کہ فلاں نے یہ گھر خریدا ہے اور میں اس کا شفعت ہوں اور میں نے شفعت کا مطالبہ کیا تھا اور میں اس کو اب بھی طلب کرتا ہوں پس تم اس پر گواہ بن جاؤ اور یہ طلب اشہاد ہے تو جان لے کہ یہ طلب گھر کے پاس یا صاحب ید کے پاس گواہ بنانے کی قدرت حاصل ہونے کے وقت ہی واجب ہوتی ہے چنانچہ اگر وہ قادر ہو اور اس نے گواہ نہیں بنائے تو اس کا شفعت باطل ہو جائے گا اور ”ذخیرہ“ میں ہے کہ جب شفعت مکمل رکمہ کے راستے میں ہو پھر اس نے طلب مواثبت کی اور گھر کے پاس یا صاحب ید کے پاس گواہ بنانے سے عاجز رہا تو اگر کسی شخص کو پائے تو وکیل بنادے اور اگر نہ پائے تو یا خاطب بھیج پھر اگر یہ نہ پائے تو وہ اپنے شفعت پر باقی رہے گا پھر جب وہ حاضر ہو تو طلب اشہاد کرے اور اگر اس نے طلب اشہاد کا راستہ پایا اور طلب نہ کی تو اس کا شفعت باطل ہو جائے گا پھر وہ قاضی کے پاس طلب کرے چنانچہ وہ یوں کہے کہ فلاں نے ایسا گھر خریدا اور میں اس کا شفعت ایسے گھر کی وجہ سے ہوں جو میرا ہے پس آپ اس کو حکم دیں کہ وہ گھر میرے حوالے کر دے اور یہ طلب تملیک اور خصوصت ہے۔

تشریح:

و يطلبها الشفيع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ طلب شفعت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں شفعت میں تین طلبیں ہوتی ہیں۔

(۱) طلب مواثبت۔ (۲) طلب اشہاد۔ (۳) طلب تملیک و خصوصت۔

طلب مواثبت:

ان میں سے ہر ایک کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالترتیب بیان کیا ہے۔

و يطلبها الشفيع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ طلب مواثبت کو ذکر کر رہے ہیں یعنی جس وقت شفعت کو گھر فروخت کیے جانے کا علم ہوتا ہی وقت ایسا الفاظ بولے جس سے طلب شفعت مفہوم ہوتا ہو مثلاً یوں کہہ دے کہ انا طالب للشفعة یا ”انا اطلب الشفعة“ وغیرہ اس طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ شفعت نے شفعت سے اعراض نہیں کیا اور اس کو طلب مواثبت کہا جاتا ہے۔ موثابة“ و ثب“ سے ہے جس کے معنی تیز تیز چلنالہذا شفعت کو جیسے ہی علم ہو تو وہ جلدی سے طلب شفعت کا اظہار کر دے اور اس کا نام طلب مواثبت کی برکت حاصل کرنے کے لیے طلب مواثبت نام رکھا گیا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ جب شفعت کو بیع کا علم ہوا تو علم ہوتے ہی طلب مواثبت کرنا ضروری ہے یا کچھ دیر تھہر کر طلب مواثبت کر لینا بھی کافی ہو گا اس میں اختلاف ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ بیع کا علم ہونے کی مجلس جب تک باقی ہے تو یہ طلب مواثبت کر سکتا ہے اس کو امام کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے جب کہ بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیع کا علم ہوتے ہی فوراً طلب کرنا ضروری ہے لہذا اگر کچھ دیر سکوت کیا تو حق شفعت باطل ہو جائے گا۔

رانج قول:

بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول رانج ہے لہذا ادنیٰ سکوت کرنے سے حق شفعت باطل ہو جائے گا۔

طلب اشہاد:

ثم يشهد عند العقار مصنف رحمه اللہ تعالیٰ طلب اشہاد کو بیان کر رہے ہیں یعنی جب شفع نے طلب مواثیت کر لی تو پھر طلب اشہاد کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ شفع جائیداد کے پاس گواہ بنائے یا باع کے پاس گواہ بنائے بشرطیکہ گھر وغیرہ باع کے قبضے میں ہو ورنہ باع کے پاس گواہ نہیں بنائے گایا مشتری کے پاس گواہ بنائے اگرچہ اس کے پاس گھر نہ ہو اور گواہ ہوں سے یوں کہے کہ فلاں نے یہ گھر خریدا ہے اور میں اس کا شفع ہوں اور میں طلب مواثیت کر چکا ہوں اور ابھی بھی میں شفع کا طالب ہوں تم اس پر گواہ بن جاؤ یہ طلب اشہاد ہے اس کو طلب تقریبھی کہا جاتا ہے۔

اعلم ان سے شارح رحمه اللہ تعالیٰ طلب اشہاد کی مدت بیان کر رہے ہیں کہ طلب اشہاد کی مدت اس وقت تک رہتی ہے جب تک شفع اشہاد پر قادر نہ ہو لہذا اگر شفع اشہاد پر قادر ہو اور اس نے طلب اشہاد نہیں کی تو اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا۔

وفی الذخیرة سے شارح اس بات (کہ قدرت پانے کی صورت میں طلب نہ کرنے کے وقت شفعہ باطل ہو جائے گا) کی تائید میں ”ذخیرۃ“ کی عبارت ذکر کر رہے ہیں کہ اگر شفع مکہ مکرمہ کے راستے میں ہو اور اس نے طلب مواثیت کر لی ہو اور طلب اشہاد کرنے پر بذات خود عاجز ہو تو اب اگر شفع طلب اشہاد کے لیے وکیل بناسکتا ہے تو وکیل مقرر کر کے اس کو بحق دے اور اگر وکیل نہ ملتے تو کسی قاصد کو یا خط بھیج دے اور اگر یہ بھی نہ پائے تو اس کا حق شفعہ باقی رہے گا کیونکہ وہ طلب اشہاد پر قادر نہیں ہو ا تو طلب اشہاد کی مدت باقی ہے۔ لہذا حق شفعہ بھی باقی رہے گا۔

البته اگر شفع کو وکیل یا قاصد مل سکتا تھا جس کے ذریعے طلب اشہاد کر لیتا اور اس نے یوں نہ کیا تو حق شفعہ باطل ہو جائے گا۔

طلب تملیک و خصوصت:

ثم یطلب مصنف رحمه اللہ تعالیٰ طلب خصوصت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب شفع نے طلب اشہاد کر لی تو اب قاضی کے پاس جائے اور اس کو یوں کہے کہ ”فلاں نے ایسا گھر خریدا ہے اور میں اس گھر کا شفع اپنے گھر کے سبب سے ہوں چنان چہ آپ مشتری کو حکم دیں کہ وہ گھر میرے حوالے کر دے۔“

فائدہ:

مندرجہ بالا جو تین طبیوں کا بیان گزارا ہے ان کو بالترتیب کرنا لازم نہیں ہے کہ پہلے طلب مواثیت پھر طلب اشہاد پھر طلب خصوصت کی جائے بلکہ اگر شفع نے بعث کا علم ہوتے ہی قاضی کے پاس دعویٰ کر دیا تو اب طلب مواثیت اور طلب اشہاد ساقط ہو جائیں گی اور حق شفعہ ثابت ہو جائے گا۔

عبارات:

وبتأخره لا تبطل الشفعة و قال محمد رحمه الله تعالى اذا اخره شهر ابطلت و به يفتى و اذا طلب سال القاضى الخصم عنها اي عن مالكية الشفيع الدار المشفووع بها. فان اقر بملك ما شفع به و نكل الحلف على العلم بانه مالك كذا او لو برهن الشفيع ساله عن الشراء فان اقر به او نكل عن الحلف على الحاصل او السبب اعلم ان ثبوت الشفعة ان كان متفقا عليه يحلف على الحاصل بالله ما استحق هذا الشفيع الشفعة على و ان كان مختلفا فيه كشفة الجوار يحلف على السبب بالله ما اشتريت هذه الدار لانه ربما يحلف على

الحاصل بمذهب الشافعی رحمة الله تعالى و قد سبق في كتاب الدعوى. او برهن الشفيع قضى له بها و ان لم يحضر الشمن وقت الدعوى.

ترجمہ:

اور طلب خصوصت کو مخفر کرنے سے حق شفعہ باطل نہیں ہوتا اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب شفعی نے ایک ماہ تک اس کو مخفر کیا تو حق شفعہ باطل ہو جائے گا اور اسی پر فتویٰ ہے اور جب شفعی نے طلب خصوصت کی تو قاضی خصم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا یعنی شفعی کے ”دار مشفووع بھا“ کی ملکیت کے بارے میں سوال کرے گا جناب چہاگر مشتری نے ”مشفووع بھا“ کی ملکیت کا شفعی کے لیے اقرار کر لیا (تو ٹھیک ہے) اور اس بات کے علم پر حلف اٹھانے سے انکار کیا کہ یہ اس کام لک ہے یا شفعی نے گواہی قائم کر دی تو قاضی اس سے شراء کے بارے میں سوال کرے چنانچہ اگر مشتری شراء کا اقرار کرے (تو ٹھیک ہے) یا حاصل یا سب پر حلف اٹھانے سے انکار کرے تو جان لے کہ شوتوت شفعہ اگر متفق علیہ ہو تو مشتری سے حاصل پر حلف لیا جائے گا اس طور پر کہ اللہ کی قسم شفعی مجھ پر شفعہ کا متحق نہیں ہے اور اگر شوتوت شفعہ مختلف نہ ہو جیسے پڑوی کا شفعہ کرنا تو سب پر حلف لیا جائے گا اس طور پر کہ اللہ کی قسم میں نے یہ گھر نہیں خریدا اس لیے کہ گھر ممکن ہے مشتری حاصل پر امام شافعی رحمة اللہ تعالیٰ کے ندہب کی وجہ سے حلف اٹھائے اور اس کا ذکر کتاب الدعوى میں گزر چکا ہے۔ یا شفعی اس کے بارے میں گواہی قائم کر دے تو اس کے لیے شفعہ کا فیصلہ کر دیا جائے گا اگرچہ شفعی ثمن کا دعویٰ کے وقت حاضر نہ کرے۔

تشریح:

وبتاخیره سے مصنف رحمة اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شفعی نے طلب مواثیبت اور طلب اشہاد کر لی اور پھر طلب خصوصت میں تاخیر کرے تو اس تاخیر کرنے کی وجہ سے امام ابوحنیفہ، امام ابویوسف رحمة اللہ تعالیٰ کے زد دیک حق شفعہ باطل نہ ہو گا جب کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے زد دیک اگر شفعی نے بلا عذر ایک ماہ تک طلب خصوصت کو مخفر کیا تو حق شفعہ باطل ہو جائے گا۔

راجح قول:

مشايخ حبهم اللہ تعالیٰ نے امام محمد رحمة اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے اور اکابر دیوبندی میں سے حضرت مفتی شفعی صاحب رحمة اللہ تعالیٰ نے اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمة اللہ تعالیٰ نے بھی امام محمد رحمة اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اگر کسی عذر معقول کی وجہ سے شفعی شفعہ کو مخفر کرے تو حق شفعہ باطل نہ ہو گا۔

[شامی ۲/۲۲۶، هدایہ: ۸/۳۱۰، هندیہ: ۵/۳۷، احسن القتاوی: ۷/۳۵۳، امداد المقتین: ۲/۲۶]

و اذا طلب سے مصنف رحمة اللہ تعالیٰ طلب خصوصت کے بعد ہونے والی صورت کو بیان کر رہے ہیں جس کی صحیح ترتیب هدایہ میں مذکور ہے کہ جب شفعی نے طلب خصوصت کر لی تو اب قاضی مدعا سے گھر کی جگہ اور حدود کے بارے میں سوال کرے گا جب شفعی یہ بیان آئرے تو پھر قاضی یہ سوال کرے گا کہ مشتری نے گھر پر قبضہ کر لیا ہے یا نہیں جب یہ بیان کر دے تو قاضی اس سے طلب تقریر کے بارے میں سوال کرے گا اور طلب اشہاد کے بارے میں سوال کرے گا جب شفعی ان تمام سوالات کے جوابات صحیح طرح دے دے پھر قاضی مدعا علیہ (مشتری) پر متوجہ ہو گا اور اس سے سوال کرے گا کہ شفعی نے جس گھر کی وجہ سے تم پر شفعہ کیا ہے آیا وہ اس گھر کا مالک ہے پس اگر مشتری نے شفعی کے مالک ہونے کا اعتراف کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ قاضی شفعی کو گھر کے مالک ہونے پر گواہی پیش کرنے کے لیے کہے گا۔ ورنہ قاضی مشتری سے حلف لے گا جس کی صورت یہ ہے کہ مشتری شفعی کے مالک ہونے کے علم کی نظر پر حلف اٹھائے یعنی یوں کہے

(بِاللَّهِ مَا اعْلَمُ إِنَّهُ مَالِكَ لِلَّذِي ذُكِرَهُ مَا يَشْفَعُ بِهِ) پس اگر شفیع نے ملک پر گواہی پیش کر دی یا مشتری نے علم پر حلف اٹھانے سے انکار کر دی تو شفیع کی ملک ثابت ہو جائے گی۔ [یہی مطلب سال القاضی سے لو برهن الشفیع] تک عبارت کا ہے۔ چنانچہ جب شفیع کی ملک ثابت ہو گئی تو اب قاضی مشتری سے سوال کرے گا کہ اس نے گھر خریدا ہے یا نہیں پس اگر مشتری اقرار کر لے تو شفیع ہو جائے گا ورنہ قاضی شفیع کو حکم دے گا کہ وہ مشتری کے گھر خریدا ہے پر گواہ پیش کرے لہذا اگر شفیع نے گواہ پیش کر دیے تو شفیع ہو جائے گا ورنہ قاضی شفیع کو حکم دے گا کہ وہ مشتری کے گھر خریدا ہے پر گواہ پیش کرنے سے عاجز ثابت ہو جائے گا جیسا کہ او برهن الشفیع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اور اگر شفیع گواہ پیش کرنے سے عاجز آگیا تو اب قاضی مشتری کو حاصل یا سبب پر قسم اٹھانے کو کہے گا حاصل پر قسم اٹھانے کی صورت یہ ہے (بِاللَّهِ مَا اسْتَحْقَقَ عَلَى فِي هَذِهِ الدَّارِ شَفْعَةً مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَهُ) اور سبب پر قسم اٹھانے کی صورت یہ ہے (بِاللَّهِ ابْتَعَتِ) لہذا اگر مشتری نے حلف اٹھایا تو شفیع نہ ہو گا ورنہ شفیع ثابت ہو جائے گا یہی مطلب [سالہ عن الشرا سے علی الحاصل او السبب] تک عبارت کا ہے۔ اعلم ان سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ حاصل یا سبب پر حلف لینے کی وجہ بیان کر رہے ہیں یہ بات جانی چاہیے کہ حق شفیع احباب حرمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین اشخاص کو حاصل ہوتا ہے۔

(۱) نفس میج میں شریک کے لیے (۲) حق میج میں شریک کے لیے (۳) جار ملاصق کے لیے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق شفیع صرف نفس میج اور حق میج میں شریک کے لیے ہے (اس قول کے مطابق جس کو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے) اور جار ملاصق کے لیے نہیں ہے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بثبوت شفیع متفق علیہ ہو یعنی نفس میج میں شریک کے لیے ہو یا حق میج میں شریک کے لیے ہو تو اب مشتری سے حاصل پر حلف لیا جائے گا۔ کیونکہ سب پر حلف لینے کی صورت میں مشتری کو ضرر ہے کہ، وہ سکتا ہے عقد فتح ہو چکا ہو اور اگر بثبوت شفیع مختلف فیہ ہو یعنی جار ملاصق شفیع ہو تو اب سبب پر حلف لیا جائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ مشتری امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے پیش نظر حاصل پر حلف اٹھائے اور شفیع کو ضرر ہو جائے لہذا شفیع کو ضرر سے بچانے کے لیے ہم نے کہا کہ مشتری سے سبب پر حلف لیا جائے اور سبب اور حاصل پر حلف لینے کی مکمل تفصیل کتاب الدعوی میں گزر چکی ہے۔ مناسب ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھ لیا جائے بندہ نے اس مسئلے میں تفصیل بیان کی ہے اس کو دیکھنے سے یہ مسئلہ سمجھنا بھی سہل ہو جائے گا ان شاء اللہ۔

عبارت:

و اذا قضى لزمه احضاره و للمشتري حبس الدار بقبض ثمنه فلو قيل للشفيع اد الشمن فاخر لاتبطل شفعته .
والخصم البائع ان لم يسلم اى خصم الشفيع البائع ان لم يسلم المبيع الى المشتري و لا تسمع البينة عليه
حتى بحضور المشتري فيفسخ بحضوره انما يشترط حضور البائع و المشتري لأن الملك له واليد للبائع فإذا
اسلم الى المشتري لا يشترط حضور البائع لانه صار اجنبيا و يقضى للشفيع بالشفعة . و العهدة على البائع حتى
يسحب تسليم الدار على البائع و عند الاستحقاق يكون عهدة الشمن على البائع فيطلب منه و للشفيع خيار الرؤية
و العيب و ان شرط المشتري البراءة عنه

ترجمہ:

اور جب قاضی نے شفیع کا فیصلہ کر دیا تو شفیع کو شمن حاضر کرنا لازم ہو جائے گا اور مشتری کے لیے اپنے شمن پر قبضہ کرنے کی وجہ سے گھر

دینے سے روکنا جائز ہے چنانچہ اگر شفیع سے کہا گیا تھا انداز کو پھر اس نے تاخیر کی تو اس کا شفعتہ باطل نہ ہوگا اور خصم بائع ہوگا اگر بائع نے گھر حوالے نہ کیا ہو یعنی شفیع کا خصم بائع ہوگا اگر بائع نے بیع مشتری کے حوالے نہ کی ہو اور بائع کے خلاف گواہی نہیں سنی جائے گی۔ یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو جائے پھر مشتری کی موجودگی میں عقد شفیع کیا جائے گا۔ سوائے اس کے نہیں کہ بائع اور مشتری کا حاضر ہونا شرط ہے اس لیے کہ ملک مشتری کی ہے اور قبضہ بائع کا ہے چنانچہ جب بیع مشتری کے حوالے کردی گئی ہو تو بائع کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے اس لیے کہ بائع اجنبی بن گیا ہے اور شفیع کے لیے شفیع کا فیصلہ کیا جائے گا اور ذمے داری بائع پر لازم ہوگی لہذا بائع پر گھر حوالے کرنا واجب ہے اور استحقاق کے وقت ثمن کی ذمے داری بائع پر ہوگی پس بائع سے ثمن طلب کیا جائے گا اور شفیع کو خیار وہی اور خیار عیب حاصل ہوگا اگرچہ مشتری نے اس سے بری ہونے کی شرط لگائی ہو۔

تشریح:

واذا قضى سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب قاضی نے شفیع کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اب شفیع کو ثمن حاضر کرنا لازم ہے اور مشتری اپنے ثمن پر قبضہ کرنے کی وجہ سے گھر شفیع کو دینے سے روک سکتا ہے پس جب شفیع کو ثمن حاضر کرنا لازم ہے اسی وجہ سے اگر فیصلے کے بعد شفیع کو ثمن حاضر کرنے کے لیے کہا گیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ثمن نہیں ہے یا میں کل ثمن دوں گا تو اس صورت میں بالاجماع شفعتہ باطل نہ ہوگا البتہ اگر قاضی کے فیصلہ کرنے سے قبل شفیع سے ثمن حاضر کرنے کو کہا گیا اور اس نے ثمن ادا کرنے میں تاخیر کی تو شفعتہ باطل نہ ہوگا لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفعتہ باطل ہو جائے گا۔

راجح قول:

بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے۔

[آخری الحخار: ۴/۲۹۱، بحر الرائق: ۸/۲۲۸]

والخصم البائع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ شفیع کے خصم کو بیان کر رہے ہیں چنانچہ اگر بائع نے گھر مشتری کے حوالے نہیں کیا تو اب شفیع کے خصم بائع اور مشتری دونوں ہیں اور شفیع کی گواہی بائع کے خلاف مشتری کی غیر موجودگی میں نہیں سنی جائے گی۔ لہذا مشتری کا حاضر ہونا ضروری ہے اس لیے کہ مشتری کی موجودگی میں عقد شفیع کرنا ضروری ہے کیونکہ شفیع قاضی کے فیصلے سے ہوگا اور مشتری غائب ہے اور قضاۓ علی الغائب صحیح نہیں ہے اس لیے مشتری کا حاضر ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی موجودگی میں عقد شفیع کیا جاسکے اور رہی یہ بات کہ مشتری اور بائع کے ایک ساتھ حاضر ہونے کی شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شفیع گھر پر قبضہ اور ملک دونوں چاہتا ہے جب کہ قبضہ بائع کے پاس اور ملک مشتری کے پاس ہے جب شفیع یہ دونوں چاہتا ہے تو ان دونوں بائع اور مشتری کا اجتماع ضروری ہے تاکہ قبضہ اور ملک شفیع کو حاصل ہو جائیں۔

و يقضى للشفيع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قاضی شفیع کے لیے شفعتہ کا فیصلہ کرے گا اور ضمان عہدہ کا فیصلہ بائع پر کرے گا اگر بائع نے گھر مشتری کے حوالے نہ کیا ہو چنانچہ فیصلہ ہو جانے کے بعد بائع پر شفیع کے گھر حوالے کرنا لازم ہے اور شفیع کے گھر پر قبضہ کرنے کے بعد اگر اس گھر کا کوئی مستحق نکل آیا تو ثمن کا تادا ان بائع کے ذمہ لازم ہوگا لہذا شفیع استحقاق کے بعد ثمن کا مطالباً بائع سے کرے گا اور اگر بائع نے مشتری کے گھر حوالے کر دیا تھا پھر قاضی نے فیصلہ کیا تو اب ضمان عہدہ مشتری پر لازم ہوگا لہذا گھر حوالے کرنا اور مستحق نکلنے کے وقت ثمن کا تادا ان ادا کرنا مشتری کی ذمے ہوگا۔

[شامی: ۶/۲۲۸]

وللشفعی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شفعی کو شفعہ سے لینے والے مکان میں خیار روئیہ اور خیار عیب حاصل ہو گا اس لیے کہ شفعی کا شفعہ سے گھر لینا گھر خریدنے کی طرح ہے لہذا اگر مشتری نے قبضہ کر لیا ہو تو مشتری سے خریدنا ہو گا اور اگر اس نے قبضہ نہ کیا ہو تو باعث سے خریدنا ہو گا اور اگر مشتری نے عیب سے براءت کی شرط لگائی ہو تو بھی شفعی کے لیے خیار ثابت ہو گا اس لیے کہ مشتری شفعی کا نائب نہیں تھا۔ [بجرالرأئ: ۲۳۹/۸]

عبارت:

و ان اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن صدق المشترى اى مع الحلف لان الشفيع يدعى استحقاق الدار عند نقد الاقل والمشترى ينكره ولو برهن فالشفيع احق هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و محمد و حجتها ما ذكرنا و ايضا يمكن صدق البينتين بجريان العقد مرتين فيأخذ الشفيع بالاقل و عند ابى يوسف رحمه الله تعالى بيته المشترى احق لانها اكثرا ثباتاً و ان ادعى المشترى ثمنا و بائعه اقل من بلا قبضه فالقول له اى بلا قبض الثمن فالقول للبائع و مع قبضه للمشتري اى مع قبض الثمن فالقول للمشتري . و اخذ في حط الكل بالكل و مسألة حط البعض قد مررت في باب المراقبة بقوله و الشفيع يأخذ بالاقل في الفصلين . و في الشراء ثمن مثل بمثله و في غيره بالقيمة و في عقار بعقار اخذ كل بقيمة الآخر و في ثمن مؤجل بحال او طلب في الحال و اخذ بعد الاجل هذا عندنا و اما عند زفر و الشافعی رحمهما الله تعالى في قوله القديم فله ان ياخذه في الحال بالثمن المؤجل و لو سكت عنه بطلت اى ان سكت عن الطلب و صبر حتى يطلب عند الاجل بطلت شفعته .

ترجمہ:

اور اگر شفعی اور مشتری کا ثمن میں اختلاف ہو گیا تو مشتری کی تقدیق کی جائے گی یعنی حلف کے ساتھ اس لیے کہ شفعی گھر کے استحقاق کا اقل نقدی کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے اور اگر شفعی نے گواہی قائم کر دی تو اس کی گواہی احق ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور ان کی دلیل وہ ہے جوہم نے ذکر کی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ دونوں گواہیوں کا عقد کے درمرتبہ جاری ہونے سے سچا ہونا ممکن ہے چنانچہ شفعی اقل کے بد لے لے کا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشتری کی گواہی احق ہے اس لیے کہ وہ گواہی ثابت کرنے کے لحاظ سے احق ہے اور اگر مشتری نے ثمن کا دعویٰ کیا اور اس کے باعث نے اس سے اقل کا بلا قبضہ کیے دعویٰ کیا تو باعث کا قول معتبر ہے یعنی ثمن پر قبضہ کیے بغیر باعث کا قول معتبر ہے اور ثمن پر قبضہ کرنے کے ساتھ مشتری کا یعنی ثمن پر قبضہ کرنے کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے اور شفعی کل ثمن کے معاف کرنے کی صورت میں کل کے بد لے گھر لے گا اور بعض کم کرنے کا مسئلہ باب المرابح میں گزر چکا ہے متن کے اس قول سے کہ شفعی دونوں صورتوں میں اقل کے بد لے لے کا اور ثمن مثلی کے بد لے خریدنے کی صورت میں مثل ثمن کے بد لے لے کا اور غیر مثلی کی صورت میں قیمت کے بد لے لے کا اور جائیداد کی بیع جائیداد کے بد لے والی صورت میں ہر ایک دوسری جائیداد کی قیمت کے بد لے لے کا اور ثمن موجل کی صورت میں نقد کے بد لے لے یافی الحال شفعہ کا مطالبہ کرے اور جل گزرنے کے بعد لے لے یہ ہمارے نزدیک ہے اور ہر حال امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے قول قدمیں یہ ہے کہ شفعی اس کو فی الحال ثمن موجل کے بد لے لے کا اور اگر طلب شفعہ سے سکوت کیا تو وہ باطل ہو جائے گا یعنی طلب شفعہ سے سکوت کیا اور صبر کیا یہاں تک کہ اجل کے وقت طلب کیا تو اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا۔

تشریح:

وان اختلف سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اختلاف شمن کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر شفیع اور مشتری کا شمن کی مقدار میں (مثلاً شفیع سورا ہم اور مشتری دوسورا ہم کہے) یا جس میں (مثلاً شفیع نے کہا کہ شمن درہم تھے اور مشتری نے کہا کہ شمن دنایر تھے) یا صفت میں اختلاف ہو گیا بشرطیکہ مشتری نے گھر پر قبضہ کیا ہوا اور شمن پر بالع نے قبضہ کیا ہو۔ (مثلاً شفیع نے کہا شمن موجل ہے اور مشتری نے کہا کہ شمن نقد ہے) تو اب شفیع مدعا ہے کہ وہ گھر کے استحقاق کا دعویٰ ایسے شمن کے بد لے کر رہا ہے جس شمن کا مشتری منکر ہے چنانچہ شفیع سے گواہی پیش کرنے کو کہا جائے گا اگر اس نے گواہی پیش کر دی تو فیصلہ کر دیا جائے گا ورنہ مشتری سے حلف اٹھانے کو کہا جائے چنانچہ اگر مشتری نے حلف اٹھالیا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔

[شامی: ۶/ ۲۲۹]

ولو برہن فالشفیع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شفیع اور مشتری میں سے ہر ایک نے اپنے قول پر گواہی پیش کر دی تو امام ابوحنین رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفیع کی گواہی احت ہے۔ لہذا اسی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا جب کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشتری کی گواہی احت ہے۔

طرفین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے طرفین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دو دلیلیں بیان کی ہیں ایک دلیل طرف اشارہ کیا ہے اور دوسرا دلیل کو صراحت بیان کیا ہے۔ پہلی دلیل جس کی طرف شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”وَ حِجْتَهُمَا مَا ذَكَرْنَا“ سے اشارہ کیا ہے وہ ہے جو پچھلی سطر میں گزر جکی ہے ”لَانَ الشَّفِيعَ يَدْعُى اسْتِحْقَاقَ الدَّارِ عِنْدَ نَقْدِ الْأَقْلَ وَ الْمُشْتَرِيِّ يَنْكُرُهُ كَشْفِيْعَ مَدْعَى ہے اور مشتری منکر ہے جب شفیع مدعا ہے تو اس کی گواہی احت ہو گی لیکن شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس عبارت کو بطور دلیل ذکر کرنے میں صاحب نتائج الافکار رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشکال کیا ہے جس میں تفصیل ہے من شاء فلیراجع ثمه۔

[تمکملہ فتح القدر: ۸/ ۳۱۶]

دوسرا دلیل و ایضاً یمکن سے بیان کی ہے کہ شفیع اور مشتری دونوں کی گواہیاں سچی ہونا ممکن ہے وہ اس طرح کہ ہو سکتا ہے بالع اور مشتری کے درمیان عقد بیع دو مرتبہ ہوا ہو پہلی مرتبہ عقد بیع ہزار کے بد لے ہوا ہوا اور اس پر دو گواہ بن گئے اور دوسرا مرتبہ عقد بیع دو ہزار کے بد لے ہوا ہوا اور اس پر دوسرا دو شخص گواہ بن گئے ہوں تو اس طرح پہلے دو شخصوں نے شفیع کے حق میں اور دوسرا دو شخصوں نے مشتری کے حق میں گواہی دی ہو چنانچہ شفیع اقل شمن کے بد لے لے گا۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

لانها اکثر سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ مشتری معنی مدعا ہے اگرچہ حقیقت مدعا علیہ (منکر) ہے اور جو شخص معنی مدعا ہوا اس کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے اور اگر اس کی گواہی اکثر ثابت کرتی ہو تو بدرجہ اولیٰ قبول کی جائے گی چنانچہ اختلاف کی صورت میں مشتری کی گواہی معتبر ہو گی۔

[فتح القدر: ۸/ ۳۱۶]

راجح قول:

ترجیح صریحی اور التزامی سے طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو ترجیح حاصل ہے۔ لہذا شفیع کی گواہی احت ہو گی۔

[الباب: ۲/ ۳۸، قاضی خان: ۳/ ۵۳۹، مدد ایہ۔]

فائدہ:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اگر ”لو برهن“ کی بجائے ”لو برهنا“ فرماتے تو بہتر تھا جیسا کہ دوسری کتب فقہ میں فرمایا گیا ہے۔ و ان ادعیٰ المشتری سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بالع اور مشتری کے درمیان شمن میں اختلاف کا حکم بیان کر رہے ہیں یعنی شفع نے شفعہ کیا پھر اس گھر کے مشتری نے دعویٰ کیا کہ اس نے یہ گھر دو ہزار روپے کا خریدا ہے اور بالع نے دعویٰ کیا کہ نہیں بلکہ میں نے ایک ہزار روپے کا فروخت کیا ہے چنانچہ بالع کم شمن کا اور مشتری زیادہ شمن کا دعویٰ کر رہا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ بالع نے شمن پر قبضہ کیا ہے یا نہیں اگر بالع نے شمن پر قبضہ نہ کیا ہو تو بالع کا قول بلا حلف معتبر ہے لہذا شفع بالع کے قول کے مطابق ہزار روپے کے بد لے گھر لے گا اور اگر بالع نے شمن پر قبضہ کر لیا ہو تو اب مشتری کا قول معتبر ہو گا کیونکہ بالع قبضہ کرنے کے بعد جبکی کی طرح ہے لہذا شفع مشتری کے قول کے مطابق دو ہزار روپے کے بد لے گھر لے گا۔

[شامی: ۲۲۹/۶]

فائدہ:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”و بالعه اقل منه“ تو اس عبارت میں ”اقل“ کی قید احترازی ہے چنانچہ اگر بالع نے زیادہ شمن کا دعویٰ کیا اور مشتری نے کم شمن کا دعویٰ کیا تو اب اگر بالع نے شمن پر قبضہ کر لیا ہو تو مشتری کا قول معتبر ہو گا لیکن اگر بالع نے شمن پر قبضہ نہ کیا ہو تو دونوں حلف اٹھائیں گے، چنانچہ جس نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تو اس کے ساتھی کا قول معتبر ہو گا اور اگر دونوں نے حلف اٹھایا تو قاضی یقین شیخ کر دے گا اور شفع بالع کے قول کے مطابق گھر کو لے گا۔

[درختار: ۲۲۹/۶]

واخذ فی خط سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پانچ صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بالع نے مشتری کو بعض شمن معاف کر دیا تھا مثلاً عقد دو ہزار روپے پر ہوا تھا اور بالع نے پندرہ سوروپے مشتری سے لیے تو اب شفع بھی پندرہ سوروپے کے بد لے مشتری سے لے گا جیسا کہ یہ مسئلہ ”باب المرابح“ میں گزر چکا ہے البتہ اگر بالع نے مشتری کو پورا شمن معاف کر دیا تھا تو اب شفع کو پورا شمن مشتری کو ادا کرنا پڑے گا لیکن شفع کو پورے شمن کے بد لے لینا اس وقت تک لازم ہے جب کہ بالع نے مشتری کو پورا شمن ایک کھلہ کے ذریعے معاف کیا ہو چنانچہ اگر بالع نے مشتری کو پہلے نصف شمن سے بری کر دیا پھر دوسری مرتبہ نصف شمن سے بری کیا تو اب شفع نصف شمن کے بد لے گھر لے گا۔

[شامی: ۲۳۱/۶]

دوسری صورت یہ ہے کہ مشتری نے گھر کی مثلى شئی مثلاً چاول یا گندم کے بد لے خریدا تھا تو اب شفع بھی چاول یا گندم کی اسی مقدار کے بد لے گھر لے لے گا۔

وفی غیرہ بالقيمة سے تیسرا صورت بیان کی ہے کہ اگر مشتری نے گھر قیمتی شئی مثلاً بکریوں یا اونٹوں کے بد لے خریدا تھا تو اب شفع اس شئی کی وہ قیمت ادا کرے گا جو مشتری کے خریدتے وقت تھی۔

وفی عقار سے چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی محلہ میں گھر خریدا اور بالع کو اس کے عوض اپنا گھر جو دوسرے محلے میں تھا دے دیا چونکہ یہ جاسیداد کی جاسیداد کے بد لے یقین ہے۔ لہذا ایک شفع مشتری کے گھر حق شفع ثابت کر رہا ہے اور دوسرہ شفع بالع کے گھر پر حق شفع ثابت کر رہا ہے تو اب ان میں سے ہر ایک شفع کو کہا جائے گا کہ اس گھر کو دوسرے گھر کی قیمت کے بد لے لے یعنی بالع کے گھر پر شفعہ کرنے والا مشتری کے قبضے میں موجود گھر کی قیمت بالع کو دے اور مشتری کے گھر پر شفعہ کرنے والا بالع کے قبضے میں موجود گھر کی قیمت مشتری کو دے دے۔

وفي ثمن موجل سے پانچویں صورت بیان کر رہے ہیں کہ دو شخصوں کے درمیان گھر کی بیع ہوئی اور مشتری نے ثمن ادھار کر لیا اور مدت طے کر لی تواب مشتری کے شفیع کو دو اختیار دیئے جائیں گے۔ چاہے تو طلب شفیع کرے اور نقد ثمن دے دے اور گھر لے لے اور اگر چاہے تو فی الحال طلب شفیع کرے اور مدت معینہ جو مشتری نے باائع سے طے کی ہے اس کے بعد ثمن دے کر گھر لے لے یہ ہمارا نہ ہب ہے جب کہ امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قدیم قول کے مطابق شفیع کو اختیار نہیں ہے بلکہ شفیع اس وقت گھر لے لے اور ثمن ادھار کر کے جیسا کہ مشتری نے ادھار کر کا ہوا ہے۔

ولو سکت عنہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ”طلب فی الحال“ کی قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شفیع نے فی الحال طلب شفیع نہ کیا اور صبر کیا کہ مدت معینہ کے وقت ہی طلب شفیع کروں گا تواب اس کا حق شفیع باطل ہو جائے گا اس لیے کہ شفیع کا حق ثابت ہو چکا ہے اور حق ثابت ہونے کے بعد سکوت اختیار کرنا اس حق کو باطل کر دیتا ہے۔

[شامی: ۲/ ۲۲۱]

عبارت:

وفي شراء ذمي بخمر او خنزير و الشفيع ذمي بمثل الخمر و قيمة الخنزير والشفيع المسلم بقيمة كل و في بناء المشترى و غيره بالثمن و قيمتهما مقلوعين كما في الغصب او كلف المشترى قلעםها اي اخذ الشفيع فيما اذا بني المشترى او غرس بالثمن و قيمتها مقلوعين او كلف المشترى قلع البناء و الغرس والمراد بقيمتهما مقلوعين قيمتها مستحق القطع كما مر في الغصب وعن ابي يوسف رحمه الله تعالى انه لا يكلف بالقلع بل يخير بين ان يأخذ بالثمن و قيمة البناء او الغرس وبين ان يترك و هو قول الشافعی رحمه الله تعالى لان التكليف بالقلع من احكام العدوان و المشترى ههنا محق في البناء قلتا بني في موضع تعلق بها حق متأكد للغير من غير تسلیط و رجع الشفيع بالثمن فقط ان بني او غرس ثم استحقت اي ان اخذ الشفيع بالشفاعة او بني او غرس ثم استحقت الارض رجع بالثمن فقط و لا يرجع بقيمة البناء او الغرس على احد بخلاف المشترى فانه يرجع بقيمة البناء او الغرس على البائع لانه مسلط من جهته بخلاف الشفيع فانه اخذ الجيرا.

ترجمہ:

اور ذمی کے شراب یا خنزیر کے بد لے خریدنے کی صورت میں دراں حاکمہ شفیع ذمی ہو (تو وہ) مثل شراب اور خنزیر کی قیمت کے بد لے اور مسلمان شفیع ہر ایک کی قیمت کے بد لے (لے گا) اور مشتری کی عمارت بنانے اور پودے لگانے کی صورت میں زمین کے ثمن اور ان دونوں کی دراں حاکمہ اکھیرے ہوں قیمت کے بد لے لے گا جیسا کہ غصب میں ہے یا مشتری کو ان کے اکھاڑے کا مکلف بنائے گا یعنی شفیع اس صورت میں جب مشتری نے عمارت بنائی یا پودے لگائے ثمن کے بد لے اور ان دونوں کی قیمت کے بد لے دراں حاکمہ اکھیرے ہوں لے گا یا مشتری کو عمارت اور پودے اکھاڑے کا مکلف بنائے گا اور ان دونوں کی قیمت دراں حاکمہ اکھیرے ہوں سے مزاد ان دونوں کی وہ قیمت جو اکھیرے نے کے سختی ہونے کے وقت ہوتی ہے جیسا کہ غصب میں گز رچکا ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ شفیع اس کو اکھاڑے کا مکلف نہیں بنائے گا بلکہ شفیع کو اختیار دیا جائے گا اس بات کے درمیان کہ ثمن کے بد لے اور عمارت یا پودوں کی، قیمت کے بد لے لے اور اس بات کے درمیان کر چھوڑ دے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اس لیے کہ اکھاڑے کا مکلف بنانا ظلم کے احکام میں سے ہے اور مشتری یہاں عمارت بنانے میں حق پر ہے ہم نے کہا اس نے ایسی جگہ عمارت بنائی ہے جس کے ساتھ

غیر کا حق متعلق ہے غیر کے مسلط کیے بغیر اور شفیع فقط میں کارجوع کرے گا اگر شفیع نے عمارت بنائی یا پودے لگائے پھر زمین کا مستحق تکل آیا یعنی شفیع نے شفعت کی وجہ سے زمین لی اور عمارت بنائی یا پودے لگائے پھر زمین کا کوئی مستحق تکل آیا شفیع فقط میں کارجوع کرے گا اور عمارت اور پودوں کی قیمت کا کسی پر جو عنہیں کرے گا بخلاف مشتری کے ہے کیونکہ وہ عمارت کی اور پودوں کی قیمت کارجوع بالع پر کرے گا اس لیے کہ مشتری بالع کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے بخلاف شفیع کے ہے کیونکہ شفیع نے اس کو جبرا لیا ہے۔

تشریح:

وفی الشراء ذمی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک ذمی نے زمین شراب یا خزیری کے بد لے خریدی تو اب اس کا شفیع ذمی ہو گا یا مسلمان ہو گا اگر شفیع ذمی ہوتا وہ شراب کی مثل دے کر اور خزیری کی قیمت دے کر زمین لے لے گا اور اگر شفیع مسلمان ہو تو شراب اور خزیری میں سے ہر ایک کی قیمت دے کر زمین لے گا۔

فوائد قیود:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”شراء ذمی“ یعنی ذمی خریدے چنانچہ اگر کسی مسلمان نے شراب یا خزیری پر بد لے خریدی تو اسے فاسد ہو گی۔

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ”بخمر او خنزیر“ کی قید لگائی چنانچہ اگر ذمی نے مردار یا خون کے بد لے خریدی تو یہ باطل ہو گی۔

[الکفاۃ: ۳۲۱/۸]

وفی بناء المشتری مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے زمین خریدی اور اس پر عمارت بنائی یا پودے لگائے پھر قاضی نے شفیع کے لیے شفیع کا فیصلہ کر دیا تو اب طرفین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفیع کو دو باتوں کا اختیار ہو گا اگر شفیع چاہے تو زمین کا شمن دے دے اور عمارت یا پودوں کی قیمت ادا کر دے لیکن یہ قیمت اس عمارت اور درختوں کے لحاظ سے دے گا کہ یہ عمارت اور درخت اکھاڑے جانے کے مستحق ہیں۔ چنانچہ ان کی قیمت معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اکھرے ہوئے درختوں کی قیمت معلوم کی جائے پھر اس سے اکھاڑے کی مزدوری نکال دی جائے تو باقی قیمت ان درختوں کی ہو گی جو اکھاڑے نے کے مستحق ہیں، مثلاً اکھرے ہوئے دس درختوں کی قیمت بارہ سورہ پے ہے اور دو سورہ پے مزدوری ہے اس کو نکال دیا جائے تو باقی ہزار روپے رہ جائیں گے الہذا دس درختوں کی قیمت جو اکھاڑے نے کے مستحق ہیں ایک ہزار روپے ہے ایسی ہی صورت کتاب الغصب میں گزر چکی ہے اور شفیع کو دوسرا اختیار یہ ہے کہ مشتری کو عمارت اور درخت اکھاڑے پر مجبور کرے بشرطیکہ زمین کو اس سے نقصان نہ ہو چنانچہ اگر زمین کو نقصان ہوتا ہو تو شفیع ان کو لے لے۔

[در مختار: ۲۳۳/۶]

امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی شفیع کو دو باتوں کا اختیار ہے کہ اگر چاہے تو زمین کے ”شمن“ اور درخت اور عمارت کی قیمت دے کر لے لے اور اگر چاہے تو شفیع چھوڑ دے لیکن مشتری کو درخت یا عمارت اکھاڑے کا مکلف نہ بنائے اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

لان التکلیف سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل کر رہے ہیں کہ مشتری کو درخت یا عمارت کے اکھاڑے کا مکلف بنانا ظلم اور عدوان کے احکام میں سے ہے اور یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مشتری عمارت بنانے اور پودے لگانے میں حق پر ہے۔

طرفین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل اور جواب:

قلنا سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ طرفین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل اور ان کی طرف سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا جواب ذکر کر رہے ہیں کہ مشتری عمارت بنانے اور پودے لگانے میں حق پر نہیں ہے کیونکہ اس نے ایسی جگہ عمارت بنائی ہے جس کے ساتھ غیر یعنی شفع کا حق متعلق ہے اور غیر نے مشتری کو اس پر مسلط نہیں کیا کہ وہ اس میں عمارت بنائے چنانچہ مشتری کو مکلف بنایا جائے گا۔

و رجع الشفیع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب شفع نے شفع کی وجہ سے زمین لے لی اور اس زمین پر عمارت اور پودے لگائی پھر زمین کا کوئی مستحق نکل آیا اور اس نے زمین لے لی تو اب شفع بالعیّن یا مشتری جس سے زمین لی ہوا زمین کے شمن کا رجوع کرے گا اور عمارت کی قیمت نہیں لے گا، بخلاف المشتری یہاں سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ مذکورہ مسئلے کے درمیان اور مشتری کے مسئلے کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے زمین خریدی اور اس پر عمارت بنائی یا پودے لگائی پھر اس زمین کا کوئی مستحق نکل آیا تو اب مشتری بالعیّن سے عمارت اور پودوں کی قیمت لے لے گا جب کہ شفع صرف زمین کا شمن لے گا اور عمارت یا پودوں کی قیمت نہیں لے گا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ مشتری نے جب بالعیّن سے زمین خریدی تو بالعیّن نے اس کو زمین کا مالک بنایا تھا تو مشتری بالعیّن کی طرف سے زمین پر مسلط تھا جب کہ شفع نے زمین مشتری یا بالعیّن سے زبردستی لی ہے، چنانچہ یہ مشتری یا بالعیّن کی طرف سے مسلط نہیں ہے، اس لیے پودوں اور عمارت کی قیمت کا رجوع نہیں کرے گا۔

عبارت:

وبكل الشمن ان خربت و جف الشجر اشتري دارا فخربت او بستانا فجف الشجر فالشفيع ان اراد ان يأخذ بالشفعة يأخذ بجميع الشمن و اخذ العرصه لا النقص بحصتها ان هدم المشترى البناء انما يأخذ بالحصة لان المشترى قصدًا لا تلاف و في الاول تلف باقته سماوية و لا يأخذ النقص لانه ليس بعقار و لم يبق تبعا و في شراء ارض مع ثمر نخيل فيها او لا ثمر عليها فاثمر معه اخذها بشمرها و بحصتها من الشمن ان جذه المشترى في الاول وبالكل في الثاني اشتري ارضا و ذكر ثمر النخيل في البيع اذا لا يدخل بدون الذكر او شرى و لم يكن على الشجر ثمر فاثمر في يد المشترى فالشفيع يأخذ الارض مع الثمر في الفصلين و ان جذه المشترى فالشفيع يأخذ الارض بدون ثمر النخيل لكن في الفصل الاول يأخذ بحصة الارض من الشمن و في الفصل الثاني يأخذ بكل الشمن لان الشمر لم يكن موجودا وقت العقد فلا يقابلها شئي من الشمن .

ترجمة:

اور شفع تمام شمن کے بد لے لے گا اگر گھر خراب ہو گیا یا درخت سوکھ گئے۔ ایک شخص نے گھر خریدا پھر وہ خراب ہو گیا یا بالعیّن درخت خشک ہو گئے تو اگر شفع کے بد لے لینا چاہتا ہو تو پورے شمن کے بد لے لے گا اور شفع زمین کو اس کے حصے کے بد لے لے گا نہ کہ ملے اگر مشتری نے عمارت گردی۔ سوائے اس کے نہیں کہ شفع حصے کے بد لے لے گا اس لیے کہ مشتری نے ضائع کرنے کا ارادہ کیا ہے اور پہلی صورت میں آسمانی آفت سے ضائع ہوا ہے اور شفع ملے نہیں لے گا اس لیے کہ وہ جائیداد نہیں ہے اور تابع کے لحاظ سے باقی نہیں رہا اور زمین کو پھل دار درختوں کے ساتھ جو اس میں ہوں یا ان پر پھل نہ ہوں پھر وہ اس کے بعد پھل دے دیں خریدنے کی صورت میں شفع زمین کو پھلوں کے بد لے لے گا اور شمن میں سے اس کے حصے کے بد لے زمین لے گا اگر مشتری نے ان کو پہلی صورت میں کاٹ لیا

اور دوسری صورت میں تمام شمن کے بد لے لے گا۔ ایک شخص نے زمین خریدی اور بیع میں پھلوں کا ذکر کیا اس لیے کہ پھل بلا ذکر کیے داشت نہیں ہوتے یا اس نے زمین خریدی دراں حاکمہ درختوں پر پھل نہ تھے پھر مشتری نے ان کو کاث لیا تو شفع زمین کو بغیر پھلوں کے لے گا لیکن پہلی صورت میں شمن سے زمین کے حصے کے بد لے لے گا اور دوسری صورت میں تمام شمن کے بد لے لے گا اس لیے کہ پھل عقد کے وقت موجود نہ تھے چنانچہ شمن میں سے ایک کے مقام پکھنہ ہوگا۔

تشریح:

وبکل الشمن یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ دو صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے گھر خریدا پھر اس کی عمارت گر گئی پاکی نے باع خریدا پھر اس کے درخت خٹک ہو گئے اس کے بعد شفع کے متعلق ہے تو اب شفع اگر زمین لینا چاہتا ہے تو پورے شمن کے بد لے لے گا جس شمن کے بد لے مشتری نے زمین گھر یا باع کے ساتھ لی تھی کیونکہ شمن اصل کے مقابل ہوتا ہے تابع کے مقابل نہیں ہوتا اور باع اور گھر زمین کے تابع ہیں چنانچہ شمن ان کے مقابل نہ ہو گا بلکہ زمین کے مقابل ہو گا اس لیے شفع زمین کو پورے شمن کے بد لے لے ۔

اور پورا شمن اس وقت لازم ہو گا جب باع کی کوئی لکڑی اور گری ہوئی عمارت کا کوئی حصہ نہ بچا ہو چنانچہ اگر مشتری گری ہوئی عمارت کا کوئی حصہ یا لکڑی وغیرہ لے گا تو اب اس کے بقدر شمن کم کیا جائے گا لہذا گھر یا باع کی قیمت خریدنے والے دن کے لحاظ سے لگائی جائے گی اور جو شئی مشتری لے کر گیا ہے اس کی قیمت اس دن کے لحاظ سے لگائی جائے گی جس دن وہ لے کر گیا ہے اور اتنی قیمت شمن سے کم کی جائے گی۔ [درختار: ۶، ۲۳۳، ۲۳۸/۸، بحر الرائق: ۲۲۸]

واخذ العرصہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر مشتری نے گھر خود گردایا یا باع کے درخت کاٹ دیے تو اب شفع زمین اس کے حصے کے بقدر جو شمن سے بنتا ہو لے گا اس لیے کہ مشتری نے تابع کو گرانے کا قصد کیا ہے اور جب تابع مقصود بن جائے تو اس کے بقدر شمن ساقط ہو جائے گا اور شفع گری ہوئی عمارت یا کئے ہوئے درختوں کو نہیں لے گا اس لیے یہ کہ خود جائیدار نہیں ہیں اور گرنے کے بعد جائیداد کے تابع نہ رہے، لہذا اس کو شفع کے بد لے نہ لے گا اب رہی یہ بات کہ پہلی صورت میں عمارت یا درختوں کے ہلاک ہونے کے باوجود شفع تمام شمن کے بد لے لے رہا تھا اور اس صورت میں شمن زمین کے حصے کے بقدر دے رہا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں درخت یا عمارت خود آسمانی آفت سے گرے تھے جب کہ دوسری صورت میں مشتری نے خود عمارت اور درخت گرائے ہیں۔ فاضرفا۔

فائدہ:

لفظ ”نقض“ کے اعراب میں دو لفاظ ہیں علامہ ازہری رحمہ اللہ تعالیٰ اور صاحب مکالم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نون کے ضمہ کے ساتھ ”نقض“ ہے اور علامہ جو ہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نون کے کسرہ کے ساتھ ”نقض“ ہے۔ [شامی: ۶/۲۳۲]

وفی شراء ارض سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے زمین خریدی جس میں باع تھا اور اس پر پھل لگے ہوتے تھے یا خریدتے وقت پھل نہ تھے البتہ بعد میں پھل لگے گئے پھر شفع کا فیصلہ ہو گیا تو شفع زمین کو پھلوں سمیت لے گا خواہ پھل مشتری کے زمین خریدتے وقت لگے ہوئے ہوں یا خریدنے کے بعد لگے ہوں اور اگر مشتری نے پھل کاٹ لیے تو اب اگر پھل مشتری کے زمین خریدتے وقت موجود تھوڑا پھر شفع زمین کو نہیں میں سے اس کے حصے کے بد لے لے گا اور اگر پھل مشتری کے زمین خرید نے کے بعد لگے تھے تو شفع زمین کو کل شمن کے بد لے لے گا اس لیے کہ جب پھل بیع کے وقت موجود نہ تھے تو اس کے مقابل پکھنہ بھی شمن نہ تھا جب شمن پھل کے مقابل نہ تھا تو سارا شمن زمین کے مقابل ہو گیا لہذا شفع زمین کو سارے شمن کے بد لے لے گا۔

باب ما هی فیہ او لا و ما یبطلها

عمارت:

ای باب ما یکون فیہ الشفعة او لا یکون ما یبطل الشفعة انما یجب قصداً فی عقار ملک بعوض هو مال و ان لم یقسم کرھی و حمام و بیر ای الشفعة القصدیة تختص بالعقار بخلاف غير القصدیة فانها ثبتت فی غير العقار فان الشجر و الشمر یو خذ ان بالشفعة تبعاً للعقار ثم لا بد ان یکون العقار ملک بعوض حتى لو ملک بهبة لا ثبت الشفعة ثم العوض لا بد ان یکون ما لا حتى لو خولع على دار لا ثبت الشفعة و انما قال و ان لم یقسم لان الشفعة لا ثبت عند الشافعی رحمة الله تعالیٰ فيما لا یقسم لان الشفعة لدفع مؤنة القسمة عنده و عندنا لدفع ضرر الجوار. لا فی عرض و فلک و بناء و تحل بیعاً قصداً حتى ان یبیع البناء والتخیل بتبعیة الارض تجب فیها الشفعة. وارث و صدقة و هبة الا بعوض.

ترجمہ:

یعنی ان اشیاء کے بیان کا باب ہے جن میں شفعت ہوتا ہے یا شفعت نہیں ہوتا اور جو اشیاء شفعت کو باطل کرتی ہیں سوائے اس کے نہیں کہ شفعت اسی جائیداد میں واجب ہوتا ہے جس کا ایسے عوض سے مالک بنا گیا ہو جمال ہو اگرچہ اس جائیداد کو تقیم نہ کیا جاسکتا ہو جیسے چکی اور غسل خانہ اور کنوں یعنی تصری شفعت جائیداد سے خاص ہے۔ بخلاف غیر تصری شفعت کے ہے کیونکہ وہ جائیداد کے علاوہ میں بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ درخت اور پھل شفعت کے ساتھ لیے جاتے ہیں جائیداد کے تابع ہو کر پھر ضروری ہے کہ جائیداد کا عوض سے مالک بنا گیا ہو لہذا اگر جائیداد کا ہبہ سے مالک بنا گیا تو شفعت ثابت نہ ہو گا پھر ضروری ہے کہ عوض مال ہو لہذا اگر گھر پر خلع کیا گیا ہو تو شفعت ثابت نہ ہو گا اور سوائے اس کے نہیں کہ مصنف رحمة اللہ تعالیٰ نے ”و ان لم یقسم“ کہا اس لیے کہ امام شافعی رحمة اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شیئی میں شفعت ثابت نہیں ہو گا جو تقیم نہ ہو سکتی ہو اس لیے کہ شفعت ان کے نزدیک تقیم کی مشقت کو دفع کرنے کے لیے ہے اور ہمارے نزدیک پڑوی کے ضرر کو دور کرنے کے لیے ہے نہ کہ سامان اور کشتی میں اور اس عمارت اور درخت میں شفعت نہ ہو گا جن دونوں کو قصداً فروخت کیا گیا ہو لہذا اگر عمارت اور درخت زمین کے تابع ہو کر فروخت کیے گئے تو اس میں شفعت واجب ہے اور شفعت وراشت اور مدقہ اور ہبہ میں صحیح نہیں ہے مگر عوض کے بد لے ہونے کی صورت میں جائز ہے۔

تشریح:

مصنف رحمة اللہ تعالیٰ اس باب میں ان اشیاء کا ذکر کریں گے جن میں شفعت ثابت ہو سکتا ہے اور جن میں شفعت ثابت نہیں ہو سکتا اور جو اشیاء شفعت کو باطل کرتی ہیں۔

چنانچہ مصنف رحمة اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفعت صرف اسی جائیداد میں ثابت ہو گا جس کا مالی عوض سے مالک بنا گیا ہو اگرچہ وہ جائیداد

ایسی ہو تقسیم ہونے کا احتمال نہ رکھتی ہو جیسے پچھی اور عسل خانہ وغیرہ ہے۔
فواائد قیود:

الشفعۃ القصدیۃ..... سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ متن کی عبارت میں ذکر تبادلات کا فائدہ بیان کر رہے ہیں چنانچہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”قصدًا“ کی قید لگائی ہے جس سے معلوم ہوا کہ قصدی شفعۃ جائیداد کے ساتھ خاص ہے پس غیر قصدی شفعۃ جائیداد کے علاوہ اشیاء میں ہو سکتا ہے جیسے درخت اور پھلوں میں قصدی شفعہ نہیں ہو سکتا البتہ جائیداد کے تابع ہو کر شفعہ ہو سکتا ہے۔
مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”عقار“ کی صفت ”ملک بعض“ بیان کی ہے جس سے معلوم ہوا کہ جائیداد کا ہبہ کے ساتھ مالک بننے کی صورت میں شفعہ ثابت نہ ہو گا۔

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”عوض“ کی صفت ”مال“ سے بیان کی ہے چنانچہ عوض مال نہ ہونے کی صورت میں شفعہ ثابت نہ ہو گا جیسے کسی نے گھر کے بد لے بیوی سے خلع کر لیا تو اب شفعہ ثابت نہ ہو گا کیونکہ گھر کا عوض خلع ہے جو مال نہیں ہے۔
مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”و ان لم يقسم“ کہا جس سے مقصود اختلاف کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ہمارے نزدیک شفعہ مقصودہ اور غیر مقصودہ جائیداد میں ہو سکتا ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفعہ مقصودہ جائیداد میں ہو سکتا ہے اور غیر مقصودہ جائیداد ایں نہیں ہو سکتا ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف کی بینیاد ایک اصول میں اختلاف پڑتی ہے وہ اصول یہ ہے کہ ہمارے نزدیک شفعہ مشروع ہونے کا مقصد پڑوی کے ضرر کو دور کرنا ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفعہ مشروع ہونے کا مقصد تقسیم کی مشقت سے بچتا ہے اور یہ صرف مقصودہ جائیداد میں ممکن ہے اور غیر مقصودہ میں ممکن نہیں ہے۔

فائدة:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ”و ان لم يقسم“ فرمایا ہے تو اس تقسیم نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ شئی ایسی تقسیم قبول نہ کرتی ہو جو تقسیم مصید ہو یہ مطلب نہیں ہے کہ شئی تقسیم بالکل قبول نہ کرے کیونکہ یہ ممکن ہے اس وجہ سے اگر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ”و ان لم يقسم“ کی بجائے ”و ان لم يكن يقسم“ فرماتے تو یہ بہتر تھا۔
[شامی ۶/۲۳۶]

عبارت:

و دار قسمت لان في القسمة معنى الافراز و جعلت اجرة او بدل خلع او عتق او صلح عن دم عمندا و مهر و ان قبول بعضها مال فمن قوله و جعلت اجرة خلاف الشافعی رحمه الله تعالى فان هذه الاعواض متقومة عنده ولنا ان تقوم المنافع ضروري فلا تظهر في حق الشفعۃ و كذا الدم و العتق و اذا قبول بعضها مال كما اذا تزوجها على دار على ان ترد عليه الفا فلا شفعۃ في جميع الدار عند ابی حنيفة رحمه الله تعالى و قالا تجب في حصة الالف اذا فيها مبادلة مالية و هو يقول معنى البيع تابع فيه و لهذا ينعقد بلفظ النكاح و لا يفسد بشرط النكاح و لا شفعۃ في الاصل فكذا في التبع.

ترجمہ:

اور ایسا گھر جس کو تقسیم کیا گیا ہواں میں شفعہ نہ ہو گا اس لیے کہ تقسیم میں افراز کا معنی ہوتا ہے یا کسی گھر کو اجرت یا خلع یا آزادی کا بدل یا دم عمندا سے صلح یا مهر بنایا گیا ہو تو ان صورتوں میں شفعہ نہ ہو گا اگرچہ بعض کے مقابل مال رکھا گیا ہو اور ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول

”و جعلت اجرة“ سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کیونکہ اعراض ان کے نزدیک متقوم ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے کہ منافع کا متقوم ہونا ضرور ہے۔ لہذا یہ تقویم شفعہ کے حق میں ظاہر نہ ہوگا اور اسی طرح دم اور آزاد ہونے کی صورت ہے اور جب بعض گھر کے مقابل مال ہو جیسا کہ جب ایک شخص نے گھر کے بد لئے نکاح اس شرط پر کیا کہ عورت مرد کو ہزار روپے واپس کرے گی تو امام ابوحنین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام گھر میں شفعہ نہیں ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہزار کے حصے میں شفعہ ہوگا اس لیے کہ اس میں مالی مبادلہ ہے اور امام ابو یمن رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق اس میں تابع ہے اسی وجہ سے نکاح کے لفظ سے یہ عقد منعقد ہوا ہے اور نکاح کی شرط سے فاسد نہیں ہوا اور اصل میں شفعہ نہیں ہے تو اسی طرح تابع میں بھی نہیں ہے۔

تشریح:

ودار قسمت سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک گھر چند شرکاء کے مابین مشترک تھا پھر انہوں نے اس کو آپس میں تقسیم کر لیا تو اب ان کے پڑوی کو ان میں سے کسی پر حق شفعہ نہیں ہے اس لیے کہ تقسیم میں مبادلہ کا معنی نہیں ہے بلکہ افزائش کا معنی ہے یعنی ایک کے حصے کو دوسرے کے حصے سے الگ کیا گیا ہے۔

او جعلت سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پانچ صورتیں بیان کر رہے ہیں جن میں ہمارے نزدیک شفعہ نہیں ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق شفعہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنا گھر کسی کو دیا اس طور پر کہ یہ گھر فلاں شئی کی اجرت ہے یا یہوی نے شوہر سے خلص کیا اور اس کو خلص کے بد لے گھردے دیا یا کسی غلام نے آزادی کے بد لے مولیٰ کو گھردے دیا یا کسی قاتل نے قتل عمر کی صلح کے بد لے مقتول کے درشت کو گھردے دیا کسی شخص نے شادی کی اور مہر میں یہوی کو گھردے دیا تو اب ان تمام صورتوں میں احتاف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفعہ نہیں ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفعہ ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اعراض (اجرت، بد عتق، صلح، مہر) متقوم ہیں کیونکہ تقویم ایک حکم شرعی ہے اور شرع نے ان اشیاء کو اعراض کے بد لے مضمون بنایا ہے اور شئی کی حمن ان کی قیمت ہوتی ہے چنانچہ یہ اعراض ان کے نزدیک متقوم ہیں جب یہ متقوم ہیں تو ان کے عوض میں ملنے والے گھر میں حق شفعہ ہوگا۔

[الکفایہ: ۳۲۹/۸]

احتاف رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل:

احتاف رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ ان منافع کا متقوم ہونا ضرور ہے یعنی شرعی ضرورت کی وجہ سے ان کی قیمت بن جاتی ہے اور شفعہ کی صورت میں کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے جب شرعی ضرورت نہیں ہے تو یہ متقوم نہ ہوں گے جب متقوم نہ ہوں گے تو حق شفعہ ثابت نہ ہوگا اور اسی طرح خون اور آزاد ہونا تو مال ہی نہیں ہے چہ جائید وہ متقوم ہوں ہر حال آزاد ہونا تو احراق اور زائل کرنا ہے اور خون اموال کی جنس میں سے نہیں ہے۔

[الکفایہ: ۳۲۹/۸]

و اذا قوبل سے شارح اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک شخص نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کو مہر میں گھردیا اور عورت سے ہزار روپے بھی لیے گویا اس شخص نے بعض گھر مہر میں دیا اور بعض گھر کے بد لے رقم لے لی تو اب امام ابوحنین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام گھر میں حق شفعہ نہیں ہے جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہزار روپے کے بد لے جتنا گھر ہے اس میں حق شفعہ ہوگا کیونکہ اس حصے میں مالی مبادلہ ہوا ہے کہ شوہرنے اس حصے کا مشن وصول کیا ہے جب اس حصے میں مالی معاوضہ جاری ہوا ہے تو اس میں

شفعہ ثابت بھی ہوگا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شوہرنے گھر حقیقت میں مہر کے طور پر دیا ہے لیکن چونکہ گھر کا من مہر سے زیادہ ہے اس لیے زائد رقم یوں سے لی ہے تو یہ گھر اصل میں مہر ہے اور تبعاً اس میں بیع کا معنی موجود ہے اب اس کی دلیل (کہ یہ اصلاً مہر ہے اور تبعاً بیع ہے) یہ ہے کہ یہ عقد نکاح کے لفظ سے منعقد ہوا ہے اور یہ عقد نکاح کی شرائط کے باوجود فاسد نہ ہو گا پس اگر یہ عقد اصلاً مہر نہ ہوتا بلکہ بیع ہوتا تو بیع لفظ نکاح سے نہیں ہوتی اور وہ شرائط سے فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ عقد اصلاً مہر ہے اور تبعاً بیع ہے اور جب اصل (یعنی مہر) میں شفعہ نہیں ہو سکتا تو تابع (یعنی بیع) میں بھی نہ ہوگا۔

نوبت:

علامہ عبدالحیم حمید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علامہ ابو حفص کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس مسئلے میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے تین اقوال ہیں۔

☆.....دونوں حصوں (یعنی مہر والا حصہ اور بیج والا حصہ) میں شفعت ہوگا

☆..... دونوں حصوں میں شفعت نہ ہو گا یہ دونوں قول مرجوع ہیں۔

☆.....مہر والے حصے میں شفعتہ ہوگا البتہ بیچ والے حصے میں شفعتہ ہوگا یہ قول مرجوع ایہ ہے اور یہی صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا نہ جب ہے پس معلوم ہوا کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول راجح ہے کیونکہ یہی امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کا مرجوع ایہ قول ہے چنان چہ مسئلہ متفق علیہ ہو گیا۔ [تقریرات الرافعی: ۸/ ۲۹۳]

علیہ ہو گیا۔

معمارت:

او بيعا فاسدا و ما سقط حق فسخه فانه اذا بيع بيعا فاسدا و سقط حق الفسخ بان بنى المشترى فيها يثبت الشفعة اورد بخيار رؤية او شرط او عيب بقضاء بعد ما سلمت اى بيع و سلمت الشفعة ثم رد البيع بخيار الرؤية و بقضاء القاضى فلا شفعة لانه فسخ لا بيع و تجب برد بلا قضاء و باقالة اى يثبت الشفعة فى الرد بالعيوب بلاقضاء القاضى لانه لم يتعين الرد فاخذه بالرضا صار كانه اشتراه و كذا تجب الشفعة بالاقالة لان الا قالة بيع فى حق الثالث و الشفيع ثالثهما . وللعبد الماذون مديونا فى مبيع سيده وليسده فى مبيعه اى تجب الشفعة للعبد الماذون حال كونه مديونا دينا محيطا برقبته و كسبه فله الشفعة فيما باع سيده و كذا للسيد حق الشفعة فيما باع العبد الماذون المذكور بناءً على ان ما في يده ملك له .

۷۰

یا گھر یائے کے ساتھ فروخت کیا گیا اور بالع نے خیار ساقط نہیں کیا۔ لہذا اگر اس نے خیار ساقط کر دیا تو شفعت ثابت ہو جائے گا یا گھر بیچ فاسد کے طور پر فروخت کیا گیا اور بالع کا حق فتح ساقط نہیں ہوا کیونکہ اگر گھر بیچ فاسد کے تحت فروخت کیا جائے اور حق فتح ساقط د جائے اس طور پر کہ مشتری اس میں عمارت بنالے تو شفعت ثابت ہو جائے گا یا گھر خیار رویت یا خیار شرط یا خیار عیب کی وجہ سے شفعت سے دستبرداری کیے جانے کے بعد قاضی کے فیصلے سے واپس کر دیا گیا یعنی گھر کی بیچ ہوئی اور شفعت سے دستبرداری کر لی گئی پھر بیچ خیار رویت اور قاضی کے فیصلے سے رد کردی گئی تو شفعت نہیں ہو گا اس لیے کہ واپس کرنا فتح ہے، بیچ نہیں ہے اور قاضی کے فیصلے کے بغیر اور اقامے کے ساتھ واپس کرنے کی وجہ سے شفعت واجب ہو گا یعنی عیب کے ساتھ قاضی کے فیصلے کے بغیر واپس کرنے کی وجہ سے شفعت ثابت ہو گا اس لیے کہ

جب واپس کرنا واجب نہ ہوا تو اس کا لینارضاء کے ساتھ شمار ہو گا کیا کہ اس نے اس شی کو تحریر ہے اور اس طرح اقالہ کرنے کی وجہ سے شفعہ ثابت ہو گا اس لیے کہ اقالہ تیسرے کے حق میں بیع شمار ہوتا ہے اور شفعہ ان دونوں کا تیسرا ہے اور عبد ماذون کے لیے دراں حاکمہ وہ مدیون ہوا پنے آقا کی بیع میں حق شفعہ ثابت ہوتا ہے دراں حاکمہ وہ ایسے دین کے ساتھ مدیون ہو جو اس کی گردان اور کمائی کو گھیرے ہوئے ہو تو غلام کے لیے اس شی میں شفعہ کرنا جائز ہے جو اس کے آقانے فروخت کی ہو اور اسی طرح آقا کے لیے شفعہ کا حق ہے اس شی میں جس کو نہ کوہ عبد ماذون نے فروخت کیا ہو اس بنیاد پر کہ جو اس کے قبضے میں ہے وہ آقا کی ملک ہے۔

تشریح:

او بیعت بخیار البائع..... یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک شخص نے گھر فروخت کیا اور اپنے لیے تین دن کا خیار کھا تو شفعہ ثابت نہ ہو گا کیونکہ جب خیار بالع کا ہے تو گھر اس کی ملک سے نہیں لکھا جب گھر اس کی ملک سے نہیں لکھا تو شفعہ ثابت نہ ہو گا البتہ اگر بالع نے خیار ساقط کر دیا تو اب شفعہ ثابت ہو جائے گا۔ رہی یہ بات کہ شفع کے بیع کے طلب مواثیث کرنا بیع کے وقت واجب ہے یا سقوط خیار کے وقت واجب ہے؟ اس میں اختلاف ہے بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سقوط خیار کے وقت طلب واجب ہو گی اور بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیع کے وقت طلب واجب ہو گی۔ راجح قول یہ ہے کہ سقوط خیار کے وقت طلب واجب ہو گی۔

[فیہ تفصیل مذکور فی الشامی ۶/۲۳۷، تقریرات الرافی ۲/۲۹۳]

او بیعاً فاسداً..... یعنی اگر کسی نے اپنا گھر بیع فاسد کے ساتھ فروخت کیا مثلاً اس بیع میں کوئی ایسی شرط لگا دی جس سے بیع فاسد ہو گئی۔ چنانچہ جب یہ بیع فاسد ہے تو بالع کا حق فیض اس کے ساتھ متعلق رہے گا لہذا جب تک بالع کا حق فیض ساقط نہ ہو کا شفع کے لیے شفع نہیں ہے خواہ مشتری نے گھر پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ بہر حال اگر قبضہ نہ کیا ہو تو ظاہر ہے کہ بالع کی ملک زائل نہیں ہوئی۔ لہذا حق شفعہ نہیں ہے اور جب مشتری نے قبضہ کر لیا تو اس میں فیض کا احتمال باقی ہے لہذا حق شفعہ ثابت نہ ہو گا کیونکہ حق شفعہ کی وجہ سے فساد مزید پختہ ہو جائے گا۔ البتہ اگر مشتری نے قبضہ کرنے کے بعد اس میں ایسا کام کیا جس سے حق فیض ساقط ہو گیا مثلاً اس گھر میں مزید تعمیر کر دی تو اب حق شفعہ ثابت ہو جائے گا۔

[شای ۶/۲۳۸]

فائدہ:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”بان بنی المشتری“ سے اس فل کی مثال دی ہے جو حق فیض کو ساقط کرتا ہے۔ لہذا اگر مشتری نے گھر کسی کو فروخت کر دیا تو شفع کو اختیار ہو گا اگرچا ہے تو گھر کو بیع اول والی قیمت کے بدالے لے اور اگرچا ہے تو بیع ثانی والے شن کے بدالے لے لے۔

[بح الرائق ۸/۲۵۳]

او رد بخیار رویہ..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شفع نے شفعہ کرنے سے دستبرداری کر لی اس کے بعد مشتری نے گھر بالع کو خیار رویت یا خیار شرطکی وجہ سے واپس کر دیا تو اب شفع کے لیے دوبارہ بالع کے خلاف حق شفعہ ثابت نہ ہو گا اور اسی طرح جب گھر پر قبضہ کرنے کے بعد مشتری نے عیب کی وجہ سے گھر واپس کیا بشرطیکہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے بالع نے گھر لیا اور اسی طرح جب مشتری نے گھر پر قبضہ کرنے سے قبل عیب کی وجہ سے گھر واپس کیا خواہ قاضی نے فیصلہ کیا ہو یا نہ کیا ہو تو بھی شفعہ ثابت نہ ہو گا کیونکہ ان تینوں (خیار شرط خیار رویت خیار عیب) کی وجہ سے گھر واپس کرنا بیع اول کو فیض کرنا ہے از سرفود و سری بیع کرنا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ شفعہ ثابت ہو گا۔

و تجب برد بلا قضاء سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شفع کے دستبرداری کرنے کے بعد مشتری نے قبضہ کرنے کے بعد عیب کی وجہ سے گھر واپس کیا البتہ قاضی کے فیصلے کے ساتھ نہیں بلکہ بالع راضی تھا تو شفعہ ثابت ہو گا اس لیے کہ واپس کرنا واجب نہیں ہوا چنانچہ بالع کا گھر کو لینا رضامندی سے ہے جب رضامندی سے ہے تو یہ ایسا ہے جیسے بالع نے گھر خریدا ہے اور گھر خریدنے کی صورت میں حق شفعہ ثابت ہو گا اور اسی طرح اگر بالع اور مشتری کے مابین اقالہ ہو تو بھی شفعہ ثابت ہو گا اس لیے کہ اقالہ اگرچہ متعاقدين کے مابین فوج ہے لیکن تیرسے کے حق میں بیع ہے اور شفع ان کا تیرا ہے۔ لہذا اس کے لیے شفعہ ثابت ہو گا۔ [شامی: ۲۳۸]

چنانچہ عیب کے ساتھ واپس کرنے میں تفصیل معلوم ہے کہ اگر مشتری نے گھر پر قبضہ نہ کیا ہو اور عیب کی وجہ سے واپس کرے تو اب حق شفعہ ثابت نہ ہو گا خواہ قاضی نے فیصلہ کیا ہو یا فیصلہ نہ کیا ہو اور اگر مشتری نے قبضہ کر لیا ہو تو اب اگر واپس کرنا قاضی کے فیصلے سے ہو تو شفعہ ثابت نہ ہو گا اور اگر قاضی کے فیصلے سے نہ ہو تو شفعہ ثابت ہو گا۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تاسع:

بندہ کی ناقص فہم کے مطابق (عصمه اللہ عن الخطاء) جب عیب والی صورت میں ماقبل گزرنے والی تفصیل معلوم ہو گئی تواب یہ بات جانی چاہیے کہ متن کی عبارت ”اورد بخیار رویہ او شرط او عیب بقضاء“ میں ”قضاء“ صرف ”عیب“ سے متعلق ہے اور خیار رویت اور خیار شرط کے ساتھ متعلق نہیں ہے ان میں خواہ قاضی کے فیصلے سے واپس کرے یا فیصلے کے بغیر واپس کرے دونوں صورتوں شفعہ نہیں ہے البتہ عیب کے ساتھ واپس کرنے میں تفصیل ہے جیسا کہ گزرچکی تو معلوم ہوا کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ”ثم رد الیبع بخیار الرویہ و بقضاء القاضی یہ تاسع پرمنی ہے کیونکہ خیار رویت میں قضا کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر تقدیری عبارت نکال لی جائے تو یہ کلام صحیح ہو سکتا ہے کہ ”ثم رد الیبع بخیار الرویہ او العیب بقضاء القاضی“ تواب کوئی اشکال نہ ہو گا۔ ”ہذا ما ظهر لی و فیه احتمال الخطاء و الله اعلم بالصواب۔“

وللعبد الماذون اس کی صورت یہ ہے کہ آقانے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے دی پھر اس غلام نے آقا کے پڑوس میں گھر خرید لیا کچھ زمانے بعد آقانے اپنا گھر کسی کو فروخت کیا تواب غلام چونکہ پڑوسی ہے اس لیے غلام کو حق شفعہ حاصل ہو گا یا اس کا بر عکس ہو کہ غلام نے اپنا گھر کسی کو فروخت کر دیا تواب آقا کو حق شفعہ حاصل ہو گا یہ غلام کے لیے حق شفعہ حاصل ہونا اور آقا کے لیے حق شفعہ حاصل ہونا اس وقت ہے جب غلام پر دین ہو خواہ کتنا بھی ہو یہ شرط ہے اور دین کا غلام کی ذات اور مال کو گھر ناشرط نہیں ہے جیسا کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام ”حال کونہ مدیونا دینا محیطا بر قبته و کسبہ“ سے معلوم رہا ہے یہ تاسع پرمنی ہے۔ [شامی: ۲۳۹]

عبارت:

و لمن شری او اشتري له لا لمن باع او بيع له او ضمن للدرک اى يجب الشفعة للمشتري سواء اشتري اصالة او كالة و كذا تجب الشفعة لمن اشتري له اى لمن وكل اخر بالشراء فاشتري لاجل الموكل والموكل شفيع كان له الشفعة و فائدته انه لو كان المشتري او الموكل بالشراء شريك او للدار شريك ااخر فلهما الشفعة ولو كان هو شريك او للدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده ولا يكون للبائع شفعة سواء كان اصيلا او وكيلا كذا لا شفعة لمن بيع له اى ان وكل بالبيع والمؤكل شفيع فلا شفعة له و كذا اذا ضمن الدرک فيبع وهو شفيع له لا شفعة له لان الاستخلاص عليه و لا فيما بيع الا زرعا من طول حد الشفيع هذا حيلة لاسقاط شفعة

الجوار و هي ان تباع الدار الا مقدار عرضه ذراع او شبرا او اصبع و طوله تمام ما يلاصق من الدار المبيعة دار الشفيع فانه اذا لم يبع ما لا يلاصق دار الشفيع لا تثبت الشفعة او شرى سهما منها بشمن ثم باقيها الا في السهم الاول هذا حيلة اخرى لاسقاط شفعة الجوار و هي انه اذا اراد ان ليشتري الدار بالف يشتري شيئاً قليلاً منها كسهم واحد من الف سهم مثلاً بالف الا درهما ثم يشتري الباقى بدرهم فالشفيع لا يأخذ الشفعة الا في السهم الاول بشمنه لا في الباقى لأن المشتري صار شيئاً و هو احق من الجار او شرى بشمن ثم دفع عنه ثوباً بالشمن هذه حيلة اخرى تعم الجوار وغيره و هي ما اذا اريد بيع الدار بمائة فيشتري الدار بالف ثم يدفع ثوباً يساوى و مائة في مقابلة الالف فالشفيع لا يأخذ الا بالف .

ترجمہ:

اور شفعتہ اس شخص کے لیے ہے جس نے گھر خریدا ایسا کے لیے خریدا گیا نہ کہ اس شخص کے لیے جس نے بیچا جیسا جس کے لیے بیچا گیا جیسا جو شخص ضمان درک دے یعنی شفعتہ مشتری کے لیے ثابت ہو گا خواہ اس نے اصلیتہ خریدا ہو یا وکالتہ خریدا ہو اور اسی طرح شفعتہ اس شخص کے لیے ثابت ہو گا جس کے لیے گھر خریدا گیا ہو۔ یعنی اس شخص کے لیے جس نے دوسرے کو شراء کا وکیل بنایا پھر اس نے موکل کے واسطے خریدا اور اس حاکمہ موکل شفیع ہے تو اس کے لیے شفعتہ ثابت ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مشتری یا شراء کا موکل گھر میں شریک ہو اور گھر میں دوسرا بھی شریک ہو تو دونوں کے لیے حق شفعتہ ہو گا اور اگر وہ شریک ہے اور گھر کا ایک پڑوی ہے تو شریک کے موجود ہوتے ہوئے پڑوی کو حق شفعتہ نہ ہو گا اور باعث کے لیے حق شفعتہ نہ ہو گا خواہ وہ اصلی ہو یا وکیل ہو اور اسی طرح اس شخص کے لیے شفعتہ نہ ہو گا جس کے لیے گھر بیچا گیا یعنی اگر بیع کا وکیل بنایا گیا اور موکل شفیع ہے تو اس کے لیے حق شفعتہ نہیں ہے اور اسی طرح جب ایک شخص نے ضمان درک دی پھر گھر بیچا گیا اور وہی شخص اس کا شفیع ہے تو اس کے لیے شفعتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذمے اتحقاق سے خلاصی دلانا ہے اور نہ اس گھر میں شفعتہ ہو گا جس کو فروخت کیا گیا مگر شفیع کی طرف سے لمائی میں ایک ذراع نہ بیچا گیا یہ پڑوی کا شفعتہ ساقط کرنے کا حیلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ گھر فروخت کیا جائے مگر گھر کی چوڑائی کی مقدار میں ایک ذراع یا ایک بالشت یا ایک انگلی کے بعد حصہ نہ بیجا جائے اور اس حصے کی لمائی فروخت کیے جانے والے گھر میں وہ پورا حصہ ہو جو شفیع کے گھر ملاصق ہو کیونکہ جب وہ حصہ فروخت نہیں کیا گیا جو شفیع کے گھر سے ملاصق ہے تو شفعتہ ثابت نہ ہو گا یا گھر اور زمین میں سے مختصر حصہ کو شمن کی بھارتی مقدار سے خرید لے پھر بیچہ گھر خرید لے (تو شفعتہ ثابت نہ ہو گا) مگر پہلے حصے میں یہ پڑوی کے شفعتہ ساقط کرنے کا دروسرا حیلہ اور وہ یہ ہے کہ جب کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ گھر کو ہزار دراہم کے بد لے خرید لے تو گھر میں سے ٹھوڑا اس حصہ خرید لے جیسے ہزار حصوں میں سے ایک حصہ ہزار سے ایک دراہم کم کے بد لے لے پھر باقی گھر ایک دراہم کے بد لے لے تو شفیع شفعتہ سے پہلے حصے میں اس کے شمن کے بد لے لے سکتا ہے باقی کوئی نہیں لے سکتا اس لیے کہ مشتری شریک ہو گیا ہے اور وہ پڑوی سے احتی ہے یا گھر شمن کے بد لے خریدے پھر اس کی طرف سے کپڑا شمن ہی کے بد لے دے یہ دروسرا حیلہ ہے جو پڑوی اور غیر پڑوی دونوں کو شامل ہے اور وہ یہ ہے کہ جب گھر فروخت کرنے کا سورہ دراہم کے بد لے ارادہ ہو تو مشتری ہزار دراہم کے بد لے خرید لے پھر ایک کپڑا جو سورہ دراہم کے رابر ہو ہزار دراہم کے مقابلے میں دے دے تو شفیع گھر کو ہزار دراہم کے بد لے ہی لے گا۔

تشريح:

و لا فيما بيع مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تین حلیلوں کو بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے حق شفعتہ ساقط ہو جاتا ہے۔

پہلا حیله:

و لافیما بیع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پہلا حیله بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے سو دراع والا گھر کسی سے خریدنا چاہا اور اس نے گھر کے ننانوے ذراع خرید لیے اور ایک ذراع جوشیع کے گھر سے ملا ہوا تھا اس کو نہیں خریدا تواب شیع شفعت نہیں کر سکتا کیونکہ جب بالع نے وہ ذراع فروخت ہی نہیں کیا جوشیع کی دیوار سے تصلحتا تو شیع کے لیے شفعت ثابت نہ ہو گا۔

ترتیب:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس عبارت "لا فیما بیع الا ذراعاً" پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ چنانچہ اس عبارت کی ترتیب نقل کی جاتی ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "ذراعاً" مستثنی ہونے کی بناء پر منصوب ہے اور استثناء "بیع" کی "ہو" ضمیر سے ہے اور "ما" موصولہ سے استثنائے نہیں ہے اس کی مزیدوضاحت علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جو طوالت کے خوف سے نہیں ذکر کی جا رہی۔

[من شاء فلیراجع ثمہ: ۶/۲۲۳]

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت "فانہ اذا لم بیع مالا يلاصق" میں "ما" کے بعد "لا" زائد ہے۔ اس کو حذف کیا جائے۔

دوسری حیله:

او شری سہما منہما سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرا حیله بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی زمین یا گھر کو ہزار دراہم کے بد لے خریدنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے بہت سارے حصے بنالے مثلاً ہزار حصے بنالے اور ایک حصہ نو سو ننانوے دراہم کے بد لے خرید لے اس کے بعد بقیہ نو سو ننانوے حصے ایک دراہم کے بد لے خرید لے تواب شفعت صرف پہلے حصے میں ہو سکتا ہے جس کو مشتری نے نو سو ننانوے دراہم کا خریدار ہے اور اس میں شیع شفعت نہیں کرے گا کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور بقیہ حصوں میں شیع شفعت نہیں کر سکتا اس لیے کہ جب مشتری نے پہلا حصہ خریدا تھا تو وہ مالک کے ساتھ گھر میں شریک بن گیا جب وہ شریک بن گیا تو بقیہ حصوں میں شفعت کرنے کا مستحق یہ مشتری ہو گا کیونکہ یہ شریک ہے۔

تیسرا حیله:

او شری بشمن سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تیسرا حیله بیان کر رہے ہیں کہ جو بڑوی اور شریک دونوں کو شامل ہے کہ کسی کے لیے شفعت کا حق نہیں رہتا۔ وہ حیله یہ ہے کہ اگر بالع گھر کو سو دراہم کا فروخت کرنا چاہتا ہے تواب مشتری اس سے معاملہ طے کر کے گھر کو کسی طور پر ہزار دراہم کے بد لے خرید لے پھر اس کو سو دراہم جو اصل نہیں ہے وہ نہ دے بلکہ اسی کے بقدر کٹا دے دے تواب شفعت شفعت سے اعراض کرے گا کیونکہ نہ بہت زیادہ ہے۔

عبارت:

و لا يکرہ اسقاط الشفعة و الزكوة عند ابی يوسف رحمہ اللہ تعالیٰ و به یفتی فی الشفعة و بضده فی الزکوة اعلم ان حیلة اسقاطهما لا يکرہ عند ابی يوسف رحمہ اللہ تعالیٰ و يکرہ عند محمد رحمہ اللہ تعالیٰ و یفتی فی الشفعة بقول ابی يوسف رحمہ اللہ تعالیٰ لانه منع عن وجوب الحق لا اسقاط للحق الثابت و هکذا يقول فی الزکوة لكن هذا في غایة الشناعة لانه ایثار البخل و قطع رزق الفقراء الذين فقره اللہ تعالیٰ فی مال الاغنياء و الانحراط فی

سلک الذین یکنزوں الذہب و الفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ و الاستبتاب بما بشرہم اللہ تعالیٰ اقول الشفعة انما شرعت لدفع ضرر الجوار فالمشتری ان کان ممن يتضرر به الجیران لا يحل اسقاطها و ان کان رجلا صالحا ینتفع به الجیر ان والشیع متعنت لا یحب جارہ فح یحتال فی اسقاطها.

ترجمہ:

اور شفعة ساقط کرنے کا اور زکوٰۃ ساقط کرنے کا حیلہ کرنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور شفعة کے مسئلے میں اسی پر فتویٰ ہے اور اس کی ضد پر زکوٰۃ میں فتویٰ ہے تو جان لے ان دونوں (زکوٰۃ، شفعة) کو ساقط کرنے کا حیلہ کرنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر شفعة میں فتویٰ دیا گیا ہے اس لیے کہ حق کو واجب ہونے سے روکنا ہے حق ثابت کو ساقط کرنا نہیں ہے اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے بارے میں فرماتے ہیں لیکن یہ فعل زکوٰۃ کے بارے میں انتہائی برائے اس لیے کہ بخشن کو ترجیح دینا ہے اور ان فقراء کا رزق ختم کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امراء کے مال میں مقرر کیا ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کی لڑی میں پروناہے جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور حصکی حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں عذاب الیم کی دی ہے میں کہتا ہوں کہ شفعة پڑوی کے ضرر کو دور کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے چنانچہ مشتری اگر ان لوگوں میں سے ہو جس سے پڑو سیوں کو ضرر ہو گا تو اس کو ساقط کرنا حلال نہیں ہے اور اگر مشتری نیک آدمی ہو جس سے پڑو سیوں کو نفع ہو گا اور شفيع ضدی شخص ہے جو اپنے پڑوی کو پسند نہیں کرتا تو اس وقت شفعة ساقط کرنے کا حیلہ کیا جائے۔

تشریح:

ولاتکرہ..... مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شفعة اور زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مباح ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ شفعة ضرر کو دور کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے اور ضرر کو دور کرنا واجب ہے اور ضرر کو لاحق کرنا حرام ہے۔ لہذا ایسا حیلہ کرنا جس سے ضرر لاحق ہو مکروہ ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ اس حیلے کے ذریعے حق کو واجب ہونے سے روکنا ہے اور حق ثابت کو ختم کرنا نہیں ہے جب حق کو واجب ہونے سے روکنا ہے اس لیے یہ حیلہ کرنا جائز ہے۔

راجح قول:

مشاخچ رحمہم اللہ تعالیٰ نے شفعة کے بارے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو اور زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔
[درستار: ۶/۲۲۶، الباب: ۵، شانی: ۶/۲۲۶]

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے:

اقول..... شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اگر مشتری فسادی شخص ہو جس سے پڑوی کو تکلیف ہو گی تو ایسی صورت میں شفعة کو ساقط کرنا حلال نہیں ہے اور اگر مشتری نیک شخص ہو اور شفیع ضدی شخص ہو تو ایسی صورت میں شفعة ساقط کرنے کا حیلہ کرنا چاہیے۔

عبارت:

ویبطلها تر کہ طلب الموائۃ او الاشہاد و تسليمها بعد البيع فقط ای التسلیم قبل البيع لا یبطلها و لومن

الاب او الوصی او الوکیل ای الوکیل بطلب الشفعة فان تسليم هولاء ببطل الشفعة عند ابی حنیفة و ابی یوسف رحمه اللہ تعالیٰ خلافاً لمحمد و زفر رحمه اللہ تعالیٰ فان هذا ابطال حق ثابت للصغریر و انها شرعاً لدفع الضرر و لهما انه في معنی ترك الشراء و صلحه منها على عوض و رد عوضه اي الصلح على العوض ببطل الشفعة لانه تسليم لكن الصلح غير جائز لانه مجرد حق التملک فيجب رد العوض و موت الشفیع. لا المشتری فان الشفیع اذا مات بطل الشفعة و لا تورث عنه خلافاً للشافعی رحمه اللہ تعالیٰ لانها ليست بمال و هذا اذا مات بعد البيع قبل القضاة القاضی قبل نقد الشمن او بعده تصیر للورثة و بيع ما يشفع به قبل القضاة بها نزوال سبب الاستحقاق قبل التملک بخلاف ما اذا كان البيع بشرط الخيار.

ترجمہ:

اور شفیع کا طلب مواثیت یا اٹھاد کو ترک کر دینا اور فقط بیع کے بعد تسليم کرنا شفعت کو باطل کر دیتا ہے یعنی بیع سے قبل تسليم کرنا شفعت باطل نہیں کرتا اگرچہ تسليم کرنا باب پایاوصی یا وکیل کی طرف سے ہو، یعنی طلب شفعت کا وکیل کیونکہ ان لوگوں کا تسليم کرنا شفعت کو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطل نہیں کرتا بخلاف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہے کیونکہ یہ صغیر کے لیے ثابت ہونے والے حق کو باطل کرنا ہے اور شفعتہ ضرر کو دور کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے اور شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ تسليم کرنا خریدنے کو چھوڑنے کے معنی میں ہے اور ان لوگوں کا شفعت سے عوض پر صلح کرنا (شفعت کو باطل کرتا ہے) اور اس عوض کو واپس کیا جائے گا یعنی عوض پر صلح کرنا شفعت کو باطل کرتا ہے اس لیے کہ یہ تسليم ہے، لیکن صلح ناجائز ہے اس لیے کہ صلح محض مالک بننے کا حق ہے چنانچہ عوض کو واپس کرنا واجب ہے اور شفیع کا مرجانہ کہ مشتری کا مرنا کیونکہ جب شفیع مرجائے گا تو شفعتہ باطل ہو جائے گا اور شفعتہ کا وارث نہیں بنا جاتا بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہے اس لیے کہ شفعتہ مال نہیں ہے اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب شفیع بیع کے بعد اور فیلے سے قبل مرا ہو بہر حال جب وہ قاضی کے فیصلے کے بعد من ادا کرنے سے قبل یا ادا کرنے کے بعد مرا ہو تو حق شفعتہ ورثہ کا ہوگا اور اس جگہ کو جس کی وجہ سے شفعتہ کیا گیا ہے، فیصلے سے قبل فروخت کرنا شفعتہ کو باطل کرتا ہے کیونکہ مالک بننے سے قبل استحقاق کا سبب زائل ہو گیا۔ بخلاف جب بیع شرط خیار کے ساتھ ہو۔

تشریح:

یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صورتیں بیان کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے حق شفعتہ باطل ہو جاتا ہے دوسری کتب فقہ میں ان صورتوں کو الگ باب میں ذکر کیا گیا ہے۔

و بسطلہا..... یعنی اگر شفیع نے بیع کا علم ہونے کے بعد طلب مواثیت نہیں کی باوجود یہ کہ وہ طلب پر قادر تھا تو شفعتہ باطل ہو جائے گا، اسی طرح اگر طلب اٹھاد (یعنی بیع یا باع اور مشتری میں سے کسی ایک کے پاس گواہ بنانا) قدرت کے باوجود نہ کی تو بھی شفعتہ باطل ہو جائے گا اور اسی طرح بیع ہونے کے بعد شفیع نے خود شفعتہ کو حوالے کر دیا تو بھی شفعتہ باطل ہو جائے گا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے لفظ "فقط" استعمال کیا ہے جس کی وضاحت شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ای التسلیم سے کی ہے کہ اگر شفعتہ سے دستبرداری بیع سے قبل ہو تو یہ حق شفعتہ و باطل نہیں کرتی۔

و لو من الاب یعنی اگر حق شفعتہ صغیر کے لیے ثابت ہوا تھا پھر اس کے باب پایاوصی یا وکیل نے شفعتہ سے دستبرداری کر لی تو حق

شفعہ باطل ہو جائے گا یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہب ہے جب کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کے شفعہ سے دستبردار ہونے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ صغیر کو بالغ ہونے کے بعد حق شفعہ حاصل ہو گا کیونکہ شفعہ ضرور کو درکرنے کے لیے مشرع ہوا ہے اور یہ صغیر کا حق ہے اور ان لوگوں کی دستبرداری سے اگر حق شفعہ باطل ہو جائے تو صغیر کے حق کو باطل کرنا لازم آئے گا۔

لهمما انه شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ طلب شفعہ خریدنے کے معنی میں ہے اور ترک شفعہ خریدنے کو چھوڑنے کے معنی میں ہے جس طرح یہ لوگ صغیر کے لیے فعل شراء اور ترک شراء دونوں کے مالک ہیں اسی طرح طلب شفعہ اور ترک شفعہ دونوں کے مالک ہیں۔

صلحہ منها یعنی اگر شفع نے مشتری سے کوئی عوض لے کر اس بات پر صلح کر لی کہ وہ شفعہ نہیں کرے گا تو اب حق شفعہ ساقط ہو جائے گا اور شفع کو عوض لونا ضروری ہے اس لیے کہ شفعہ مغض ایک حق ہے لہذا اس کی طرف سے عوض لینا صحیح نہیں ہے اور شفعہ کے ساقط کرنے کو جائز شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں ہے چہ جائیکہ فاسد شرط سے متعلق کیا جائے۔

[شای: ۲/۲۳۱]

موت الشفیع یعنی اگر بیع کے بعد شفع نے دونوں طلبیں کر لیں اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب حق شفعہ باطل ہو جائے گا اور اس میں وارثت جاری نہ ہو گی کیونکہ حق شفعہ مال نہیں ہے اور وارثت الی میر جاری ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں وارثت جاری ہو گی چنانچہ حق شفعہ میت کے مرثے کو حاصل ہو گا اور اگر شفع بیع اور تضاد نہیں ہوئے تو اس کے بعد مراثت اس میں وارثت جاری ہو گی خواہ شفع نے مثمن ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو اور اگر بیع کے بعد مشتری کا انتقال ہو گیا تو اب حق شفعہ باطل نہ ہو گا۔

و بیع ما یشفع یعنی اگر شفع نے وہ گھر جس کی وجہ سے شفعہ کیا تھا قاضی کے فیصلہ کرنے سے قبل فروخت کر دیا تو اب حق شفعہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شفع کے مالک بننے سے قبل شفعہ کے احتراق کا سبب زائل ہو گیا البتہ اگر شفع نے گھر خیار شرط کے ساتھ فروخت کیا تو حق شفعہ باطل نہ ہو گا اسی طرح اگر اس نے مشتری کے گھر سے متصل ذراع کو فروخت نہ کیا تو بھی حق شفعہ باطل نہ ہو گا۔

[شای: ۲/۲۳۱]

عبارت:

فان سمع شراء ک فسلم ظهر شراء غیر ک او بيعه بالف فسلم و كان باقل او بكيلي او وزنى او عددى متقارب قيمته الف او اكثرا فهى له و بعرض كذلك لا اي سمع البيع بالف فسلم و كان باقل او كان بكيلي او وزنى او عددى متقارب قيمته الف او اكثرا فالشفعة ثابتة له لأن هذه الاشياء من ذوات الامثال فالشفع ياخذ بها و ربما يكون له الاخذ بهذه الاشياء ايسرا و ان كانت قيمتها اكثرا من الالف فيكون له حق الشفعة بخلاف ما اذا ظهر ان البيع كان بعرض قيمته الف او اكثرا لا يبقى له الشفعة لأن الشفيع يأخذها بالقيمة فان كانت قيمته الفا فقد سلم البيع به و ان كانت قيمتها اكثرا فتسليم المبيع بالف تسليم المبيع بالاكثر بالطريق الاولى . و شفيع حصة احد المستريين لا احد الباعية اي اشتري جماعة من واحد فللشفع ان يأخذ نصيب احدهم و ان باع جماعة من واحد لا يأخذ حصة احد البائعين و يترك حصہ الباقیہ ان شاء اخذ كلہا او ترك لأن هنا يتفرق الصفقة على المسترى و ثمة لا يتفرق و ايضا يتحقق في الاول دفع ضرر الجار لا في الثاني و النصف مفرز بيع مشاعاً من دار فقسماً اي اشتري نصفاً مشاعاً من دار فقسمه البائع و المسترى فالشفع يأخذ النصف مفرزاً لأن القسمة من تمام القبض .

اگر شفیع نے تیرے خریدنے کے بارے میں سنا پھر اس نے شفہ سے دستبرداری کر لی پھر تیرے علاوہ دوسرے کا خریدنا ظاہر ہوا یا شفیع نے ہزار دراہم کے بدلتے بیچ ہونے کو سنا پھر اس نے دستبرداری کر لی حالانکہ بیچ کم رقم کے بدلتے ہوئی تھی یا کمیلی یا موزونی یا عددی متقارب کے بدلتے ہوئے تھی جن کی قیمت ہزار دراہم یا زائد تھی تو شفہ اس کے لیے ہو گا اور اسی طرح سامان کے بدلتے ہونے کی صورت میں شفہ نہ رہے گا، یعنی اس نے ہزار دراہم کے بدلتے بیچ ہونے کو سنا پھر اس نے دستبرداری کر لی حالانکہ بیچ کم کے بدلتے ہوئی تھی یا کمیلی یا وزنی یا عددی متقارب کے بدلتے ہوئی تھی جن کی قیمت ہزار دراہم یا زائد تھی تو شفہ اس کے لیے ثابت رہے گا اس لیے کہ یہ اشیاء ذات امثال میں سے یہ تو شفہ ان کے بدلتے لے گا اور کمی مرتبہ شفہ کے لیے ان اشیاء کے بدلتے لینا آسان ہوتا ہے اور اگر ان اشیاء کی قیمت ہزار دراہم سے زائد ہو تو بھی اس کے لیے شفہ ہو گا۔ برخلاف اس صورت کے ہے جب یہ بات ظاہر ہو کہ بیچ سامان کے بدلتے ہوئی تھی جس کی قیمت ہزار دراہم یا زائد تھی تو اس کے لیے حق شفہ باقی نہ رہے گا اس لیے کہ شفہ یہاں قیمت کے بدلتے گھر لے گا۔

اور شفہ مشریوں میں سے ایک کا حصہ لے گا اور بائیوں میں سے ایک حصہ نہیں لے گا یعنی ایک جماعت نے ایک شخص سے گھر خریدا تو شفہ کے لیے جائز ہے کہ ان میں سے ایک کا حصہ لے اور اگر جماعت نے ایک شخص کو گھر فروخت کیا تو شفہ بائیوں میں سے ایک کا حصہ نہیں لے گا اور باقیوں کا حصہ چھوڑ دے اگر چاہے تو تمام گھر کو لے یا تمام کو چھوڑ دے اس لیے کہ یہاں مشتری پر صفة متفرق ہے اور وہاں صفة متفرق نہیں تھا اور یہ بات بھی ہے کہ کہی صورت میں پڑوئی کے ضرر کو دور کرنا ثابت ہے اور دوسری صورت میں نہیں ہے اور شفہ جدا کیا ہو انصاف حصہ لے گا جس کو کسی گھر سے مشاعر فروخت کیا گیا تھا پھر ان دونوں نے تقسیم کر لیا یعنی ایک شخص نے کسی گھر کا نصف حصہ مشاعر خریدا پھر باائع اور مشتری نے گھر تقسیم کر لیا تو شفہ جدا کیے ہوئے نصف حصے کو لے گا اس لیے کہ تقسیم قبضہ تمام ہونے سے ہے۔

تشریح:

فان سمع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شفہ کو معلوم ہوا کہ گھر آپ نے (ملازمیدنے) خریدا ہے پھر اس نے شفہ سے دستبرداری کر لی اس کے بعد معلوم ہوا کہ گھر تو کسی دوسرے نے (ملازم عمردنے) خریدا ہے تو شفہ کے لیے حق شفہ باقی رہے گا اور اس کا شفہ سے دستبردار ہونا باطل ہو جائے گا اس لیے کہ لوگ اخلاق میں متفاوت ہیں تو شفہ کسی کے ساتھ رہنے میں اس کے اخلاق کی وجہ سے رغبت کرتا ہے اور کسی کے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے اس سے اعراض کرتا ہے۔ لہذا ایک کے حق میں حق شفہ سے دستبردار ہونا دوسرے کے حق میں دستبرداری کو لازم نہیں ہے۔

[بخاری الرائق: ۲۶۰/۸]

او بیعہ بالف سے دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر شفہ کو اس بات کا علم ہوا کہ گھر ہزار دراہم کا فروخت کیا گیا ہے اور اس نے یہ سن کر شفہ سے دستبرداری کر لی پھر بعد میں معلوم ہوا کہ گھر سات سو دراہم کے بدلتے یا مکملی یا موزونی یا عددی متقارب والی کسی شئی کے بدلتے فروخت کیا گیا ہے تو اس کو حق شفہ حاصل ہو گا اور دستبرداری باطل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ان اشیاء کے بدلتے شفہ کو گھر لینا آسان ہو سکتا ہے اگر چنان کی قیمت ہزار دراہم سے زائد ہو کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گندم وغیرہ دوسری اشیاء انسان کے پاس ذخیرہ ہوتی ہیں اور اس کے پاس نقدر قسم نہیں ہوتی لہذا شفہ کو حق شفہ حاصل ہو گا بخلاف ما اذا یعنی اگر شفہ سے دستبردار ہونے کے بعد شفہ کو معلوم ہوا کہ گھر سامان (مثلاً گاڑی وغیرہ) کے بدلتے فروخت کیا گیا ہے جس سامان کی قیمت ہزار دراہم یا اس سے زائد ہے تو اب شفہ کو حق شفہ حاصل نہ ہو گا اس لیے کہ سامان یعنی شئی ہے لہذا اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اب اگر سامان کی قیمت ہزار

دراءہم ہو تو اس صورت میں شفع پہلے ہی دستبرداری کر چکا ہے جب اس کو یہ معلوم ہوا تھا کہ گھر ہزار دراءہم کا فروخت ہوا ہے اور اگر سامان کی قیمت ہزار دراءہم سے زائد ہو تو پھر بدرجہ اولیٰ شفع کا حق نہ ہو گا کیونکہ جب ہزار دراءہم کے بد لے شفع شفع سے دستبردار ہو چکا ہے تو ہزار سے زائد کی صورت میں بدرجہ اولیٰ شفع دستبردار ہو گا لہذا سامان کی صورت میں حق شفع دوبارہ حاصل نہ ہو گا۔

و شفیع حصة سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ دو صورتیں بیان کر رہے ہیں جن کے حکم باہم مخالف ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ایک جماعت نے کسی شخص سے ایک گھر خرید ا تو اب شفع شفع کر کے جماعت میں سے کسی ایک شخص کا حصہ لے سکتا ہے۔

دوسری صورت اس کے بر عکس ہے کہ اگر ایک جماعت نے ایک گھر کسی ایک شخص کو فروخت کیا ا تو اب شفع چاہے تو پورا گھر چھوڑ دے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ فروخت کرنے والی جماعت میں سے کسی ایک کا حصہ لے۔
پہلا فرق:

لان هنا یتفرق سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں کے مابین فرق بیان کر رہے ہیں کہ دوسری صورت میں چونکہ مشتری ایک شخص ہے اس لیے اگر شفع فروخت کرنے والی جماعت میں سے کسی ایک کا حصہ لے گا تو مشتری پر تفرق صفة لازم آئے گا کیونکہ اس نے پورا گھر ایک ہی سودے میں خریدا تھا تو شفع کے بعض حصے لینے کی وجہ سے مشتری پر تفرق صفة لازم آئے گا جو کہ صحیح نہیں ہے اور پہلی صورت میں چوں کہ مشتری کئی اشخاص ہیں اس لیے کہ شفع کے ایک مشتری کا حصہ لینے کی وجہ سے باقیہ ساتھیوں پر تفرق صفة لازم نہ آئے گا کیونکہ ہر ایک کے پاس اس کا حصہ موجود ہے البتہ ان کے ساتھی کے قائم مقام شفع بن گیا ہے۔

دوسرافرق:

و ايضا یتحقق سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرافرق بیان کر رہے ہیں کہ پہلی صورت میں جب جماعت مشتری ہے تو ممکن ہے ان میں سے ایک فسادی شخص ہو تو شفع اس کا حصہ لے کر پڑوی کے ضرر کو دور کر رہا ہے اور دوسری صورت میں چونکہ مشتری صرف ایک شخص ہے اس لیے وہاں یہ وجہ متصور نہیں ہے۔

و النصف مفرز سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک شخص نے کسی سے نصف گھر مشاع کے طور پر خریدا پھر بعد میں بالع اور مشتری نے تقسیم کر لیا تو اب شفع شفعہ کر کے صرف مشتری کے نصف حصے کو لے سکتا ہے خواہ وہ شفع کے گھر کی جانب ہو یا دوسری جانب ہو اور شفع بالع اور مشتری کے مابین ہونے والی تقسیم ختم نہیں کروسا سکتا خواہ وہ تقسیم قضائے کی ہو یا رضائے کی ہو اس لیے کہ تقسیم کرنا قبضہ تام ہونے میں ہے کہ کیونکہ تقسیم کرنے سے قبل شی پر قبضہ کرنا ناقص ہوتا ہے۔

.....☆☆☆☆.....

كتاب القسمة

لغوي معنى:

القسمة کالغوى معنى "تقسيم کرنا" ہے

شرعی معنی:

اس کا شرعی معنی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان ہے کہ قسمت "ہی تعین الحق المتبائع"

شرط:

قسمت کی شرط یہ ہے کہ ایسا سامان ہو جس کی منفعت تقسیم کرنے سے ختم اور تبدیل نہ ہو۔

حکم:

اس کا حکم ہر ایک کے حصے کا دوسرا کے حصے سے متاز ہونا ہے ملک اور نفع کے لحاظ سے۔

سبب:

دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کا اپنے حصے سے خاص طور پر نفع حاصل کرنے کو طلب کرنا ہے۔

خوبی:

اس کی خوبی یہ ہے کہ پہلے دونوں شریکوں میں سے ایک کو اگر دوسرے سے برے اخلاق سے یا کسی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو تو وہ تقسیم کے ذریعے تکلیف سے نجات پا سکتا ہے۔

صفت:

اس کی صفت یہ ہے کہ بعض شرکاء کے طلب کرنے کے وقت تقسیم کرنا حاکم پر واجب ہوتی ہے۔ [بحار الرائق: ۲۶۷/۸]

مشروعیت کی دلیل:

تقسیم کے مشروعیت کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ "وَنَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ السَّمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ" اور دوسری آیت "لَهَا شُرْبٌ وَلَكُمْ شُرْبٌ يَوْمَ الْعِلْمِ" ہے

او ر حديث شریف ہے کہ آپ علیہ السلام نے غنائم اور میراث کے اموال میں تقسیم فرمائی ہے اور آپ علیہ السلام اپنی ازوائج میں تقسیم فرمائے تھے اور امت کا اس کے جواز پر اجماع ہے

رکن:

تقسیم کا رکن وہ فعل ہے جس کی وجہ سے حصوں کے مابین جدا کی ہو جائے۔

فائدہ:

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”ذخیرہ“ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ نفس تقسیم کی وجہ سے کوئی شریک کسی معین حصے کا مالک نہ بنے گا بلکہ ملکیت چار باتوں میں سے کسی ایک سے ثابت ہوگی۔ (۱) ہر شریک اپنے حصے پر قبضہ کرے۔ (۲) قاضی سے فیصلہ کروایا جائے۔ (۳) قرعداً لکرتقسیم کی جائے۔ (۴) کسی شخص کو وکیل بنالیا جائے جو ان میں سے ہر ایک کو حصہ لازم کر دے۔

[تقریات الرافعی ۶/۲۲۵]

عبارت:

ہی تعیین الحق الشائع و غالب فيها الافراز في المثلی والمبادلة في غيره، فياخذ كل شريك حصته بغيرية صاحبه في الاول لا في الثاني. و ان اجبر عليها في متعدد الجنس فقط عند طلب احدهم اي المبادلة غالبة في غير المثلی مع انه يجبر على القسمة في غير المثلی اذا كان متعدد الجنس مع ان المبادلة لا يجري فيه الجبر فانه انما يجبر عليها لأن فيها معنى الافراز مع ان الشريك يريد الانتفاع بحصته فاوجب الجبر على ان المبادلة قد يجري فيها الجبر اذا تعلق حق الغير به كما في قضايا الدين . و ينصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بلا اجر و هو احب و ان نصب باجر صحي و هو على عدد الرؤس هذا عند ابی حنيفة رحمہ اللہ تعالیٰ و قالا الاجر يجب على قدر الانصباء لانه مونه الملک له ان الاجر مقابل بالتميز و هو لا يتفاوت بل قد يصعب في القليل و قد يعكس فتعذر اعتباره فاعتبر اصل التميز. ويجب كونه عدلا عالما بها. و لا يعين واحد لها لأن الامر قد يضيق على الناس والا جر يصير غاليا. ولا يشرك القسام اي ان قسم واحد لا يكون الاجر مشتركا بينهم فانه يفضي الى غلاء الاجر.

ترجمہ:

قسمہ حق شائع کو تعین کرنا ہے اور تقسیم میں مثلی شی میں ”افراز“ (الگ کرنا) اور غیر مثلی میں مبادله عام طور پر ہوتا ہے۔ لہذا ہر شریک اپنا حصہ ساتھی کی غیر موجودگی میں افراز کی صورت میں لے سکتا ہے اور مبادلے کی صورت میں نہیں لے سکتا اگرچہ تقسیم پر ایک جنس والی شی میں مجبور کیا گیا ہوان میں کسی ایک کے طلب کرنے کے وقت یعنی غیر مثلی میں مبادله غالب ہے باوجود یہکہ غیر مثلی میں تقسیم پر مجبور کیا جاتا ہے جب وہ ایک جنس والی شی ہواں کے باوجود مبادلے میں جرنیں چلتا چنانچہ مبادله پر جر کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں افراز کا معنی ہے کیونکہ شریک اپنے حصے سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس نے جرب ثابت کیا اس بنیاد پر کہ مبادلہ میں کبھی جرب جاری ہوتا ہے جب کہ اس کے ساتھ غیر کائن متعلق ہو جیسا کہ دین ادا کرنے کی صورت میں جرب جاری ہوتا ہے اور ایک تقسیم کرنے والا مقرر کیا جائے گا جس کو بیت المال سے تنخواہ دی جائے گی تاکہ وہ بلا اجرت تقسیم کرے اور یہ زیادہ پسندیدہ ہے اور اگر تقسیم کرنے والا اجرت کے ساتھ مقرر کیا گیا تو یہ صحیح ہے اور اجرت شرکاء کی تعداد کے بعد رہوگی یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اجرت حصوں کے بقدر واجب ہوگی اس لیے کہ اجرت ملک کی مشقت کی وجہ سے ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ اجرت جدا کرنے کے مقابل ہے اور جدا کرنا متفاوت نہیں ہے بلکہ جدا کرنا کبھی قلیل حصے میں مشکل ہوتا ہے اور کبھی اس کے بر عکس ہوتا ہے لہذا ملک کا اعتبار مشکل ہے چنانچہ صرف جدا کرنا معتبر ہے اور قسم کا عادل ہونا تقسیم کو جانے والا ہونا واجب ہے اور تقسیم کے لیے ایک شخص کو تعین

نہ کرے اس لیے کہ معاملہ لوگوں پر تنگ ہو جائے گا اور اجرت مہنگی ہو جائے گی اور تقسیم کرنے والے شرکت نہ کریں یعنی اگر ایک تقسیم کرے گا تو اجرت ان کے درمیان مشترک ہوگی کیونکہ شریک ہونا اجرت مہنگی کرنے کی طرف لے جائے گا۔

تشریح:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کے شرعی معنی بیان کیے ہیں کہ حق شائع یعنی ہر شریک کا حق پورے گھریاز میں میں وغیرہ میں پھیلا ہوا ہے اس طور پر کہ ہر ہر جز میں دونوں شریک ہیں یعنی شائع ہے اب حق شائع کو متعین کرنے کے لیے تقسیم کا عمل کیا جاتا ہے۔

اصول:

و غلب فیها سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ تقسیم کے اندر افزاز (یعنی بعضی اپنے حصے کو الگ کر کے لینا) اور مبادله (یعنی اپنے حق کے بد لے کوئی شی کی لینا) دونوں معنی پائے جاتے ہیں خواہ تقسیم مثلی اشیاء کی ہو یعنی اشیاء کی ہو۔ البتہ مثلی اشیاء کی تقسیم میں افزاز کا معنی غالب ہوتا ہے اس لیے کہ مثلی اور موزونی اشیاء میں باہم تفاوت نہیں ہوتا جب ان میں تفاوت نہیں ہوتا تو ہر شریک اپنا حق صورتہ اور معنی لے رہا ہے چنانچہ یوں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک نے بعضی اپنا حق لیا ہے اور کبھی اشیاء میں مبادلے کا معنی غالب ہوتا ہے کیونکہ کبھی اشیاء باہم متفاوت ہوتی ہیں جب باہم متفاوت ہوتی ہیں تو ہر شریک بعضیہ اپنا حق لینے والا شمارہ ہو گا۔

[البنایہ: ۱۲/۳۰، در مختار: ۶/۲۵۲]

جب یہ اصول بیان ہو چکا تو اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ عبارت فیاحدہ کل سمجھنا آسان ہے یعنی جب مثلی اشیاء میں تفاوت نہ ہونے کی وجہ سے افزاز کا معنی غالب ہے اور ہر شریک بعضیہ اپنا حق لینے والا ہے۔ لہذا ہر شریک دوسرے کی غیر موجودگی میں اپنا حصہ لے سکتا ہے کیونکہ وہ بعضیہ اپنا حق لے رہا ہے جس کے لیے دوسرے کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے اور اگر کبھی اشیاء ہوں تو ایک شریک دوسرے کی غیر موجودگی میں اپنا حصہ نہیں لے سکتا کیونکہ ان میں تفاوت ہوتا ہے لہذا وہ بعضیہ اپنا حق لینے والا شمارہ نہیں ہوتا چنانچہ چہ دوسرے شریک کا موجود ہونا ضروری ہے۔

وان اجیر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ابھی ما قبل میں نہ کرو ہوا ہے کہ کبھی اشیاء میں مبادلہ کا معنی غالب ہوتا ہے تو اس سے یہ دھرم ہوتا تھا کہ جب کبھی اشیاء میں مبادلہ کا معنی غالب ہے تو اگر شرکاء میں سے ایک تقسیم پر راضی نہ ہو تو اس کو تقسیم پر مجبور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس میں مبادلہ کا معنی ہے اس دھرم کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا کہ اگرچہ کبھی اشیاء میں مبادلہ کا معنی غالب ہے لیکن جب کبھی اشیاء کی جنس ایک ہو تو انکار کرنے والے کو تقسیم کرنے پر مجبور کیا جائے گا چنانچہ اس عبارت سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ کبھی اشیاء میں مبادلہ کے معنی کا غالب ہونا اور متعدد جنس ہونے کے وقت مجبور کرنے میں منافات نہیں ہے۔

فائدہ:

یہ بات جانتی چاہیے کہ تقسیم کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ جس میں انکار کرنے والے کو مجبور نہیں کیا جائے گا جیسی اشیاء مختلف اجتناس والی ہوں تو انکار کرنے والے کو مجبور نہ کیا جائے گا اور دوسری قسم وہ ہے جس میں انکار کرنے والے کو مجبور کیا جائے جیسے مثلی اشیاء ہوں اور تیسرا قسم وہ ہے کہ کبھی اشیاء کی ایک جنس ہو تو انکار کرنے والے کو مجبور کیا جاتا ہے۔

اور خیارات بھی تین ہیں۔ خیارشرط، خیاررویۃ، خیارعیب، لہذا پہلی قسم میں تینوں خیارات ثابت ہوتے ہیں اور دوسری قسم میں جنہیں خیار عیب ثابت ہوتا ہے اور تیسرا قسم میں خیار عیب اور خیار رویۃ ثابت ہوتے ہیں جب کہ خیارشرط بھی اصح قول کے مطابق ثابت ہوتا ہے۔

[شامی: ۶/۲۵۵، حوالائق: ۸/۳۶۸]

فائدہ:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت و ان اجبر میں "ان" وصلیہ ہے اور "متحد الجنس فقط" "میں فقط" "متحد الجنس" کی قید ہے۔

اشکال:

یہاں تک مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کی شرح مکمل ہو گئی اب شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کی شرح کی جاتی ہے۔ ای المبادلة سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اشکال ذکر کر رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ غیر مثلي اشیاء کی جنس ایک ہونے کی صورت میں انکار کرنے والے کو مجبور کیا جائے گا تو یہ مجبور کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ بات اگر رچکی ہے کہ غیر مثلي اشیاء کی تقسیم میں مبادله کے معنی غالب ہوتے ہیں اور مبادله میں جرنیں چلتا۔ اس کے باوجود مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب غیر مثلي کی جنس ایک ہو تو جبر کیا جاسکتا ہے تو جبر کرنا اس معنی کے منافی ہے جو غیر مثلي اشیاء کی تقسیم میں پایا جاتا ہے۔

پہلا جواب:

فانہ انما یجبر سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اس اشکال کا پہلا جواب دے رہے ہیں کہ تقسیم میں مطلقاً (خواہ مثلي اشیاء کی) ہو یا غیر مثلي اشیاء کی (ہو) افزاز اور مبادله دونوں کا معنی پایا جاتا ہے جب غیر مثلي اشیاء کی تقسیم میں افزاز کا معنی ہے وہ اس طرح کہ ہر شریک اپنے حصے سے نفع اٹھائے گا چنانچہ انکار کرنے والے کو مجبور کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب غیر مثلي اشیاء کی جنس مختلف ہو تو مبادله کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ انکار کرنے والے کو مجبور نہ کیا جائے اور اگر جنس ایک ہو تو افزاز کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ مجبور کرنا صحیح ہے۔

دوسرے جواب:

علی ان المبادلة سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ اگر غیر مثلي اشیاء میں مبادله کے معنی کا اعتبار کیا جائے جو کہ غالب ہے تو ہم کہیں گے کہ کبھی مبادله میں جبر چلتا ہے جب کہ مبادله کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو جیسے ایک شخص پر مثلي شخصی دین میں لازم ہو تو اس کو مثلي شخصی کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ یہاں دین کے ساتھ دوسرے شخص کا حق متعلق ہے تو جب کسی کا حق متعلق ہوئے ہم نے کہا کہ وقت مبادله میں جبر چلتا ہے تو اسی طرح تقسیم میں بھی دوسرے شریک کا حق متعلق ہوتا ہے اس لیے اس میں بھی جبر چلے گا۔

[البنا ۱۲/۱۳۱، شامی: ۶/۲۵۵]

و ینصب قاسم یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قاضی کے لیے مناسب ہے کہ ایک شخص کو اس کام پر مقرر کردے جو لوگوں کی اشیاء اور جائیداد تقسیم کر دیا کرے اور اس کو تخواہ بیت المال سے دے (بیت المال سے مراد وہ خزانہ ہے جس میں کفار سے جزیہ اور خرچ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے اور جس میں زکوٰۃ وغیرہ جمع کی جاتی ہے وہ مراد نہیں ہے) تاکہ وہ قاسم لوگوں کے لیے مفت تقسیم کرے اور اگر قاضی نے ایسا قاسم مقرر کیا جس کو بیت المال سے تخواہ نہیں دی جائے گی۔ بلکہ وہ اپنی اجرت لوگوں سے لے گا تو یہ بھی صحیح ہے لیکن اولیٰ یہ ہے کہ قاسم ایسا مقرر کیا جائے جس کی تخواہ بیت المال سے دی جائے۔

ہو علی عدد الرؤس یعنی اگر ایسا قاسم مقرر کر دیا جس کی اجرت لوگوں کے ذمے ہے تو وہ اپنی اجرت شرکاء کی تعداد کے اعتبار سے لے گا خواہ کسی کا حصہ کم ہو یا زائد ہو وہ اپنی اجرت تمام شرکاء پر برابر بانٹ دے گا یہ امام ابوحنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے جب کہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی اجرت شرکاء کے حصوں کے لحاظ سے لے گا جس کا حصہ زائد ہو گا اس پر زائد اجرت اور جس کا

حصہ کم ہوگا اس سے کم اجرت لے گا۔
صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:

لانہ مونہ سے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل فرمائی ہے کہ اجرت کا وجوب ملک کی مشقت کی وجہ سے ہے لہذا اجرت بھی ملک کے بعد رازم ہوگی جس کی ملک زیادہ ہے اس پر زیادہ اجرت لازم ہوگی اور جس کی ملک کم ہے اس پر کم اجرت لازم ہوگی۔
[البنا یہ: ۱۳۵/۱۲]

امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:

لہ ان الاجر سے شارح رحمہما اللہ تعالیٰ نے امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل نقل فرمائی ہے کہ قاسم کو جو اجرت ملے گی وہ اس کے فعل حصوں کو جدا کرنے کے مقابل ہے جب یہ اجرت جدا کرنے کے مقابل ہے تو جدا کرنا ایسا فعل ہے جو حصے کے کم اور زیادہ سے مختلف نہیں ہوتا بلکہ کئی مرتبہ حصے کو جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور کئی زیادہ حصے کو جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب معاملہ ایسا ہے تو حصے کے کم اور زیادہ ہونے کا اعتبار نہ کیا جائے گا بلکہ صرف جدا کرنا جو کہ اس کا فعل ہے اجرت کے وجوب میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔
[البنا یہ: ۱۳۵/۱۲]

و یجب کونہ عدلا یعنی قاسم ایسا ہو جو عادل بھی ہو اور تقاضی ایک قاسم مقرر رہنے کے بلکہ کئی قاسم مقرر کرے کیونکہ ایک قاسم مقرر کرنے کی صورت میں لوگوں کا اس پر تجویم زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کی اجرت بڑھ جائے گی چنانچہ اس سے حرج ہوگا اور قاضی قاسموں کو شریک ہونے سے روکے گا ان کے شریک ہونے کی صورت یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی تقسیم کرے گا تو اس کی اجرت ان کے مابین مشترک ہوگی تو اس طرح شریک نہیں ہونے والے گا کیونکہ اس صورت میں اجرت بڑھ جائے گی۔

فائدہ:

و یجب کونہ عدلا بیہاں وجوب سے اولویت مراد ہے یعنی قاسم کا عادل ہونا اولیٰ ہے لہذا اگر عادل نہ ہو تو بھی قاسم مقرر کرنا صحیح ہے۔
[شامی: ۲۵۶/۵]

عبارت:

و صحت برضاء الشركاء الا عند صغر احدهم اذْحَلَ لا بد من امر القاضي. و قسم نقلی يدعون ارثه بينهم و عقار يدعون شراءه او ملکه مطلقاً فان ادعوا ارثه عن زيد لا حتى يبرهنوا على موته و عدد ورثته عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى حضر جماعة عند القاضي و طلبوا قسمة ما في ايديهم فان كان نقلياً فان ادعوا شراءه او ملکه مطلقاً قسم لكن هذا غير مذكور في المتن فان ادعوا ارثه عن زيد قسم ايضاً و ان كان عقاراً فان ادعوا شراءه او ملکه مطلقاً قسم ايضاًاما اذا ادعوا ارثه عن زيد لا يقسم عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى حتى يبرهنوها على الموت و عدد الورثة و عندهما يقسم كما في الصور الاخر له ان ملک المورث باق بعد موته فالقسمة قضا على الميت فلا بد من البينة بخلاف صورة الشراء لأن الملك بعد الشراء غير باق للبائع و بخلاف غير العقار اذا ادعوا ارثه لا القسمة تفيد زيادة الحفظ و العقاد محصن بنفسه فلا احتياط الى القسمة فالمسئلة التي لم

تذکر فی المتن بفهم حکمها من قسمة النقلی المورث و کذا من قسمة العقار المشتری بالطريق الاولی فهذا لم یذكر و لا ان برہنا انه معهمما حتی برهن انه لھما الضمیر فی انه یرجع الی العقار فقیل هذا قول ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ و الاصح انه قول الكل لانھما اذا برہنا انه معهمما کان القسمة قسمة الحفظ و العقار غیر محتاج الی ذلك فلا بد من اقامۃ البینۃ علی الملک.

ترجمہ:

اور تقسیم شرکاء کی رضامندی کے ساتھ صحیح ہے مگر ان میں سے ایک شرکیک کے چھوٹے ہونے کی صورت میں تب قاضی کا حکم ضروری ہے اور اس منقولی شی کو تقسیم کیا جائے گا جس کے آپس میں وارث بننے کا یہ دعویٰ کر رہے ہوں یا جائیداد جس کے خریدنے کا یا مطلقاً مالک بننے کا دعویٰ کر رہے ہوں۔ چنان چہ اگر شرکاء نے زید سے وارث بننے کا دعویٰ کیا تو تقسیم نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ زید کی موت پر اور زید کے ورش کی تعداد پر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گواہی قائم نہ کر دیں ایک جماعت قاضی کے پاس حاضر ہوئی اور انہوں نے اپنے قبضے میں موجود شی کی تقسیم کو طلب کیا۔ لہذا اگر وہ منقولی شی ہو پھر وہ اس کے خریدنے یا مطلقاً مالک بننے کا دعویٰ کر رہے ہوں تو اس شی کو تقسیم کیا جائے گا لیکن یہ بات متن میں مذکور نہیں ہے اور اگر وہ اس منقولی شی کے وارث بننے کا دعویٰ کر دیں تو بھی اس کو تقسیم کیا جائے گا اور اگر وہ شی جائیداد ہو پھر وہ اس کے خریدنے یا مطلقاً مالک بننے کا دعویٰ کر دیں تو بھی اس کو تقسیم کیا جائے گا بہر حال جب وہ اس کے زید سے وارث بننے کا دعویٰ کر دیں تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقسیم نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ زید کی موت پر اور ورش کی تعداد پر گواہی قائم کر دیں اور صاحبین ربہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا جیسا کہ دوسری صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ مورث کی ملک اس کی موت کے بعد باقی ہے، پس تقسیم کرنا میست پر فیصلہ کرنا ہے۔ لہذا گواہی ضروری ہے برخلاف خریدنے کی صورت کے ہے اس لیے کہ خریدنے کے بعد باقی کی ملک باقی نہیں رہتی اور برخلاف جائیداد کے علاوہ اشیاء کے ہے جب کہ وہ اس کے وارث بننے کا دعویٰ کر دیں اس لیے کہ تقسیم حفاظت کے زیادہ ہونے کا فائدہ دیتی ہے اور جائیداد بذات خود محفوظ ہے، چنان چہ تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مسئلہ جس کو متن میں ذکر نہیں گیا اس کا حکم منقولی مورثہ شی کے حکم سے سمجھا گیا ہے اور اسی طرح خریدی ہوئی، جائیداد کا حکم بدرجہ اولیٰ سمجھا گیا ہے اسی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا گیا اور جائیداد کو تقسیم نہیں کی جائے گی اگر انہوں نے اس بات پر گواہی قائم کی کہ وہ ان کے پاس ہے یہاں تک کہ وہ اس بات پر گواہی قائم کر دیں کہ وہ جائیداد ان کی ہے ”یرجع“ میں ضمیر ”العقار“ کی طرف راجح ہے چنان چہ کہا گیا ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور اصح یہ ہے کہ تمام ائمہ کا قول ہے اس لیے کہ ان دونوں نے جب اس بات پر گواہی قائم کر دی کہ جائیداد ان کے پاس ہے تو حفاظت کرنے کے لیے تقسیم کرنا ہوگا اور جائیداد اس کی محتاج نہیں ہے چنان چہ ملک پر گواہی قائم کرنا ضروری ہے۔

訳文:

قسم نقلی شارح ر .الله تعالیٰ نے اس عبارت کے تحت چار صورتوں کو ذکر کیا ہے یعنی ایک جماعت قاضی کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے قبضے میں موجود شی کی تقسیم کو طلب کیا تو اب دیکھا جائے گا کہ شی منقولی ہے یا غیر منقولی ہے۔

پہلی صورت:

اگر منقولی شی ہو اور تمام شرکاء اس کے خریدنے کا دعویٰ کر دیں یا کسی سبب کو بیان کیے بغیر اس کی ملکیت کا دعویٰ کر دیں تو اب قاضی اس کو

تقطیم کر دے گا لیکن یہ صورت متن میں مذکور نہیں ہے۔ (اس بات کی وضاحت آخر میں کی جائے گی، ان شاء اللہ) دوسری صورت:

اگر ان کے قبضے میں منقولی شئی ہوا اور تمام شرکاء اس کے وارث بننے کا دعویٰ کر رہے ہوں تو بھی اس کو تقطیم کر دیا جائے گا۔

تیسرا صورت:

اگر وہ شئی جائیداد ہوا اور شرکاء اس کے خریدنے کا یابا سبب ذکر کیے ملکیت کا دعویٰ کریں تو یہ جائیداد ان کے مابین تقطیم کر دی جائے گی۔

چوتھی صورت:

اگر وہ شئی جائیداد ہوا اور شرکاء اس کے وارث بننے کا دعویٰ کریں کہ زید ہمارا ولد تھا اس کے ترکے میں یہ جائیداد تمیں بطور وارثت ملی ہے تو اب اس صورت میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قاضی اس وقت تک تقطیم نہ کرے گا جب تک تمام شرکاء زید کے انتقال پر اور ورشی کی تعداد پر گواہی قائم نہ کر دیں اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح پہلی صورتوں میں ان کے اقرار سے شئی تقطیم کی گئی تھی اسی طرح اس صورت میں بھی ان کے اقرار سے ہی جائیداد تقطیم کر دی جائے گی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

لہ ان ملک امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ قاضی کا جائیداد تقطیم کرنا میت پر فیصلہ نافذ کرنا ہے اور میت پر فیصلہ نافذ کرنے کے لیے صرف شرکاء کا اقرار کرنا اس پر جھٹ نہیں ہے کیونکہ اقرار جھٹ قاصر ہے۔ لہذا میت پر فیصلہ کرنے کے لیے گواہی ضروری ہے کیونکہ وہ جھٹ تامد ہے۔

صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:

صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ شرکاء کے پاس دو اشیاء ہیں جائیداد پر قبضہ اور اس کا اقرار۔ لہذا قبضہ مالک ہونے کی دلیل ہے اور اقرار کرنا بچ ہونے کی دلیل ہے اور ان میں سے کوئی ممکن نہیں ہے اور گواہی ممکن کے خلاف پیش کی جاتی ہے لہذا گواہی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اقرار کرنا کافی ہے۔ جیسا کہ موروثہ منقولی شئی میں گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی اور خریدی ہوئی جائیداد میں ضرورت نہیں ہے۔

[بحralاٰق: ۲۷۰/۸]

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب:

کیونکہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو مذکورہ صورتوں (موروثہ منقولی شئی اور خریدی ہوئی جائیداد) پر قیاس ہے اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ بخلاف الشراء یعنی خریدی ہوئی جائیداد والی صورت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ خریدنے کے بعد بالع کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے جب کہ اس صورت میں میت کی ملک باقی ہے۔ و بخلاف غیر العقار یعنی منقولی موروثہ شئی پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ منقولی شئی کو تقطیم کرنے سے غرض اس کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور جائیداد بذات خود محفوظ ہے، چنانچہ جائیداد کو منقولی شئی پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

فالمسئلة التي مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبارت میں تین صورتیں بیان کی ہیں ایک صورت منقولی شئی کی ذکر کی ہے اور دو صورتیں غیر منقولی شئی کی ذکر کی ہیں۔ منقولی شئی میں صرف وراثت کی صورت ذکر کی ہے جو کہ جائز ہے اور جائیداد میں وراثت اور شراء دونوں صورتیں ذکر کیں ہیں اور اس میں وراثت کی صورت ناجائز ہے اور شراء والی صورت جائز ہے اور شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے تین

صورتیں یہ بھی ذکر ہیں اور چوتھی صورت (منقولی شی کو خریدا کیا گیا ہو) بھی ذکر کی ہے چنانچہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ چوتھی صورت کا حکم متن میں مذکور منقولی شی کے حکم سے سمجھ آیا ہے کہ جب منقولی شی جس کا وارث بنا گیا اس میں تقسیم صحیح ہے تو وہ منقولی شی جس کو خریدا گیا ہواں میں بھی تقسیم صحیح ہوگی اور اسی طرح چوتھی صورت کا حکم متن میں مذکور جائیداد کی صورت سے سمجھ آیا ہے کہ جب جائیداد کو خریدا گیا تو اس میں تقسیم صحیح ہے۔ لہذا منقولی شی جس کو خریدا گیا ہواں میں بدرجہ اوپری تقسیم صحیح ہوگی۔ کیونکہ جائیداد حکم میں منقولی شی سے ادنی ہے اس لیے کہ جائیداد میں ایک صورت میں تقسیم صحیح ہے اور ایک میں صحیح نہیں ہے تو منقولی شی میں بدرجہ اوپری تقسیم صحیح ہوگی۔

ولا ان برهنا..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر دو شخصوں نے اس بات پر گواہی قائم کی کہ جائیداد ان کے قبضے میں ہے تو اب قاضی ان کے درمیان جائیداد تقسیم نہیں کرے گا یہاں تک وہ دونوں اس بات پر گواہی قائم کر دیں کہ یہ جائیداد ان کی اپنی ملکیت ہے اس لیے کیوں کہ جب ان دونوں نے اس بات پر گواہی قائم کی کہ یہ جائیداد ان کے پاس ہے تو صرف اس گواہی اکتفاء کرتے ہوئے قاضی تقسیم نہیں کرے گا اس لیے کہ اس وقت تقسیم کرنے کا مقصد اپنے مقصودہ حصے کو محظوظ کرنا ہوگا اور جائیداد بذات خود محظوظ ہے لہذا اس تو تقسیم کے ذریعے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ ملک پر گواہی قائم کرنا ضروری ہے۔

بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ صرف قبضے پر گواہی ہونے کی صورت میں تقسیم نہ کرنا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ تمام ائمۃ ثلاثہ (امام صاحب، امام ابو یوسف اور امام محمد حبیم اللہ تعالیٰ) کا قول ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ تمام کا قول ہے۔

مذکورہ مسئلے کے بارے میں ایک مفید بحث ذکر کی گئی ہے کہ یہ مسئلہ ماقبل مذکور ہونے والے مسئلے سے الگ ہے یا بعینہ وہی مسئلہ مکرر ہو گیا ہے۔ انا ترکتها مخافۃ التطویل ان شت التفصیل فارجع الی هذه الکتب۔ [شامی: ۲۵۸، تکملہ فتح القدری: ۳۵۲/۸]

عبارت:

ولو برهنا على الموت و عدد الورثة و هو معهما و منهم طفل او غائب قسم و نصب من يقبض لهما اي ان حضرو ارثان و برهنا على الموت و عدد الورثة و العقار معهما و من الورثة طفل او غائب قسمه و نصب من يقبض للطفل او الغائب و عبارة الهدایة و الدار في ايديهم فقيل هذا سهو و الصواب في ايديهما حتى لو كان في ايديهم لكان البعض في يد الطفل او الغائب و سيأتي انه كان كذلك لا يقسم فان برهن واحد و شروا و غاب احدهم او كان مع الوارث الطفل او الغائب اي شيئا منه لا اي ان حضرو احد و اقام البينة لا يقسم اذ لا بد من اثنين لان الواحد لا يصلح مقاسما و مقاسما و مخاصصا و مخصوصا لو كان مقام الارث شراء و غاب احدهم لا يقسم لان في الارث يتتصبب احد الورثة خصما عن الباقيين و ان كان في صورة الارث العقار او شيئا منه في يد الغائب او الطفل لا يقسم ايضا لان القسمة قضاء على الغائب او الطفل ومن غير خصم حاضر عنهم

ترجمہ:

اور اگر دو شخصوں نے موت پر اور ورثہ کی تعداد پر گواہی قائم کر دی دراں حالکہ جائیداد ان دونوں کے قبضے میں ہے اور ورثہ میں کوئی بچہ ہے یا غائب ہے تو قاضی جائیداد تقسیم کر دے اور قاضی ایک ایسا شخص مقرر کر دے جو ان دونوں کی طرف سے قبضہ کر لے یعنی اگر دو وارث حاضر ہوئے اور انہوں نے مورث کی موت پر اور ورثہ کی تعداد پر گواہی قائم کر دی دراں حالکہ جائیداد ان کے قبضے میں ہے اور ورثہ میں سے کوئی بچہ ہے یا غائب ہے تو قاضی جائیداد تقسیم کر دے اور اس شخص کو مقرر کر دے جو نبچے یا غائب کی طرف سے قبضہ کر لے اور ”حدایۃ“ کی عبارت

”والدار في ايديهم“ ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ یہ سہو ہوا ہے اور درست عبارت ”فی ایديهم“ ہے لہذا اگر جائیداد تمام کے قبضے میں ہوتی تو بعض حصہ بچ کے یا غائب کے قبضے میں ہو گا اور عنقریب یہ بات آنے والی ہے کہ اگر اس طرح ہو تو جائیداد تقسیم نہ کی جائے گی۔ اور اگر ایک شخص نے گواہی قائم کی یا کئی شخصوں نے جائیداد خریدی اور ان میں سے ایک شخص غائب تھا یا جائیداد کا قبضہ وارث بچے یا غائب کے یا اس ہو یا کچھ قبضہ ان کے پاس ہو تو تقسیم نہیں کی جائے یعنی اگر ایک شخص حاضر ہو اور اس نے گواہی قائم کی تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا اس لیے کہ دو کاہونا ضروری ہے کیونکہ ایک شخص مقام اور مقام اور خاصم اور خاصم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر وارث کے بجائے خریدنا ہو اور مشتریوں میں سے کوئی ایک غائب ہو تو قاضی تقسیم نہ کرے گا اس لیے کہ وراثت میں ورشہ میں سے ایک شخص باقی کی طرف سے خصم بنتا ہے اور اگر وراثت کی صورت میں پوری جائیداد یا کچھ حصہ غائب یا بچے کے قبضے میں ہو تو بھی قاضی تقسیم نہیں کرے گا اس لیے کہ تقسیم کرنا غائب یا بچے کے خلاف ان دونوں کی طرف سے خصم کی عدم موجودگی میں فیصلہ کرنا ہو گا۔

تشریح:

ولوبرہنا..... یعنی اگر قاضی کے پاس دو شخص حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم فلاں ز میں کے وارث ہیں اور انہوں نے مورث کے انتقال پر اور ورشہ کی تعداد پر گواہی قائم کر دی جب کہ ز میں انہی کے قبضے میں ہے اور ورشہ میں ایک وارث بچہ (نابالغ) ہے یا غائب ہے تو اب قاضی اس گواہی پر فیصلہ کرتے ہوئے ز میں کو تقسیم کر دے گا اور ان دونوں شخصوں کو ان کا حصہ دے دے گا اور غائب یا بچے کی طرف سے ایک شخص اپنی طرف سے مقرر کرے گا جو بچے یا غائب کی طرف سے ان کے حصے پر قبضہ کر لے گا جو بچے کے بالغ ہونے کے بعد یا غائب کے حاضر ہونے کے بعد ان کو دے دے گا یہ صورت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک ہے کیونکہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے زدیک مورث کی موت اور ورشہ کی تعداد پر گواہی قائم کرنا ضروری نہیں ہے۔

ہدایت کی عبارت پر اشکال:

و عبارۃ الہدایۃ یہاں سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ہدایۃ کی عبارت پر اشکال نقل کر رہے ہیں کہ متن میں مذکور ہوا ہے ”و هو معهما“ جب کہ ”ہدایۃ“ میں ”والدار في ايديهم“ کی عبارت ہے اس عبارت پر اشکال یہ ہے کہ گواہی قائم کرنے والے شخص دو ہیں اور ”ایدیهم“ میں ضمیر تثنیہ کی ہوئی چاہیے جمع کی نہ ہو اس کے تین جوابات دیئے گئے ہیں۔

پہلا جواب:

فقیل هذا سهو یہ جواب شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ ”ایدیهم“ کی عبارت میں سہو ہوا ہے اور صحیح عبارت ”ایدیہما“ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر جائیداد تمام کے قبضے میں ہو گی تو جائیداد کا کچھ حصہ بچے یا غائب کے قبضے میں بھی ہو گا اور بچے یا غائب کے قبضے جب کچھ حصہ ہو تو قاضی تقسیم نہ کرے گا اور عنقریب یہ مسئلہ بیان ہو گا ان شاء اللہ لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو پسند نہیں فرمایا اس وجہ سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ”قیل“ کے صینے سے نقل کیا ہے۔

دوسرے جواب:

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”ایدیہم“ کی عبارت صحیح ہے اس لیے کہ تثنیہ میں جمع کے معنی پائے جاتے ہیں تو معنی کی رعایت کرنے ہوئے اس کی طرف جمع کی ضمیر راجع کی گئی ہے۔
[البناۃ: ۱۲۰/۱۲]

تیسرا جواب:

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ اقل جمع دو ہیں اسی وجہ سے حدایہ میں ایدیہم کی عبارت لکھی گئی ہے۔ [شامی: ۲/ ۲۵۸]

فان برهن واحد اس عبارت میں مصف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تین صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ای ان حضر سے بیان کی ہے کہ اگر ورش میں سے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے مورث کی موت پر اور ورش کی تعداد پر گواہی قائم کر دی اور جائیداد ہمیں اس کے قبضے میں ہے تو قاضی جائیداد تقسیم نہیں کرے گا اس لیے کہ ائمہ ثلاثة (امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ) کے نزدیک دووارثوں کا ہونا ضروری ہے۔

بہر حال امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چوں کہ مورث کی موت اور ورش کی تعداد پر گواہی قائم کرنا ضروری ہے اور گواہی خصم پر قائم کی جاتی ہے لہذا ایک شخص مخاصم اور خاصم نہیں بن سکتا۔ چنان چہ قاضی جائیداد تقسیم نہ کرے گا اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک چوں کہ گواہی قائم کرنا ضروری نہیں ہے اور گواہی کے بغیر قاضی تقسیم کر دے گا تو ایک شخص ہونے کی صورت میں اس کا مقاسم اور مقاسم ہونا لازم آئے گا اور ایک شخص مقاسم نہیں بن سکتا لہذا دو شخصوں کا ہونا ضروری ہے۔ [البنایہ: ۱۲۳/ ۱۲]

ولو کان مقام الارث سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر تین شخصوں نے کوئی زمین خریدی اور ان میں سے ایک شخص سفر پر چلا گیا اور بقیہ دو شخص قاضی کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے قاضی سے تقسیم کا مطالبہ کیا تو قاضی ان کے دعوے کی وجہ سے تقسیم نہ کرے گا اس لیے کہ شراء کی صورت میں مشتریوں میں سے ایک شخص بقیہ کی طرف سے خصم نہیں بن سکتا جب کہ وراثت کی صورت میں ورثہ میں سے ایک شخص باقی کی طرف سے خصم بن سکتا ہے۔ [ان شئت و ضاحہ الفرق بینهما فارجع الى هذه الكتب انما ترکتها مخافة التطويل۔] [شامی: ۶/ ۲۵۹، ۱۲۱/ ۱۲۱ او غيرهما]

وان کان صورة سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ تیسرا صورت بیان کر رہے ہیں کہ دو شخص قاضی کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے مورث کی موت پر اور ورش کی تعداد پر گواہی قائم کی اور ورش میں سے ایک شخص غائب یا بچہ تھا اور پوری جائیداد یا اس کا کچھ حصہ اس کے قبضے میں تھا تو اب قاضی جائیداد کو تقسیم نہیں کرے گا اس لیے کہ تقسیم کرنے کی صورت میں بچے یا غائب کے خلاف فیصلہ کرنا لازم آئے گا اور بچے اور غائب کے خلاف فیصلہ کرنا اس وقت صحیح ہوتا ہے جب کہ ان کی طرف سے کوئی خصم مقرر کیا گیا ہو اور اس صورت میں ان کی طرف سے کوئی خصم مقرر نہیں کیا گیا لہذا تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ [اس مسئلے کی دلیل پر صاحب نتائج الافق اور رحمہ اللہ تعالیٰ نے مہترین کلام کیا ہے جس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے ان شئت فارجع اليه۔]

عبارت:

و قسم بطلب احدهم اى احد الشرکاء ان انتفع كل بحصته و بطلب ذى الكثير فقط ان لم ينتفع الآخر لقلة حصته اى لا يقسم بطلب ذى القليل لانه لا فائدة له فهو متعنت في طلب القسمة و قيل على العكس لان صاحب الكثير يطلب ضرر صاحبه و صاحب القليل يرضى بضرره و قيل يقسم بطلب كل واحد. و لا يقسم الا بطلبهم ان تضرر كل للقلة. و قسم عرض اتحد جنسها لا الجنسان و الرقيق و الجواهر و الحمام و البير و الرخى الا برضائهم و قالا يقسم الرقيق و الجنون بطلب البعض كما يقسم الابل وسائر العروض له ان التفاوت فاحش فى الادمى فصار كالاجناس المختلفة و فى الجواهر قد قيل اذا اختلف الجنس لا يقسم.

ترجمہ:

اور شرکاء میں سے کسی ایک کے طلب کرنے سے تقسیم کی جائے گی اگر دوسرا اپنے حصے کے کم ہونے کی وجہ سے نفع حاصل نہ کر سکتا ہو یعنی قلیل حصے والے کے طلب کرنے سے تقسیم نہ کی جائے گی اس لیے کہ صاحب قلیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے چنانچہ وہ تقسیم طلب کرنے میں ضدی ہے اور اس کے برعکس کہا گیا ہے اس لیے کہ صاحب کثیر اپنے ساتھی کے ضرر کو طلب کر رہا ہے اور صاحب قلیل اپنے ضرر پر راضی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہر ایک کے طلب کرنے سے تقسیم کی جائے گی اور تمام شرکاء کے طلب کرنے ہی سے تقسیم کی جائے گی اگر ہر شریک کو حصہ کم ہونے کی وجہ سے ضرر ہوتا ہو اور اگر سامان کی جنس ایک ہو تو اس کو تقسیم کیا جائے گا نہ کہ مختلف جنس ہونے کی صورت میں اور غلام اور جواہر اور عُسل خانہ اور کنوں اور بچکی تمام شرکاء کی رضامندی ہی سے یہ تقسیم کی جائیں گی اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غلام اور جواہر کو بعض شرکاء کے طلب کرنے سے تقسیم کیا جاسکتا ہے جیسا کہ اونٹ اور تمام سامان تقسیم کیا جاتا ہے اور امام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ آدمی میں تفاوت فاحش ہے چنانچہ وہ مختلف اجناس کی طرح ہے اور جواہر میں کہا گیا ہے کہ جب جنس مختلف ہو تو ان کو تقسیم نہ کیا جائے گا۔

ترشیح:

قسم بطلب دوسرے حضرات مصنفین نے ان مسائل کو ایک فصل کے تحت ذکر کیا ہے اور یوں فرمایا "فصل فی حمايۃ قسم و فيما لا یقسم" البت مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ نے الگ فصل میں بیان نہیں کیا۔

قسم بطلب مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک زمین کا حصہ کچھ شرکاء کے درمیان مشترک ہے تو اس کے تقسیم ہونے یا نہ ہونے کی تین صورتیں ہیں۔ اگر اس حصے کو تقسیم کیے جانے کے بعد ہر ساتھی اپنے حصے سے نفع حاصل کر سکتا ہے تو اسے ایک شریک کے حاضر ہونے اور تقسیم کو طلب کرنے سے قاضی زمین کو تقسیم کر دے گا۔

و یطلب ذی الکثیر یہاں سے دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک ساتھی کا حصہ زیادہ ہے اور دوسرے کا حصہ کم ہے تو اب قاضی کس ساتھی کے طلب کرنے سے تقسیم کرے گا اس میں تین قول ہیں۔

علامہ خصاف رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر صاحب کثیر کو تقسیم کو طلب کرے گا تو قاضی تقسیم کا مطالبہ کرے تو قاضی تقسیم نہ کرے اس لیے کہ صاحب کثیر اپنے حصے سے نفع حاصل کر سکتا ہے چنانچہ اس کے طلب کرنے کا اعتبار ہے کہ وہ اپنا حق ثابت طلب کر رہا ہے اور صاحب قلیل چوں کہ اپنے حصے سے نفع حاصل نہیں کر سکتا چنانچہ وہ تقسیم کا مطالبہ کرنے میں ضدی ہے۔ لہذا اس کی طلب کا اعتبار نہیں ہے۔

[البناية: ۱۳۴/۱۴۳] علامہ جمال رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قاضی صاحب قلیل کے طلب کرنے سے تقسیم کرے گا اور صاحب کثیر کے طلب کرنے سے تقسیم نہ کرے گا اس لیے کہ صاحب کثیر اپنے ساتھی کو نقصان دینا چاہتا ہے اور صاحب قلیل اپنے نقصان پر خود راضی ہے اس کو شارع رحمہما اللہ تعالیٰ نے قیل علی العکس سے بیان کیا ہے۔

[و في هذا القول تفصیل مذکور في البناية: ۱۳۵/۱۴۳] امام حامک شہید رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صاحب کثیر اور صاحب قلیل میں سے کوئی بھی تقسیم کو طلب کرے تو قاضی تقسیم کرے گا بہر حال صاحب کثیر تو چونکہ اپنے حصے سے نفع حاصل کر سکتا ہے اس لیے اس کی طلب کا اعتبار ہے اور صاحب قلیل چونکہ اپنے نقصان پر خود راضی ہے اس لیے اس کی طلب کی اعتبار ہے۔

[البناية: ۱۴۲/۱۳۶]

راجح قول:

مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے علامہ خصاف رحمہم اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے اسی وجہ سے مصنف رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کو متن میں ذکر کیا ہے۔

[شامی ۲۶۰/۶، البنا ۱۳۷/۱۲، بحر الرائق ۲۲۶/۸] و لا يقسم الا بعلبهم بہاں سے تیری صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر زمین تقسیم کیے جانے کے بعد کسی شریک کو اپنے حصے کے کم ہونے کی وجہ سے نفع نہ ہو تو اب تمام شرکاء کے مطالبہ کرنے کے ساتھ تقسیم کی جائے گی لیکن جب تمام شرکاء راضی ہو جائیں تو قاضی ان کے درمیان تقسیم نہ کرے گا بلکہ یہ خود تقسیم کریں گے جیسا کہ امام زیلعی رحمہم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔

[شامی ۲۶۰/۶] و قسم عروض اگر کچھ سامان جس کی جنس ایک ہو اور کچھ لوگوں میں مشترک ہو تو قاضی اس کو جبراً تقسیم کر سکتا ہے البتہ اگر سامان کی جنس ایک نہ ہو بلکہ مختلف اجناس کا سامان ہو تو پھر قاضی جبراً تقسیم نہیں کر سکتا۔

والرقيق والجواهر یعنی دو شخصوں کے درمیان چند غلام اور باندیاں مشترک ہوں تو امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شرکاء کے طلب کرنے سے قاضی تقسیم کرے گا اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شرکاء کا مطالبہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ قاضی بعض کے طلب کرنے سے تقسیم کر دے گا اسی طرح جواہر امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شرکاء کے طلب کرنے سے تقسیم کیے جائیں گے اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض کے طلب کرنے سے تقسیم کیے جائیں گے۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان کو اوتھوں اور بقیہ سامان پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح ان کو بعض شرکاء کے طلب کرنے سے تقسیم کرنا صحیح ہے اسی طرح غلام اور جواہر بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ غلاموں میں چونکہ تفاوت فخش ہوتا ہے چنانچہ یہ مختلف اجناس کی طرح ہیں جس طرح مختلف اجناس میں تمام شرکاء کی رضا مندی ضروری ہے اسی طرح ان میں بھی تمام شرکاء کی رضا مندی ضروری ہے۔

فائدة:

غلاموں کی صورت میں اختلاف اس وقت ہے جب غلام تھا ہوں اور ان کے ساتھ دوسرا سامان نہ ہو وہ فقط مذکر یا مونث ہو چنانچہ اگر غلاموں کے ساتھ دوسرا سامان بھی ہو تو غلاموں میں تبعاً تقسیم صحیح ہو جائے گی اور اسی طرح اگر مذکور اور مونث دونوں قسم کے ہوں تو بھی بالاتفاق تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔

[بحر الرائق ۲۷۵/۸]

والحمام والبئر یعنی اگر دو شخصوں کے درمیان غسل خانہ یا کنوں یا پچکی مشترک ہو تو دونوں کی رضا مندی سے ہی تقسیم صحیح ہو گی عرف ایک کے طلب کرنے سے تقسیم صحیح نہ ہو گی یہ بھی اس وقت ہے جب غسل خانہ یا کنوں یا پچکی تقسیم ہونے کے بعد ہر ساتھی کے لیے قابل اتفاق نہ رہے گی لہذا اگر یہ اشیاء تقسیم ہونے کے بعد ہر ایک کے لیے قبل اتفاق رہیں تو پھر تقسیم کرنے کے لیے دونوں کی رضا مندی ضروری نہیں ہے بلکہ ایک شریک کے طلب کرنے سے قاضی تقسیم کر دے گا۔

عبارت:

و دور مشترکہ او دار و ضیعة او دار و حانوت قسم کل وحدہ ای اذا كانت الدور قريبة بان كانت كلها في صر واحد قسم کل وحدہ عند ابی حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ و قالا يقسم بعضها في بعض و ان كانت الدور بعيدة ای فی مصرین فقولهما کقول ابی حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ و يصور القاسم ما يقسم و بعد اه و يذرعه و قوم البناء و يفرز کل قسم بطريقه و شربه و يلقب السهام بالاول و الثاني و الثالث و يكتب اسماؤهم و يقرع

والاول لمن خرج اسمه اولاً والثانى لمن خرج ثانياً. اي يصور الدار المقسومة على قرطاس ليعرف الى القاضى ويعدلها اي يسويها على سهام القسمة ويدرعها ويصور الدرعان على ذلك القرطاس بقلم الجدول فيكون كل ذراع فى ذراع بشكل لبنة و يقدر البيوت والصفة وغيرهما بتلك الدرعان ويقوم البناء ويبدأ القسمة من اي طرف شاء فان جعل الجانب الغربى اولاً يجعل ما يليه ثانياً ثم ما يليه ثالثاً وهكذا ويكتب اسماء اصحاب السهام اما على القرعة او غيرها فمن خرج اسمه اولاً يعطى نصيبيه من الجانب الغربى جملة من العرصه والبناء الى ان يتم نصيبيه ثم من خرج اولاً يعطى نصيبيه من الجانب الغربى جملة من العرصه والبناء الى ان يتم نصيبيه ثم خرج اسمه ثانياً يعطى نصيبيه متصلة بالاول وهكذا الى ان يتم سواء كان الانصباء متساوية او متفاوتة. ولا يدخل الدراهم فى القسمة الا برضاهם اي لا يدخل فى قسمة العقار الدراهم الا بالتراسى حتى اذا كان ارض وبناء قسم بطريق القيمة عند ابى يوسف رحمة الله تعالى و عن ابى حنيفة رحمة الله تعالى انه يقسم الارض بالمساحة فالذى وقع البناء فى نصيبيه يرد على الآخر دراهم حتى يساويه فيدخل الدراهم ضرورة و عن محمد رحمة الله تعالى انه يرد على شريكه من العرصه فى مقابلة البناء فإذا بقى فضل ولا يمكن التسوية فح يرد للفضل دراهم لأن الضرورة فى هذا القدر.

ترجمة:

اور مشترک گھروں کو یا ایک گھر اور زین کے حصے کو یا ایک گھر اور دکان کو الگ تقسیم کیا جائے گا یعنی جب چند گھر قریب ہوں اس طوز پر کسارے ایک شہر میں ہوں تو ہر ایک کو مستقل تقسیم کیا جائے گا یا امام صاحب رحمة اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض گھروں کو بعض کے بدلتے تقسیم کیا جائے گا اور اگر گھر دور دور ہوں یعنی دو شہروں میں ہوں تو صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول امام ابو حنیفہ رحمة اللہ تعالیٰ کے قول کی طرح ہے اور قاسم جس کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اس کی صورت بنائے گا اور اس کو برابر کرے گا اور ناپے گا اور عمرات کی قیمت لگائے گا اور ہر حصے کو اس کے راستے اور پانی کی باری کے ساتھ الگ کرے گا اور حصوں کے اول اور ثانی اور ثالث کے ساتھ لقب رکھے گا اور ان کے نام لکھے گا اور قریب الاجائے گا اور اول حصہ اس شخص کا ہو گا جس کا پہلے نام نکلے اور ثانی حصہ اس کا ہو گا جس کا دوسرا مرتبہ نام نکلے یعنی قاسم دار مقسومہ کی کاغذ پر صورت بنائے گا تاکہ قاضی کے پاس لے جاسکے اور اس کو تقسیم کے حصوں پر برابر کرے گا اور اس کو ناپے گا اور جدولی پیمانے سے اس کا غذ پر زراعوں کی صورت بنائے گا چنانچہ ہر ذراع دوسرے ذراع کے مقابل اینٹ کی شکل کا ہو گا اور کمروں اور صفحہ (چیخ) اور ان کے علاوہ حصوں کو ان ذراعوں سے ناپے گا اور عمرات کی قیمت لگائے گا اور جس طرف سے چاہے تقسیم کی ابتداء کرے چنانچہ اگر مغربی جانب کو اولاً شروع کرے تو ثانیاً اس سے ماحقة حصے کو شروع کرے پھر ثالثاً اس سے ماحقة حصے کو شروع کرے اور اسی طرح کرتا رہے اور حصوں والوں کے نام قریب پر کیا کسی دوسرے کاغذ پر لکھ لے۔ لہذا جس کو نام اول نکلے اس کو مغربی جانب سے اس کا حصہ جو زین میں اور عمرات پر مشتمل ہے دے دے یہاں تک کہ اس کا حصہ پورا ہو جائے۔ پھر اس شخص کو جس کا نام دوسرا مرتبہ نکلے پہلے سے متصل اس کو حصہ دے دے اور اسی طرح کرتا رہے یہاں تک کہ یہ عمل پورا ہو جائے خواہ حصے برابرا ہوں یا متفاوت ہوں اور تقسیم میں دراهم باہمی رضا مندی سے ہی داخل ہوں گے یعنی جائیداد کی تقسیم میں دراهم باہمی رضا مندی سے ہی داخل ہوں گے۔ لہذا جب زین اور عمرات ہو تو قیمت کے طریقے سے تقسیم کی جائے گی یا امام ابو يوسف رحمة اللہ تعالیٰ کے نزدیک

ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ زمین کو نانپنے کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا پس جس شخص کے حصے میں عمارت آئے وہ دوسرے کو دراہم واپس کرے تاکہ وہ اس کے برابر ہو جائے چنانچہ دراہم ضرورة داخل ہوتے ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو عمارت کے مقابلے میں خالی زمین واپس کرے گا پس جب وہ باقی رہ جائے اور برابر کرنا ممکن نہ ہوتا اس وقت زیادتی کی وجہ سے دراہم واپس کرے اس لیے کہ اس مقدار میں ضرورت ہے۔

تشریح:

ودور مشترکہ یعنی چند گھر یا ایک گھر اور زمین کا ملکہ ایسا ایک گھر اور ایک ڈکان و شخصوں کے درمیان مشترک ہے تو گھروں کی صورت میں اختلاف ہے جب کہ وہ ایک شہر میں ہوں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر گھر دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک مثلاً اگر چار گھر ہیں تو دو گھر ایک شخص کو دے دیے جائیں گے اور دو گھر دوسرے کو دے دئے جائیں گے اور اگر سارے گھر ایک شہر میں نہ ہوں بلکہ دو الگ الگ شہروں میں ہوں تو پھر صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی طرح ہے یعنی ہر گھر کو علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا جائے گا اور یہ اختلاف اس وقت ہے جب صرف گھر ہوں لہذا اگر ایک گھر اور زمین کا ملکہ اہو یا ایک گھر اور ڈکان ہو تو اب بالاتفاق ان کو علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا جائے گا۔

فائدہ:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”دور“ کی قید لگائی ہے چنانچہ ”بیوت“ اور ”منازل“ اس حکم سے خارج ہو گئے۔ [شامی: ۲۶۲/۶] و یصور الفاسم یہ صورت عبارت سے واضح ہے جو شریح کی تھاج نہیں ہے البتہ اس میں دو باتیں قابل شرح ہیں ایک بات متن کی عبارت میں ہے اور ایک شرح میں ہے۔

بہر حال متن میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ”ویقرع“ یعنی حصے بنانے کے بعد قسم قرعہ اے لے گا اب یہ بات جانی چاہیے کہ قرعہ النا واجب نہیں ہے بلکہ محض شرکاء کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کیا جائے گا چنانچہ اگر قاضی نے بذات خود شخصوں کو ان کے درمیان بانٹ دیا تو یہ بھی صحیح ہے۔ [شامی: ۲۶۲/۶]

بہر حال شرح میں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”قلم جدول“ کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ بات جانی چاہیے کہ یہ ایک پیمانے کا نام ہے جو عام طور پر تقشوں کے تحت بنایا گیا ہوتا ہے جو نکہ زمین کی پیمائش میلوں کے لحاظ سے کی جاتی ہے اور میلوں کو گانڈ پر لکھنے کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا جاتا ہے جس کا ایک خط ایک میل کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا اس نقشے پر جتنے خط ہوتے ہیں اتنے میل زمین شمار کی جاتی ہے۔

و لا يدخل الدرام یعنی اگر چند لوگوں کے درمیان زمین اور عمارت مشترک ہے اور وہ اس کو تقسیم کروانا چاہتے ہیں پھر ان میں کسی کے حصے میں زائد حصہ آگیا اب وہ شریک زائد حصے کے بقدر دراہم دینا چاہتا ہے چنانچہ یہ دراہم دینا تقسیم میں تمام شرکاء کی رضامندی سے داخل ہوں گے۔

لہذا اگر شخصوں کے درمیان زمین اور عمارت مشترک ہو اور وہ اس کو تقسیم کروانا چاہیں تو اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چوں کہ عمارت اور زمین میں برابری کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے ابتداء ہی سے دونوں کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے گا۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ زمین کو ناپ کر تقسیم کیا جائے اور اب جس شخص کے حصے میں وہ زمین کا حصہ آجائے جس پر عمارت بنی ہوئی ہے تو وہ شریک دوسرے کو عمارت کی قیمت کے بقدر دراہم واپس کرے تاکہ دونوں کا حصہ برابر ہو جائے لہذا دراہم کو

ضرورت کے وقت داخل کیا گیا ہے۔

اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ہے مروی ہے کہ جب دونوں کے مابین تقسیم ہو گی تو اب جس کے حصے میں عمارت والی زمین آئی ہے وہ اپنی زمین کا اتنا حصہ جو عمارت کے بقدر ہو دوسرے ساتھی کو واپس کرے تاکہ دونوں میں برابری ہو جائے لیکن اب اگر عمارت کا کچھ حصہ بچ جائے اور اس کے پاس زمین نہ ہو تو چونکہ رابری ممکن نہیں ہے اس لیے اب وہ شریک دوسرے کو دراہم دے گا چنان چہ دراہم ضرورت کے وقت داخل ہوں گے۔

راجح قول:

مشانخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو مستحسن قرار دیا ہے۔ [دریختار: ۲۶۳/۶، شامی: ۲۶۳/۳، هدایہ:]

عبارت:

فإن وقع مسیل في قسم وطريقه في قسم آخر بلا شرط فيها صرف ان امکن والا فسخت سفل ذو علو و سفل و علو مجرد ان قوم كل واحد و قسم بها عند محمد رحمہ اللہ تعالیٰ و به يفتی اي قسم بالقيمة عنده و عند ابی حنيفة رحمہ اللہ تعالیٰ يقسم بالذراع كل ذراع من السفل في مقابلة ذراعين من العلو و عند ابی يوسف رحمہ اللہ تعالیٰ يقسم بالذراع ايضا لكن العلو و السفل متساویان . فان اقر احد المتقاسمین بالاستيفاء ثم ادعى ان بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطًا لا يصدق الا بحجة قالوا لانه يدعى فسخ القسمة فلا يصدق الا بالبينة قال في الهدایۃ ينبغي ان لا يقبل دعواه للتناقض و في المبسوط و في فتاوى قاضی خان رحمہ اللہ تعالیٰ ما يؤید هذا وجه رواية المتن انه اعتمد على فعل القاسم في اقراره باستيفاء حقه ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يوخد بذلك الاقرار عند ظہور الحق.

ترجمہ:

اگر پانی کی نالی ایک کے حصے میں واقع ہوئی اور اس کا راستہ دوسرے کے حصے میں شرط لگائے بغیر واقع ہو گیا تو اگر ممکن ہو تو پھر اجائے گا ورنہ تقسیم فتح کر دی جائے گی بچلی عمارت جو علو والی ہے اور ایک صرف بچلی اور صرف اوپر والی ہے تو ہر ایک کی قیمت لگائی جائے گی اور قیمت کے ساتھ تقسیم کی جائے گی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک اور اس پر فتویٰ ہے یعنی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمت کے ساتھ تقسیم کی جائے گی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذراع کے ساتھ تقسیم کی جائے گی سفل کا ہر ایک ذراع علو کے دو ذراع کے مقابل ہو گا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ذراع کے ساتھ تقسیم کی جائے گی لیکن علو اور سفل برابر ہیں اور اگر متقاسمین میں سے ایک نے وصول کرنے کا اقرار کر لیا پھر اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس کا بعض حصہ اس کے ساتھی کے قبضے میں غلطی سے واقع ہو گیا ہے تو اس کی تصدیق گواہی کے ساتھ ہی کی جائے گی فقهاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے فتح قسمت کا دعویٰ کیا ہے چنان چہ تصدیق گواہی کے ساتھ ہی کی جائے گی "حدایۃ" میں فرمایا ہے کہ مناسب ہے کہ اس کا دعویٰ تناقض کی وجہ سے قبول نہ کیا جائے اور مبسوط اور فتاویٰ قاضی خان میں وہ عبارت ہے جو متن کی روایت کی تائید کرتی ہے کہ اس نے اپنا حق وصول کرنے کے اقرار میں قاسم کے فعل پر اعتماد کیا تھا پھر جب اس نے صحیح طرح پر غور و فکر کیا تو قاسم کے فعل میں غلطی ظاہر ہو گئی پس حق ظاہر ہونے کے وقت اس کے اقرار کی وجہ سے مواغذہ نہ ہو گا۔

فان وقع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر قسم نے زمین شرکاء کے ماہین تقسیم کر دی پھر کسی کے حصے میں دوسرے کی نالی یا راستہ گزرتا تھا تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ پانی کی نالی اور راستے کو دوسرے کی زمین سے ہٹانا ممکن ہے یا ناممکن ہے اگر ممکن ہو تو نالی اور راستہ اس کی زمین سے پھیر دیا جائے گا خواہ راستے اور نالی کی تقسیم میں شرط لگائی گئی ہو اور راستے اور نالی کو پھیرنا ناممکن ہو تو اگر تقسیم میں ان کی شرط لگائی گئی ہوگی اور اگر شرط نہ لگائی گئی ہو تو تقسیم فتح ہو جائے گی۔

[العنایہ: ۳۶۲/۸]

سفل ذو علو سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ ارشاد اور نوید چار مکانات میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں ایک عمارت کے بالائی اور زمینی دونوں مکانوں میں شریک ہیں اور ایک عمارت کے صرف بالائی مکان میں اور ایک عمارت کے صرف زمینی مکان میں دونوں شریک ہیں پھر ان دونوں نے قاضی نے تقسیم کا مطالبہ کیا تو اب قاضی کس طرح ان کے درمیان تقسیم کرے گا اس میں ائمہ ثلاثہ کا آپس میں اختلاف ہے چنانچہ شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک قاضی ذراع کے ذریعے تقسیم کرے گا جب کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قاضی ہر ایک مکان کی قیمت لگائے اور اس کے لحاظ سے تقسیم کر دے مثلاً عمارت (الف) کے بالائی مکان کی قیمت ایک ہزار اور زمینی مکان کی دو ہزار ہے اور عمارت (ب) کے بالائی مکان کی قیمت دو ہزار ہے اور عمارت (ج) کے زمینی مکان کی قیمت پانچ ہزار ہے تو اب تمام مکانات کی قیمت دس ہزار ہوئی ہے ہر ایک کے حصے میں پانچ ہزار ہیں چنانچہ قاضی دونوں میں سے ایک کو عمارت (ج) کا زمینی مکان جس کی قیمت پانچ ہزار ہے دے دے اور دوسرے کو عمارت (الف) پوری اور عمارت (ب) کا بالائی مکان دے دے۔

حضرات شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ ذراع کے ساتھ تقسیم کرنے میں متفق ہیں البتہ ان کا تقسیم کی کیفیت بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو عنایہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمینی منزل کا ایک ذراع بالائی منزل کے دو ذراع کے مقابل ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمینی منزل کے مقابل بالائی منزل کا ایک ذراع ہوگا۔ اب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی وضاحت طویل ہے جو کہ ہدایہ میں مذکور ہے۔

راجح قول:

مشائخ رحمہما اللہ تعالیٰ نے امام محمد کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ [بحر الرائق: ۲۷۹، البنا: ۱/۱۷، در مختار: ۶/۲۶۲]

فان اقر احد سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر قسم نے زمین وغیرہ تقسیم کر دی اور متقاتمین نے اپنے اپنے حصوں پر قبضہ کرنے کا اقرار کر لیا پھر چند دن بعد ایک متقاسم نے دعویٰ کیا کہ اس کا کچھ حصہ دوسرے شریک کے قبضے میں غلطی سے چلا گیا ہے تو اس کے دعویٰ کی گواہی کے بغیر تصدیق نہ کی جائے کیونکہ یہ تقسیم فتح کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے لہذا گواہی کے بغیر تصدیق نہ کی جائے گی۔ لہذا اگر اس نے گواہی قائم کر دی تو اس کا دعویٰ معتبر ہوگا اور اگر گواہی قائم نہ کی تو باقی شرکاء سے حلف لیا جائے گا چنانچہ جس نے تقسیم کے صحیح ہونے پر حلف اٹھالیا تو اس کا حصہ اس کے پاس رہے گا اور جس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا تو اس کے اور مدعا کے درمیان قاسم دوبارہ تقسیم کرے گا۔

صاحب حداير رحمه اللہ تعالیٰ کی رائے:

قال فی الہدایہ سے شارح اس مسئلے میں صاحب حدایر رحمه اللہ تعالیٰ کا نامہ بہبیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا مدعا کا دعویٰ کسی صورت قبول نہ کیا جائے گا خواہ وہ اپنے دعوے پر گواہی قائم کرے یا نہ کرے اس لیے کہ جب اس نے اپنے حصے کو وصول کرنے کا اقرار کر لیا تو اس کے بعد غلطی کا دعویٰ کرنا یہ اقرار کرنے کے متناقض ہے جب اس میں تناقض ہے تو یہ قبول نہ کیا جائے گا خواہ گواہی قائم کر دے۔ [العنایہ: ۳۷۱/۸]

صاحب حدایر رحمه اللہ تعالیٰ کے قول کی تردید:

و فی المبسوط و فی فتاویٰ قاضی سے شارح رحمه اللہ تعالیٰ صاحب حدایر رحمه اللہ تعالیٰ کے قول کو رد کر رہے ہیں وہ اس طرح کہ ”مبسوط اور قاضی خان“ میں یہ عبارت ہے ””اقتسما الدار و اشهدنا علی القسمة والقبض والوفاء ثم ادعى احدهما بیتا فی يد صاحبه لم يصدق الا ان يقر به صاحبه لانه متناقض“ یہ عبارت متن میں موجود مسئلے (یعنی گواہی نہ ہونے کی صورت میں دعویٰ معتبر نہیں اور گواہی ہونے کی صورت میں دعویٰ معتبر ہے) کی تائید کر رہی ہے، کیونکہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ صاحب یہ کے اقرار کرنے کی صورت میں مدعا کی تصدیق کی جائے گی۔ جب افراد کی وجہ سے تصدیق کی جاسکتی ہے تو گواہی کی وجہ سے بھی تصدیق کی جاسکتی ہے چنانچہ صاحب حدایر رحمه اللہ تعالیٰ کا مطلقاً دعویٰ کو رد کرنا اس عبارت کے موافق نہیں ہے۔ [شامی: ۲/۲۶۵]

متن کی روایت کی دلیل:

وجه روایۃ المتن سے شارح رحمه اللہ تعالیٰ متن میں مذکور مسئلے کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ ممکن ہے مقام نے جب اپنے حصے پر قبضہ کیا تو اس کو قاسم پر اعتماد تھا لہذا اس نے قبضے کا اقرار کر لیا لیکن بعد میں جب اس نے صحیح طرح پر غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا کچھ حصہ دوسرے شریک کے قبضے میں ہے چنانچہ اگر اس کا دعویٰ ردنہ کیا جائے گا بلکہ حق ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کا دعویٰ معتبر ہوگا۔ و فیه تفصیل مذکور فی الشامی و تکملہ فتح القدیر ترکتھا مخافة التطویل ان شئت فارجع اليهما شامی: ۲/۲۶۵، تکملہ فتح القدیر: ۳۷۱/۲

عبارت:

و شهادة القاسمين حجة فيها ای فی القسمة هذا عند ابی حنیفہ رحمه اللہ تعالیٰ و ابی یوسف رحمه اللہ تعالیٰ و عند محمد رحمه اللہ تعالیٰ و الشافعی رحمه اللہ تعالیٰ لیست بحجه لانها شهادة على فعل انفسهما قلنا لا بل شهادة على فعل غيرهما و هو الاستيفاء. و ان قال قبضته ثم اخذ بعضه حلف خصمه ای قال قبضت حقی و لكن اخذ بعضه بعد ما قبضته حلف خصمه و ان قال قبل اقراره اصابني کذا و لم یسلم الى تحالفه و فسخت لانه اختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار كالاختلاف في مقدار المبيع.

ترجمہ:

قاسمين کی گواہی تقسم میں معتبر ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمه اللہ تعالیٰ اور امام ابویوسف رحمه اللہ تعالیٰ کے زدیک ہے اور امام محمد رحمه اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمه اللہ تعالیٰ کے زدیک معتبر نہیں ہے اس لیے کہ یہ اپنے فعل پر گواہی دینا ہے ہم نے کہا نہیں بلکہ یہ اپنے غیر کے فعل پر

گواہی دینا ہے اور وہ وصول کرنا ہے اور اگر اس نے کہا میں نے اپنے حصے پر قبضہ کر لیا پھر اس کا بعض حصہ شریک نے لے لیا تو اس کے مقابل سے حلف لیا جائے گا یعنی اس نے کہا میں نے اپنے حق پر قبضہ کر لیا لیکن میرے قبضہ کرنے کے بعد وسرے شریک نے اس کا کچھ حصہ لے لیا تو اس کے خصم سے حلف لیا جائے گا اور اگر اس نے اپنے اقرار کرنے سے پہلے کہا مجھے اتنا حصہ ملا اور وہ میرے حوالے نہیں کیا گیا تو دونوں حلف اٹھائیں گے اور تقسیم فتح کر دی جائے گی اس لیے کہ یہ اس شی کی مقدار میں اختلاف ہے جو اس کو تقسیم سے حاصل ہوئی چنانچہ یہ میمع کی مقدار میں اختلاف کی طرح ہے۔

تشریح:

و شهادة القاسمين سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر متعدد اقسام کے درمیان اختلاف ہو گیا بعض نے کہا کہ ہم نے اپنا حصہ وصول نہیں کیا اور بعض نے انکار کیا اور کہا کہ تم نے اپنا حصہ وصول کر لیا ہے تو اب قاسمین نے گواہی دی تو شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی گواہی معتبر ہو گی اور امام محمد اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر نہ ہو گی، ان حضرات کی ولیل یہ ہے کہ قاسمین اپنے فعل (تقسیم کرنا) پر گواہی دے رہے ہیں اور اپنے فعل پر گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ لہذا قاسمین کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔

جب کہ شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاسمین کا فعل تقسیم کرنا ہے اور یہ دونوں استیفاء (وصول کرنا) پر گواہی دے رہے ہیں۔ لہذا یہ گواہی اپنے فعل پر نہ ہوئی بلکہ غیر کے فعل پر ہوئی اور غیر کے فعل پر گواہی معتبر ہوتی ہے۔

فائدہ:

بعض نے کہا ہے کہ یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب قاسمین نے بلا اجرت تقسیم کی ہو تو بالاتفاق ان کی گواہی معتبر نہ ہو گی لیکن صحیح قول کے مطابق اختلاف دونوں صورتوں میں ہے چنانچہ شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک گواہی قبول کی جائے گی خواہ اجرت لی ہو اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں صورتوں میں گواہی معتبر نہ ہو گی۔

[شامی: ۲۶۲، تقریرات الرافعی: ۲۹۷]

و ان قال قبضته سے دو صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے کہا میں نے اپنے حق پر قبضہ کر لیا اس کے بعد میرا کچھ حصہ میرے شریک نے لے لیا ہے اور شریک نے انکار کیا کہ میں نے تمہارا حصہ نہیں لیا تو اب مدعا اپنے شریک پر غصب کا دعویٰ کر رہا ہے اور شریک مذکور کا قول حلف کے ساتھ معتبر ہو گا چنانچہ اگر اس نے حلف اٹھا لیا تو مذکور کا قول معتبر ہے۔

وان قال اقرار سے دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ ایک حصہ دار نے اپنے حصے پر قبضہ کرنے کے اقرار سے قبل یوں کہا کہ مجھے اتنا حصہ ملنا تھا اور وہ میرے حوالے نہیں کیا گیا تو اب یہ اختلاف اس شی میں ہے جو تقسیم سے حاصل ہوئی ہے۔ لہذا یہ میمع کی مقدار میں اختلاف کی طرح ہے چنانچہ یہ دونوں حلف اٹھائیں گے اور حلف اٹھانے کے بعد تقسیم فتح کر دی جائے گی۔

عبارت:

فَإِنْ أَسْتَحْقَقَ بَعْضُ حَصَّةِ أَحَدِهِمَا شَاعَ أَوْ لَمْ تَفْسُخْ وَرَجَعْ بِقَسْطِهِ فِي حَصَّةِ شَرِيكِهِ وَتَفْسُخْ فِي بَعْضِ مَشَاعِ فِي الْكُلِّ أَعْلَمُ أَنَّ الْأَسْتَحْقَاقَ إِمَّا فِي بَعْضِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ بَعْضًا شَايِعًا لَا تَفْسُخْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَورَتِهِ أَنَّهُمَا اقْتَسَمَادِ الرَّأْفَوْقَعِ النَّصْفَ الْغَرْبِيِّ لَا حَدَّهُمَا فَاسْتَحْقَقَ النَّصْفُ الشَّاغِعُ مِنْ هَذِهِ النَّصْفِ الْغَرْبِيِّ فَإِذَا لَمْ

تفسخ فالمستحق منه بال الخيار ان شاء نقض القسمة دفعا لضرر التشخيص و ان شاء رجع على الاخر بالربع وان كان ببعضا معينا من نصيب احدهما فقد قيل انه على الاختلاف والصحيح انها لا تفسخ بالاجماع بل يرجع بقسطه في حصه شريكه كما اذا كانت الدار بينهما نصفين فقسمت فاستحق من يد احدهما . بيت هو خمسة اذرع رجع بنصف ما استحق في نصيب صاحبه و ان كانت اثلاثا لاحدهما و الثالثان للأخر فان استحق من يد صاحب الثالث رجع بثلثي ما استحق و ان استحق من يد صاحب الثلثين رجع بثلث ما استحق و ان استحق البعض من نصيب كل واحد فان كان شائعا فسخت القسمة و ان كان معينا لم يذكر هذه المسئلة فاقول لا تفسخ القسمة بل يجعل هذا المستحق كان لم يكن فان كان الباقى في يد كل واحد منها بقدر نصبيه فلا رجوع لاحدهما على صاحب و ان نقص من نصيب احدهما يرجع بالحصة كما اذا كانت الدار نصفين و المستحق عشرة اذرع خمسة من نصيب هذا و خمسة من نصيب ذلك فلا رجوع لاحدهما على صاحبه و ان كانت اربعة من هذا و ستة من ذلك يرجع الثاني على الاول بذرع .

ترجمہ:

اور اگر دونوں شرکاء میں سے ایک کے حصے میں کوئی مستحق نکل آیا اتحققات خواہ وہ حصہ مشاع ہو یا مشاع نہ ہو گی اور دوسرا شریک اپنے حصے کا اپنے ساتھی کے حصے میں رجوع کرے گا اور کل حصے میں بعض مشاع کا مستحق نکلنے کی صورت میں تقسیم فتح کر دی جائے گی تو جان لے کہ اتحققات یا تو ان دونوں میں سے ایک کے کچھ حصے میں ہو گا پھر اگر یہ بعض شائع میں ہو تو امام ابو حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقسیم فتح نہ ہو گی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقسیم فتح ہو جائے گی اور اسی یہ ہے کہ امام محمد، امام ابو حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں نے گھر تقسیم کیا چنانچہ غربی نصف ان دونوں میں سے ایک کا ہوا اور اسی غربی نصف میں نصف شائع کا کوئی مستحق نکل آیا۔ پس جب تقسیم فتح نہ ہوئی تو مستحق منہ کو خیار ہے اگر چاہے تو تقسیم کو تشقیع کے ضرر سے دور کرنے کے لیے توڑے اور اگر چاہے تو دوسرے شریک پر رجع حصے کا رجوع کر لے اور اگر اتحققات ان دونوں میں سے ایک کے حصے سے بعض معین حصے ہو تو کہا گیا ہے کہ یہ صورت اختلاف پر مبنی ہے اور صحیح یہ ہے کہ تقسیم بالاجماع فتح نہ ہو گی بلکہ وہ اپنے حصے کا اپنے شریک کے حصے میں رجوع کرے گا جیسا کہ جب گھر ان دونوں کے درمیان نصف نصف مشترک ہو پھر اس کو تقسیم کیا گیا اور ان دونوں میں سے ایک کے قبضے سے ایک کمرے کا کوئی مستحق نکل آیا جو کمرہ پانچ ذراع کا تھا تو شریک اس کمرے کے نصف کا جس کا مستحق نکلا ہے اپنے ساتھی کے حصے میں رجوع کرے گا اور اگر گھر ان دونوں کے درمیان اثلاٹا ہو کہ ثلث ان دونوں سے میں ایک کا ہو اور دو ثلث دوسرے کے ہوں پھر اگر صاحب ثلث کے قبضے والے حصے کا کوئی مستحق نکل آیا تو اس حصے کے دو ثلث جس کا مستحق نکلا ہے رجوع کرے گا اور اگر صاحب ثلثین کے قبضے والے حصے کا مستحق نکلا تو وہ اس حصے کے ثلث کا رجوع کرے گا جس کا مستحق نکلا ہے اور اگر ہر ایک کے حصے میں سے بعض کا مستحق نکلا پھر اگر وہ شائع ہو تو تقسیم فتح ہو جائے گی اور اگر معین ہو تو اس مسئلے کو ذکر نہیں کیا گیا چنانچہ میں کہتا ہوں کہ تقسیم فتح نہ ہو گی بلکہ اس مستحق کو نہ ہونے کی طرح بنایا جائے گا پھر اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کے قبضے میں اس کے حصے کے بقدر ہو تو ان میں سے کسی کا اپنے ساتھی پر رجوع ثابت نہ ہو گا اور اگر ان میں سے ایک کے حصے سے کم ہو تو وہ حصے کا رجوع کرے گا جیسا کہ جب گھر نصف نصف ہو اور مستحق حصہ دس ذراع ہو پانچ ذراع اُس کے حصے سے ہوں

گے اور پانچ ذرائع اس کے حصے میں ہوں گے چنانچہ ان دونوں میں سے ایک کا اپنے ساتھی پر رجوع ثابت نہ ہوگا اور اگر چار ذرائع اس کے حصے میں سے ہوں اور چھ ذرائع اس کے حصے سے ہوں تو تانی اول پر ایک ذرائع کا رجوع کرے گا۔

تشریح:

فان استحق..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تقسیم ہونے کے بعد اس شیئی میں مستحق نکلنے کی وجہ سے تقسیم فاسد ہوگی یا نہ ہوگی۔

جاننا چاہیے کہ اکثر حضرات نے اسی مسئلے کی تین صورتیں بیان کی ہیں اور شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت مزید بیان کی ہے، لہذا یہاں مسئلے کی کل چار صورتیں بیان کی جائیں گی جن میں سے تین اتفاقی اور ایک اختلافی ہے۔

اختلافی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ راشد اور حبیب کے درمیان ایک مکان مشترک تھا پھر ان دونوں نے اس کو تقسیم کر لیا مشرقی نصف حصہ راشد کے بھٹے میں آیا اور مغربی نصف حصہ حبیب کے بھٹے میں آیا پھر چند دنوں بعد فخر نے حبیب کے پاس موجود حصے میں سے نصف شائع (یعنی نصف معین نہ تھا) کا دعویٰ کیا اور قاضی نے فخر کے لیے فیصلہ کر دیا اب آیا گزشتہ تقسیم فتح ہوگی یا نہ ہی ہوگی اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابوحنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زد دیک تقسیم فتح نہ ہوگی اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زد دیک تقسیم فتح ہو جائے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ابوحنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور امام ابو سليمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں البتہ اسچ قول امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ امام محمد امام ابوحنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کے زد دیک تقسیم فتح نہ ہوگی المبتدا مستحق من (حبیب) کو اختیار ہوگا اگرچہ ہے تو تقسیم نہ توڑے کیونکہ اس کو ضرر ہے وہ اس طرح کہ تقسیم نہ توڑنے کی صورت میں حبیب مستحق نکلنے والے حصے کے نصف کا راشد سے رجوع کرے گا تو حبیب کا حصہ دو جگہ بٹ جائے گا چنانچہ اگر حبیب اس ضرر سے پچنا چاہتا ہے تو تقسیم نہ توڑے اور اس ضرر پر راضی ہے تو تقسیم نہ توڑے اور دوسرے شریک پر ربع کا رجوع کرے۔ [بخاری اتق: ۲۸۳/۸]

بعقیہ تین اتفاقی صورتیں:

وان کسان بعضًا معينا..... سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ پہلی اتفاقی صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر فخر نے حبیب کے حصے میں موجود گھر کے کسی معین کمرے میں استحقاق کا دعویٰ کیا مثلاً گھر راشد اور حبیب کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوا تھا پھر فخر نے حبیب کے حصے میں موجود ایک کمرے پر دعویٰ کیا جو کہ را پانچ ذرائع کا تھا تو اب قاضی فخر کے لیے فیصلہ کر دے گا اور حبیب پانچ ذرائع کے نصف یعنی اڑھائی ذرائع کا راشد کے حصے میں رجوع کرے گا اور اگر گھر ان دونوں کے درمیان اثلاً تقسیم ہوا تھا مثلاً راشد کے دو ثلث اور حبیب کا ایک ثلث تھا پھر فخر نے حبیب کے ثلث حصے میں سے کمرے کے استحقاق کا دعویٰ کیا تو اب حبیب راشد سے کمرے کے دو ثلث کا رجوع کرے گا اور اگر فخر نے راشد کے دو ثلث حصے میں سے کمرے کے استحقاق کا دعویٰ کیا تو اب راشد حبیب سے کمرے کے ایک ثلث کا رجوع کرے گا یہ مثالیں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسئلے کی وضاحت کے لیے دی ہیں۔ اب یہ بات جانا چاہیے کہ بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس صورت (کہ جب بعض معین کا کسی ایک کے حصے میں مستحق نکلا) کو اختلافی ذکر کیا ہے لیکن صاحب حدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کی ہے کہ یہ اتفاقی صورت ہے اور اختلافی صورت بعض شائع والی ہے۔

و ان استحق البعض سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ دوسری اتفاقی صورت بیان کر رہے ہیں کہ جب گھر را شد اور جبیب کے درمیان تقسیم ہو گیا پھر چند دن بعد فخر نے پورے گھر میں ثلث کا دعویٰ کر دیا تو اب بالاتفاق تقسیم فتح ہو جائے گی اور مستحق کو ثلث حصے دینے کے بعد دوبارہ تقسیم کی جائے گی

وان کان معينا سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ چوتھی اتفاقی صورت جس کو صاحب درختار رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر فخر نے پورے گھر میں معین حصے کے استحقاق کا دعویٰ کیا تو تقسیم فتح نہ ہوگی البتہ استحقاق کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی یہ ہے کہ مستحق نے دونوں کے حصوں میں برابر استحقاق کا دعویٰ کیا ہوا اور مستحق کو اس کا حق دینے کے بعد دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کے پاس اس کے حصے کے بقدر باقی رہ جائے تو ان میں سے کوئی بھی دوسرے پر رجوع نہیں کرے گا اس کی مثال کما اذا كانت الدار سے دی ہے کہ گھر دونوں کے درمیان نصف نصف تھا اور مستحق نے دس ذرائع کا دعویٰ کیا اور ہر ایک کے حصے میں سے پانچ ذرائع لے لیے تو اب دونوں شریکوں کے حصوں سے استحقاق برابر ہے۔ لہذا ایک شریک دوسرے پر رجوع نہیں کرے گا۔ دوسری صورت وان نقص سے بیان کی کہ اگر مستحق نے ایک کے حصے میں کم اور دوسرے کے حصے میں زیادہ حق کا دعویٰ کیا تو ایسی صورت میں وہ شریک جس سے زیادہ حق لیا گیا ہے دوسرے شریک سے زائد کارجوع کرے گا اس کی مثال و ان کانت اربعة سے دی ہے کہ مستحق نے ایک کے حصے سے چار ذرائع اور دوسرے کے حصے سے چھ ذرائع لیے تواب جس شریک سے چھ ذرائع لیے گئے ہیں وہ دوسرے شریک سے ایک ذرائع کارجوع کرے گا۔

فائدہ:

چوتھی صورت کے بارے میں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "لِم يذکر هذه المسألة" کہ اس صورت کو کتب فقه میں ذکر نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں تین حکم ہیں۔ (۱) تقسیم فتح نہ ہونا۔ (۲) تاوی کے وقت رجوع نہ کرنا۔ (۳) زائد کے وقت رجوع کرنا اور تینوں احکام معلوم ہو چکے تھے اسی وجہ سے علماء کرام نے اس صورت کو الگ سے ذکر نہیں کیا۔ [شای: ۶/۲۶۶]

عبارت:

و صحت المهايأة المهايأة مفاعة من التهية او من التهيو فكان احدهما يهیء الدار لانتفاع صاحبه و اويتهياً للانتفاع به كما اذا فرغ من انتفاع صاحبه في سكون هذا بعضا من دار و هذا بعضا و هذا علوها و هذا اسفلها او خدمة عبداً هذا يوما و هذا يوما اي خاتمة عبد زيد ايوما و عمرو ايوما كسكنى بيت صغيريان يسكن فيه زيد يوما و عمر و يوما و عبددين هذا هذا العبد و الآخر الآخر اي يخدم زيد اهذا العبد و يخدم عمر و العبد الآخر .

ترجمہ:

اور "مهایاۃ" صحیح ہے، "المهايأة التهیۃ" سے مفاعله کا مصدر ہے یا "التهیو" سے ہے پس ان میں سے ایک شخص گھر کو اپنے ساتھی کے نفع کے لیے تیار کرتا ہے یا گھر نفع دینے کے لیے تیار ہے جیسا کہ جب وہ گھر اس کے ساتھی کے نفع اٹھانے سے فارغ ہو۔ (اور مهايأة صحیح ہے) اس ساتھی کے گھر کے بعض میں رہنے کی اور اس کے بعض میں رہنے اور اس گھر کے علو میں اور اس کے سفل میں یا اس کے غلام کی خدمت ایک دن لینے میں اور اس کے غلام کی خدمت ایک دن لینے میں یعنی غلام کی خدمت زید کو ایک دن لینا اور عمر و کو

ایک دن لینا چیز جھوٹے کرے میں رہنا اس طور پر کہ اس میں ایک دن زیدر ہے گا اور ایک دن عمر در ہے گا اور دو غلاموں کی ”مہایاۃ“ صحیح ہے اس شریک کے لیے اس غلام کی اور دوسرے شریک کے لیے دوسرے غلام کی یعنی زید اس غلام کی خدمت لے گا اور عمر دوسرے غلام کی خدمت لے گا۔

تشریح:

و صحت المہایاۃ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ”مہایاۃ“ کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ صاحب حدایۃ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل فصل میں بیان کیا ہے اس کو موزکرنے کی وجہ یہ ہے کہ ماقبل میں اعیان کی تقسیم کا بیان گزر رہے اور ”مہایاۃ“ منافع کی تقسیم کو کہا جاتا ہے چنان چہ منافع پوں کہ اعیان سے ادنیٰ ہے لہذا ان کی تقسیم کا بیان بھی اعیان سے موزکریا گیا ہے۔ [تمکملہ فتح القدر: ۳۷۷/۸]

”مہایاۃ“ کے مشتق منہ میں چند احتلالات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ”مہایاۃ“، ”التهیۃ“ سے مشتق ہے لیکن غرض کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھی گھر سے نفع حاصل کرنے کے بعد دوسرے ساتھی کے نفع حاصل کرنے کے لیے گھر کو تیار کرتا ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ”الشیھو“ سے مشتق ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر ایک ساتھی کے نفع حاصل کرنے کے بعد دوسرے ساتھی کے نفع حاصل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ مہایاۃ کے الف کوہ مزہ سے تبدیل کر دیا جائے چنان چہ ”مہایاۃ“ ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہو گا کہ آپس میں منافع تو تقسیم کرنا۔

شرعی معنی:

اس کا شرعی معنی ”المہایاۃ مبادلة معنی و لیست باقرار من کل وجه“

شرط:

آخر کی شرط یہ ہے کہ شئی ایسی ہو جس سے نفع حاصل کرنا اس کی ذات باقی رہنے کے ساتھ ممکن ہو۔

صفت:

اس کی صفت یہ ہے کہ ”مہایاۃ“ کو جب بعض ساتھی طلب کریں تو یہ واجب ہو جاتی ہے۔

دلیل:

اس کی دلیل قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے ”هذه ناقة لها شرب ولکم شرب يوم معلوم“ اور حدیث سے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے غزوہ بدرا میں ایک اونٹ تین شخصوں کے درمیان تقسیم کیا تھا۔ اور امت کا اس کے جواز پر اجماع ہے۔ [بحر الرائق: ۲۸۵/۸]

وفی سکون هذا سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”مہایاۃ“ کی انواع کو بیان کرنا شروع فرمایا ہے کہ اگر دو شخصوں کے درمیان ایک گھر مشترک ہے پھر ان دونوں نے اس بات پر موافقت کی کہ اس گھر کے بعض حصے میں ایک شریک اور دوسرے بعض حصے میں دوسرा شریک رہے گا۔ بشرطیکہ اس عین کو تقسیم نہیں کیا تو یہ مہایاۃ بالکان ہے اور اسی طرح اگر ایک شریک اوپر رہنے اور دوسرا پھر منزل میں رہنے پر متفق ہو جائے تو یہ مہایاۃ بالکان ہے اور اگر دو شخصوں کا ایک غلام ہے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن ایک ساتھی غلام سے خدمت لے اور دوسرے دن دوسرے ساتھی خدمت لے تو یہ مہایاۃ بالزمان ہے یہ بھی جائز ہے۔

و عبدین هذا سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر دو غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہوں اور یہ طے پایا کہ ایک غلام ایک ساتھی کی خدمت کرے گا اور دوسرے غلام دوسرے ساتھی کی خدمت کرے گا تو یہ جائز ہے۔

كتاب المزارعة

چوں کمزین سے نکلنے والے والی پیداوار کئی اقسام کی ہوتی ہے جس کو تقسیم کرنا پڑتا ہے اس لیے "كتاب القسمة" کے بعد "كتاب المزارعة" کو ذکر کیا ہے۔

لغوی معنی:

یہ مفافعہ کے وزن پر ہے جس کے معنی بیانی پر کھتی کرنا۔

شرعی معنی:

اس کے شرعی معنی "هي عقد الزرع بعض الخارج" ہے اس کو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔
رکن:

مزارعت کا رکن ایجاد اور قبول ہے۔

شرائط:

اس کی شرائط کا بیان کتاب میں ذکر کیا جائے گا ان شاء اللہ۔

صفت:

یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاسد ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے۔

دلیل:

اس کے جواز کی دلیل آپ علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے خبر والوں کو زمین مزارعہ پر دی تھی۔
[بح الرائق: ۲۸۹/۸]

عبارات:

هي عقد الزرع بعض الخارج و لا تصح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لما روى عن النبي عليه السلام نهى عن المخابرة و لأنها استيحرار الارض ببعض ما يخرج من عمله فكان في معنى قفيز الطحان. و صحت عندهما وبه يفتى لتعامل الناس وللاحتياط بها و القياس على المضاربة. بشرط صلاحية الارض للزرع و اهلية العاقدين، و ذكر المدة و دب البذر. و جنسه و قسط الآخر. و التخلية بين الارض و العامل، و الشركة في

الخارج فبطل ان شرط لاحدهما فقران مسممة او ما يخرج من موضع معين او رفع رب البذر بذرها او رفع الخراج و تنصيف الباقي هذا اذا كان الخراج خراجا موظفا اما اذا كان الخراج خراج مقاسمة كالربع والخمس لا يفسد العقد كما شرط رفع العشر لان هذا لا يودى الى قطع الشركة.

ترجمہ:

مزارعت کچھ پیداوار کے بدلے کاشت کرنے کا عقد کرتا ہے اور یہ امام ابوحنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے بائی پر کھیتی کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس لیے کہ یہ زمین کو اس شی کے بعض کے بدلے لینا ہے جو شی مزارع کے عمل سے نکلے گی چنانچہ یہ تفییر طحان کے معنی میں ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے زدیک مزارعت صحیح ہے اور اس پر ہی فتوی ہے لوگوں کے معاملہ کرنے اور اس کی ضرورت ہونے کی وجہ سے اور مشاربت پر قیاس کرتے ہوئے صحیح ہے۔ بشرطیکہ زمین میں کھیتی کی صلاحیت اور عاقدین میں الہیت ہوا درمت کو اور بیچ کی جنس کو اور دوسرے کے حصے کو ذکر کیا جائے اور زمین اور عامل کے درمیان تخلیہ ہو اور پیداوار میں شرکت ہو چنانچہ مزارعت باطل ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے لیے معین ذکر کردہ فقیروں کی شرط لگائی گئی ہو یا کسی معین جگہ سے نکلنے والی پیداوار کی شرط رکھی گئی ہو یا بیچ والے کے اپنا بیچ نکالنے کی شرط لگائی گئی ہو یا خراج نکالنے اور باقی کو نصف نصف کرنے کی شرط لگائی گئی ہو یہ اس وقت ہے جب خراج موظف ہو بہر حال جب خراج مقاسہ ہو جیسے ربع اور خمس تو عقد فاسد نہ ہو گا جیسا کہ عشر نکالنے کی شرط رکھی گئی ہو اس لیے کہ یہ شرکت کو ختم کرنے کی طرف نہیں لے جاتا۔

شرح:

ہی عقد یہ مزارعت کی شرعی تعریف ہے کہ کچھ پیداوار کے بدلے کھیتی کا عقد کرتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”عقد“، ”جنس“ ہے جس میں تمام عقود داخل میں اور ”علی النزوع“، ”فصل اول“ ہے اور ”بعض الخارج“، ”فصل ثانی“ ہے۔ یہ بات جان لئی چاہیے کہ مزارعت امام ابوحنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک صحیح نہیں ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے زدیک صحیح ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل:

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ میں مخابرہ کا عقد کرتے تھے اور اس میں کچھ برج نہ بھیتھے تھے یہاں تک کہ ہم نے سنا کہ آپ علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ مزارعت کی صورت میں زمین کو اجرت پر دینا ہے اور اجرت وہ مقرر کی گئی ہے جو عامل کے عمل سے نکلے گی اس وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ کوئی شخص گندم پسوانے کی اجرت اس میں سے نکلنے والے آٹے میں کچھ طے کر دے تو جس طرح یہ ناجائز ہے اسی طرح مزارعت بھی ناجائز ہے۔

صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل:

صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایسا عقد ہے جس پر لوگ معاملہ کرتے ہیں اور اس عقد کی ضرورت بھی ہے چنانچہ یہ صحیح ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ عقد شرکت ہے کہ دونوں میں سے ایک کامال (زمین) ہے اور دوسرے کامل ہے جیسا کہ مشاربت میں ہوتا

ہے تو جس طرح عقد مضارب ت جائز ہے اس طرح عقد مزارعت بھی جائز ہے۔
رانج قول:

مشائخ حرمہم اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔

[بخاری: ۲۹۱/۸، مسلم: ۲۳۵/۲، الباب: ۸۹، برازیہ: ۴/۸۹، خلاصۃ الفتاوی: ۳۰/۱۹۰، اعلاء السنن: ۱/۲۳]

فائدہ:

امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کے ناجائز ہونے پر سخت نہیں فرمائی اسی وجہ سے امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے جواز کا حیلہ بھی ہے میں نے طوالت کے خوف سے اس کو ذکر نہیں کیا۔ [من شاء فلیراجع الى الشامیہ: ۲۰/۲۷۵]

مزارعت کی آٹھ شرائط:

بشر ط صلاحیۃ مزارعت کے صحیح ہونے کی آٹھ شرائط مصنف رحمہم اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔

پہلی شرط ”صلاحیۃ الارض“ ہے یعنی زمین میں فصل اگانے کی صلاحیت بھی ہو چنان چہ اگر زمین بخیر ہو تو مزارعت ناجائز ہے البتہ اگر عقد کے وقت صلاحیت نہ ہو لیکن کچھ زمانے بعد صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو یہ عقد جائز ہے۔ [شامی: ۶/۲۷۵]

دوسری شرط ”أهلیۃ العاقدین“ ہے یعنی دونوں عاقد آزاد، بالغ ہوں اس لیے کہ اہلیت کے بغیر عقد ناجائز ہے۔

تیسرا شرط ”ذکر المدة“ ہے یعنی مزارعت کے عقد کی مدت طے کی جائے کیونکہ مجہول مدت کی صورت میں عقد ناجائز ہو گا۔

[فیہ تفصیل مذکور فی الشامی من شاء فلیراجع: ۶/۲۷۵]

چوتھی شرط ”رب البذر“ ہے یعنی جو شخص بیج ڈالے گا اس کا ذکر کیا جائے اگرچہ اس کا ذکر درالله ہو جیسے زمین والا یوں کہے ”دفعتها الیک لائز عھالی“۔

پانچویں شرط ”جنسہ“ ہے یعنی جس فصل کا بیج ڈالنا ہو اس کو بھی ذکر کرنا شرط ہے کیونکہ کچھ فصلیں زمین کو نقصان دیتی ہیں۔

چھٹی شرط ”قسط الآخر“ ہے یعنی جس شخص کا بیج نہیں ہے اور عامل ہے تو اس کا حصہ بیان کرنا بھی ضروری ہے خواہ اس کا حصہ صراحتہ بیان کیا جائے یا ضمناً بیان کیا جائے جیسے بیج والے کا حصہ بیان کر دیا اور عامل کے حصے سے سکوت کیا تو اب ضمناً عامل کا حصہ معلوم ہو گیا لہذا یہ احتمان جائز ہے۔ [دریختار: ۶/۲۷۶]

ساتویں شرط ”التخلیة بین الارض و العامل“ ہے یعنی رب الارض اپنی زمین کو عامل کے لیے فارغ کر دے گا خواہ بیج رب الارض نے ڈالا ہو چنان چہ جب عامل کو زمین فارغ کر کے نہ دی جائے گی تو یہ عقد ناجائز ہو گا۔

آٹھویں شرط ”الشركة فی الخارج“ یعنی پیداوار حاصل ہونے کے بعد دونوں اس میں شریک ہوں گے چنان چہ اگر کسی وجہ سے شرکت نہ ہو گی تو یہ عقد فاسد ہو جائے گا اسی شرط پر تفریق کرتے ہوئے مصنف رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبطل ان شرط یعنی اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مقرر فقیر کی یا کسی معین جگہ سے نکلنے والی پیداوار کی بیان کا بیج والے نے اپنائچ نکالنے کی یا خراج نکالنے کی شرط کائی اور باقی ماندہ فصل کو نصف نصف تقسیم کرنے کی شرط لگائی گئی تو یہ عقد فاسد ہو جائے گا کیوں کہ ممکن ہے کہ پیداوار صرف اتنی ہو جس سے مشروط پورا ہو اور باقی کچھ نہ بچے جس کو تقسیم کیا جائے گا کیونکہ یہ صورت ناجائز ہے۔

هذا اذا كان یعنی مائل میں جو گزر رہے کہ جب خراج کی شرط لگائی گئی تو یہ عقد فاسد ہو جائے گا یہ اس وقت ہے جب خراج معین

ہو چنان چہ بخراج مقامہ ہو جیسے ربع یا میس وغیرہ کی صورت میں ہوتا ب عقد فاسد نہ ہو گا جیسا کہ اگر فعل میں عشرہ کانے کی شرط لگائی جائے تو بھی عقد فاسد نہیں ہو گا اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں شرکت نہیں ہوتی۔

عبارت:

او التین لاحدهما والحب للأخر لقطع الشركة فيما هو المقصود او تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر
لانه خلاف مقتضى العقد او تنصيف التبن والحب لاحدهما لقطع الشركة في المقصود فان شرط تنصيف
الحب والتبن لصاحب البذر او لم يتعرض للتبن صحت لان في الاول الشرط مقتضى العقد فانه نماء ملكه و
في الثاني الشركه فيما هو المقصود حاصلة وح التبن لصاحب البذر وعند البعض مشترك تبعا للحب . و كذلك
الو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للأخر والارض او العمل له والبقية للأخر وبطلت لو كانت الأرض
والبقر لزيد او البذر والبقر له والأخر ان للأخر او البذر له وباقي للأخر اعلم انها بالتقسيم العقلى على سبعة
اووجه لانهاما ان يكون الواحد من احدهما والثالثة من آخر وهذا على اربعة اوجه و هو انما ان يكون الأرض او
العمل او البذر او البقر من احدهما وباقي من الآخر والا ولان جائز ان والثالث لاحتمال الربوا والرابع غير
مذكور في الهدایة وهو ايضا غير جائز لانه استيجار البقر باجر مجهول واما ان يكون الثان من احدهما واثنان
من الآخر وهو على ثلاثة اوجه و ذلك اما ان يكون الأرض مع البذر او مع البقر او مع العمل من احدهما و
الباقيان من الآخر وال الاول جائز دون الآخرين اذ لا مناسبة بين الأرض والعمل وكذا بين الأرض والبقر وعن
ابي يوسف رحمه الله تعالى جواز هذا .

ترجمہ:

یا یوسف کی ایک کے لیے اور دانوں کی دوسرے کے لیے شرط لگائی گئی ہو (تو بھی مزارعت باطل ہو جائے گی) کیونکہ مقصود میں شرکت
ختم ہو گئی یا بیچ والے کے علاوہ کے لیے دانوں اور بھوے کے نصف کرنے کی شرط لگائی گئی اس لیے کہ یہ متفقی عقد کے خلاف ہے یا ان
دانوں میں سے ایک کے لیے بھوے اور دانوں کے نصف کرنے کی شرط لگائی گئی مقصود میں شرکت ختم ہونے کی وجہ سے (مزارعت باطل
ہو جائے گی) لہذا اگر دانوں اور بھوے کو بیچ والے کے لیے نصف نصف کرنے کی شرط لگائی گئی یا بھوے کے بالکل درپے نہ ہوئے تو
مزارعت صحیح ہے اس لیے کہ پہلی صورت میں شرط مقتضی عقد پر ہے کیونکہ وہ اس کی ملک کی نماء سے اور دوسری صورت میں مقصود میں
شرکت حاصل ہے اور اس وقت بھوے بیچ والے کے لیے ہوتا ہے اور بعض کے زد دیک دانوں کے تابع ہوتے ہوئے بھوے مشترک ہو گا اور
اسی طرح اگر زمین اور بیچ زید کا ہوا اور جانور اور عمل دوسرے کا ہو یا زمین یا عمل زید کا ہوا اور بقیہ دوسرے کے ذمے ہوں اور دوسری دانوں
اشیاء دوسرے کی ہوں یا بیچ زید کا ہوا اور باقی دوسرے کا ہو تو جان لے یہ مسئلہ عقلی تقسیم کے ساتھ سات قسموں پر مشتمل ہے۔ اس لیے کہ یا تو
ایک شیء ان دانوں میں سے ایک کی ہو گی اور تین اشیاء دوسرے کی ہوں گی یہ چار قسموں پر مشتمل ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین یا عمل یا بیچ یا
جانور ان دانوں میں سے ایک کے ہوں اور باقی دوسرے کے ہوں اور بھی دانوں صورتیں جائز ہیں اور تیسرا صورت ربوا کے احتمال کی
وجہ سے (نا جائز ہے) اور چوتھی صورت حدایہ میں مذکور نہیں ہے اور وہ بھی ناجائز ہے اس لیے کہ اس میں جانور کو اجرت مجهول کے بدے
اجارہ پر لینا ہے اور یا تو دو اشیاء ان میں سے ایک کی ہوں گی اور دو اشیاء دوسرے کی ہوں گی یہ بھی تین قسموں پر مشتمل ہے اور وہ یہ ہے کہ

ز میں بیج کے ساتھ یا جانور کے ساتھ یا عمل کے ساتھ ان دونوں میں سے ایک کی ہوگی اور باقی دونوں دوسرے کی ہوں گی اور پہلی صورت جائز ہے۔ دوسری دونوں صورتیں ناجائز ہیں اس لیے کہ ز میں اور عمل کے مابین اور اسی طرح ز میں اور جانور کے مابین کوئی مناسبت نہیں ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس کا جواز مردی ہے۔

تشریح:

او التین لاحدهما..... اس کا تعلق بھی آٹھویں شرط کے ساتھ ہے اور یہ مسئلہ آٹھ صورتوں پر مشتمل ہے جن میں سے چھ صورتیں صحیح ہیں اور دو صورتیں فاسد ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پانچ صورتیں صراحتاً اور دو صورتیں ضمناً ذکر کیں ہیں۔

او التین لاحدهما..... یعنی اگر عقد مزارعت میں اس بات کی شرط رکھی گئی کہ بھوسہ ایک شخص کا ہوگا اور اناج دوسرے کا ہوگا تو یہ عقد فاسد ہو جائے گا اس لیے کہ اس میں مقصودی بھی میں شرکت نہیں ہے یہ عبارت دو صورتوں کو شامل ہے کیونکہ "لاحدہما" سے رب الارض بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور عامل بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔

او تنصیف الحب سے تیری صورت بیان کی ہے کہ اس بات کی شرط رکھی کہ اناج دونوں کے مابین نصف نصف ہوگا اور بھوسہ اس کا ہوگا جس نے بیج نہیں ڈالا تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس لیے کہ یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے کیونکہ اس میں شرکت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اناج آفت سے ختم ہو جائے اور صرف بھوسہ باتی رہ جائے۔

او تنصیف الحب و التین یہ جملہ بھی دو صورتوں کو شامل ہے یعنی اگر اس بات کی شرط لگائی گئی کہ بھوسہ نصف نصف ہوگا اور اناج تمام کا تمام دوسرے کا ہوگا تو یہ بھی ناجائز ہے اس لیے کہ مقصود میں شرکت نہیں ہے چونکہ "لاحدہما" سے مراد رب الارض بھی ہو سکتا ہے اور عامل بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے۔

فان شرط تنصیف سے چھٹی صورت بیان کر رہے ہیں کہ اس بات کی شرط لگائی گئی اناج نصف نصف ہوگا اور بھوسہ بیج و ایسے کا ہوگا تو یہ جائز ہے اس لیے کہ یہ شرط مقتضی عقد کے موافق ہے کیونکہ بھوسہ اس کے بیجوں کی بڑھوتری ہے البتہ مشانخ بیج رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرف پر بناء کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بھوسہ بھی دونوں میں مشترک ہوگا۔

او لم يتعرض سے ساتویں صورت بیان کر رہے ہیں کہ عقد میں اناج مقصود ہے اس میں شرکت ہے اور بھوسہ غیر مقصود ہے البتہ بھوسہ بعض کے نزدیک بیج و ایسے کا ہوگا اور بعض کے نزدیک دونوں کے مابین مشترک ہوگا اناج کے تابع ہونے کی وجہ سے کہ جس طرح اناج جو اصل ہے اس میں شرکت ہے تو بھوسہ جو تابع ہے اس میں بھی شرکت ہوگی۔

[هذا الكلام ماخوذ من رد المحتار ان شاء فارجع اليه / ۲۷۲]

و كذا لو كان چوں کہ عقد مزارعت میں چار اشیاء ہوئی ہیں۔ ز میں، جانور، کام، بیج ان چاروں کے لحاظ سے سات صورتیں بنتی ہیں جس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اور شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان میں سے تین صورتیں جائز ہیں اور چار ناجائز ہیں۔

جاںز صورتیں:

چنان چہ اگر ز میں اور بیج زید کا ہو اور جانور اور عمل عمر و کا ہو تو یہ جائز ہے گویا کہ بیج اور ز میں والا عمل کرنے والے کو اجرت پر لینے والا ہے اور عامل کے تابع جانور کو بھی اجرت پر لینے والا ہواں لیے یہ جائز ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ز میں زید کی ہو اور بقیہ تینوں اشیاء عمر و کی ہوں تو یہ بھی جائز ہے گویا کہ بیج والا (یعنی عمر و) ز میں کو اجرت معلومہ

کے بد لے اجرت پر لے رہا ہے الہذا یہ ناجائز ہے۔
تیسری صورت یہ ہے کہ عمل زید کا ہوا اور بقیہ تینوں اشیاء عمر و کی ہوں تو یہ بھی ناجائز ہے گویا کہ عمر و عامل یعنی زید کو اجرت پر لے رہا ہے
چنانچہ یہ ناجائز ہے۔ ان تینوں صورتوں میں اصل یہ ہے کہ نفع والا مستأجر ہے۔

ناجائز صورتیں:

یہ چار صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ زمین اور جانور زید کے ہوں اور عمل اور نفع عمر و کا ہو یہ ناجائز ہے اس لیے کہ نفع والا یعنی عمر و زمین کو اجارہ پر لے رہا ہے اور جانور کی شرط بھی زمین والے پر ہوئی تو یہ شرط اجارہ کو فاسد کرتی ہے اس لیے کہ جانور کو زمین کے تابع ہو کر اجارہ پر نہیں لیا جا سکتا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ جانور اور نفع زید کے ہوں اور عمل اور زمین عمر و کا ہو تو یہ ناجائز ہے اس لیے کہ زمین کو عمل کے تابع کر کے اجارہ پر نہیں لیا جا سکتا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ نفع زید کے ہوں اور بقیہ تینوں اشیاء عمر و کی ہو تو یہ بھی ناجائز ہے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ جانور زید کے ہوں اور بقیہ تینوں اشیاء عمر و کی ہوں تو یہ بھی ناجائز ہے اس لیے کہ جانور کو اجرت مجہول کے بد لے اجارہ پر لیٹالازم آئے گا اور یہ ناجائز ہے۔

وجہ حصر:

اعلم انہا التقسيم سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ان سات صورتوں میں وجہ حصر یہ ان کر رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ان چار اشیاء میں سے ایک شئی دو نوں میں سے ایک کی طرف سے ہوگی اور بقیہ تینوں اشیاء دوسرے کی طرف سے ہوں گی اس بناء پر کل چار صورتیں بنیں گی کہ زمین ایک کی ہوا اور بقیہ اشیاء دوسرے کی ہوں یا عمل ایک کا ہوا اور بقیہ دوسرے کی ہوں یا نفع ایک کا ہوا اور بقیہ دوسرے کی ہوں یا جانور ایک کے ہوں تو ان میں سے پہلی دو صورتیں جائز ہیں اور تیسری اور چوتھی صورت فاسد ہے۔

یا پھر چار اشیاء میں سے دو ایک طرف سے ہوں گی اور دو دوسری طرف سے ہوں گی تو اس بناء پر تین صورتیں بنیں گی کہ زمین اور نفع ایک کے ہوں اور بقیہ دو اشیاء دوسرے کی ہوں یا زمین اور جانور ایک کا ہوں اور بقیہ دو اشیاء دوسرے کی ہوں یا زمین اور عمل ایک کا ہوا اور بقیہ دو اشیاء دوسرے کی ہوں ان میں سے پہلی صورت جائز ہے اور دوسری دو نوں فاسد ہیں اس لیے کہ زمین اور عمل اور اسی طرح زمین اور جانور میں کوئی مناسبت نہیں ہے البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کا جواز مروی ہے۔

[فیه تفصیل مذکور فی الشامی: ۲۷۸]

عبارت:

و اذا صحت فالخارج على الشرط ولا شئ للعامل ان لم يخرج و يغير من ابي عن المضى الارب البذر
لان المضى عليه لا يخلو عن ضرر و هو اهلاك البذر و متى فسدت فالخارج لرب البذر و الآخر مثل ارضه
او عمله و لا يزيد على ما شرط و عند محمد بالغا ما بلغ و لو ابى رب البذر و الارض وقد كرب العامل فلا
شئ له حكمها و يسترضى ديانه و تبطل بموت احدهما و تفسخ بدين محوج الى بيعها هذا قبل ان ينبت الزرع
لكن يوجب ديانة ان يسترضى اذا عمل العامل اما اذا انبت الزرع ولم يستحصد لا يابع الارض لتعلق حق

المزارع. فان ممضت المدة ولم يدرك الزرع فعلى العامل اجر مثل نصيبيه من الارض حتى يدرك اي اجر مثل ما فيه نصيبيه ونفقة الزرع عليهما بالحصص مثل اجرة السقى وغيره من العمل يكون عليهما بقدر الحصة كالاجر الحصاد والرفاع والدوس والتذرية فانه عليهما بقدر حصة كل واحد منهمما فان شرط على العامل فسدت لانه شرط مخالف لمقتضى العقد فان الزرع اذا ادرك انتهي العقد و عن ابی يوسف رحمه الله تعالى انه يصح اي يصح الشرط ولزمه للتعامل قال الامام السرخسی رحمه الله تعالى هو الاصح في ديارنا لوقوع التعامل فالحاصل ان كل عمل قبل الادراك فهو على العامل وما بعد فعلهما بالحصص والله اعلم.

ترجمہ:

اور جب مزاعت صحیح ہو جائے تو پیداوار شرط کے مطابق تقسیم ہوگی اور اگر پیداوار نکلی تو عامل کو کچھ نہ ملے گا اور جو شخص عقد پر باقی رہنے سے انکار کرے تو اس کو مجبور کیا جائے گا مگر تجہیز والے کو مجبور نہ کیا جائے گا اس لیے کہ اس کو مجبور کرنا ضرر سے خالی نہیں ہے اور وہ شخص کو ضائع کرنا ہے اور جب مزاعت فاسد ہوگئی تو پیداوار تجہیز والے کی ہوگی اور دوسرے کو اس کی زمین یا عمل کے بقدر اجرت ملے گی اور مشروط پر زائد نہ کی جائے گی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقتی مقدار کو پہنچ جائے (وہی دی جائے گی) اور اگر زمین اور تجہیز والے نے انکار کر دیا دراں حاکمہ عامل ہل چلا پکا ہے تو اس کے لیے حکما کوئی شکی نہیں ہے اور دیانتہ اس کو راضی کیا جائے گا اور ان میں سے ایک کی موت سے عقد باطل ہو جائے گا اور ایسے دین کی وجہ سے عقد قائم ہو جائے گا جو زمین کی بیع کی طرف مجبور کرے یہ حکم کھیتی اگئے سے قبل کا ہے لیکن دیانتہ واجب ہے کہ اس کو راضی کرے جب کہ عامل نے کام کیا ہو۔ بہر حال جب کھیتی اگ آئی اور کپی نہیں تو زمین کو مزاعت کا حق متعلق ہونے کی وجہ سے فروخت نہیں کیا جائے گا اور اگر مدت گزر گئی اور کھیتی نہیں پکی تو عامل پر زمین کی اس کے حصے کے بقدر اجرت مثل واجب ہوگی یہاں تک کہ کھیتی پک جائے یعنی اتنی اجرت مثل واجب ہوگی جو اس کے حصے میں آئے اور کھیتی کا خرچ ان دونوں پر حصوں کے بقدر ہوگا جیسا کہ پانی دینے اور اس کے علاوہ کام کی اجرت ان دونوں پر حصہ کے بقدر ہوگی جیسے گا مٹنے اور اٹھانے اور گاہنے اور بھکیرنے کی اجرت چنانچہ یہ ان میں سے ہر ایک پر اس کے حصے کے بقدر ہوگی لہذا اگر عامل پر شرط لگائی گئی تو یہ فاسد ہے اس لیے کہ یہاں کی شرط ہے جو عقد کے مقتضی کے مخالف ہے کیونکہ کھیتی جب پک جائے تو عقد پورا ہو جاتا ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ یہ شرط صحیح ہے اور تعامل کی وجہ سے اس کو لازم ہوگی امام سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے علاقوں میں یہی قول تعامل کے وقوع کی وجہ سے اصح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کھیتی پکنے سے قبل ہر عمل عامل پر ہے اور کھیتی پکنے کے بعد دونوں پر حصوں کے بقدر ہے۔ والله اعلم

ترشیح:

واذا صحت یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب عقد مزاعت صحیح ہو جائے تو اب جو پیداوار نکلے گی وہ دونوں کے درمیان طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم ہوگی مثلاً ایک کے لیے ثابت اور دوسرے کے لیے دو ثابت کی شرط تھی تو اسی طرح پیداوار تقسیم کی جائے گی اور اگر پیداوار بالکل نہ ہوئی تو اب عامل کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا اس لیے کہ عامل پیداوار کا مستحق شرکت کی وجہ بتا ہے اور شرکت پیداوار کے علاوہ نہیں ہے چنانچہ اس کو کچھ نہ ملے گا ویجبر من ابی یعنی مزاعت صحیح ہوگئی اس کے بعد ایک شخص نے عقد مزاعت کرنے سے انکار کر دیا تو اب دیکھا جائے گا اگر انکار کرنے والا تجہیز والے والا نہ ہو تو اس کو مجبور کیا جائے گا اور اگر انکار کرنے والا وہ شخص ہو جو تجہیز والے کا تو اس کو عقد کے باقی رکھنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اس لیے کہ اس کو مجبور کرنے کی صورت میں یہ لازم

آئے گا کہ وہ اپنے نیچے کو زمین میں ڈال دے تواب ہو سکتا ہے کہ پیداوار ہو یا نہ ہو چنانچہ اس کے عامل کے ہلاک ہونے کا ذرہ ہے۔ البتہ علامہ رملی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اگر نجاح والا عقد سے انکار اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کو پہلے شخص سے ستاعمال مل گیا ہے یا وہ خود عمل کرنا چاہتا ہے تواب اس کو مجبور کیا جائے گا کیونکہ یہاں عقد ختم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ [شامی: ۲۷۹/۶]

و متى فسدت یعنی جب عقد مزارعہ فاسد ہو گیا تواب پیداوار شرط کے مطابق تقسیم نہ ہوگی بلکہ پیداوار اس شخص کو ملے گی جس کائنات ہے اور دوسرا کو اس کی زمین کی اجرت یا عامل کی اجرت مل جائے گی اور یہ اجرت اتنی زیادہ نہ ہو کہ طے شدہ شرط سے بھی بڑھ جائے مثلاً طے شدہ شرط کے مطابق اس شخص کو دس میں گندم ملنی تھی جس کی قیمت مثلاً تین ہزار روپے ہے تواب عقد فاسد ہونے کی صورت میں اجرت تین ہزار سے کم دی جائے گی اور اس سے زائد نہ دی جائے گا اگرچہ اجرت زیادہ بنتی ہو یہ شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کا نہ ہب ہے جب کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین یا عامل کی جس قدر اجرت بنتی ہو وہ ہی دی جائے گی خواہ وہ شرط سے بڑھ جائے۔

راجح قول:

مشايخ رحمہما اللہ تعالیٰ نے شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ [اللباب: ۲/۱۳۷، بہشتی زیور: ۸۳۲]

ترتیب:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ”بالغا ما بلغ“، ”میں“ بالغا“ حال کی بنا پر منصوب ہے اور ”ما“ اسم موصول ہے یا انکرہ موصوف ہے اور ”بلغ“ اس کا صلمہ یا صفت ہے اور پھر موصوف صفت یا موصول صلمہ کر ”بالغا“ کا مفعول بنے گا۔

ولو ابی رب سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب عامل نے زمین میں ہل و غیرہ چالا لیا اس کے بعد زمین والے نے جس کے ذمے نیچے ڈالا بھی ہے عقد مزارعہ سے انکار کر دیا تواب قاضی عامل کے لیے کسی شئی کا فیصلہ نہیں کرے گا اس لیے کہ عامل نے محض عامل کیا ہے جو کہ نفع ہے اور منافع کی قیمت نہیں ہوتی البتہ زمین والا دیانتہ اس کو راضی کرے گا لہذا مفتی اس بات کا فتویٰ دے گا کہ عامل کو کچھ نہ کچھ اجرت ضرور دو اور اس کی اجرت کی مقدار معین نہیں ہے۔ [شامی: ۲۷۹/۶]

و تفسیخ سدین سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زمین پر عقد مزارعہ کیا اور عامل نے اس میں کام کیا اور نیچے ڈال دیے اس کے بعد زمین کے مالک کو دین کی وجہ سے زمین فروخت کرنا پڑی دراں حاکمہ زمین والے کا اس زمین کے سوا کوئی دوسرا مال نہیں ہے تواب دیکھا جائے گا کہ فصل اُگی ہے یا نہیں اگر فصل نہیں اُگی تو عقد مزارعہ نیچے کیا جائے گا اور مالک کے ذمے واجب ہے کہ وہ عامل کو دیانتہ کچھ اجرت دے کر راضی کرے اور اگر فصل اُگ چکی ہو تواب عقد مزارعہ نیچے کیا جا سکتا کیونکہ اس فعل کے ساتھ عامل کا حق متعلق ہو چکا ہے البتہ اگر عامل خود اجازت دے تو زمین کو عقد مزارعہ نیچے کر کے فروخت کرنا جائز ہے۔

فان مضت یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس کا مقابل والے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دو شخصوں کے درمیان عقد مزارعہ ہوا اور چھ ماہ کی مدت طے ہوئی اور معاملہ شروع ہو گیا لیکن چھ ماہ گزرنے کے باوجود کھینچی نہیں پکی بلکہ مزید دو ماہ بعد کھینچی پکی تواب چونکہ عقد چھ ماہ کی مدت پر ہوا تھا لیکن زمین آٹھ ماہ تک اس کھینچی میں مشغول رہی تواب دو ماہ کی زمین کی اجرت مثل معلوم کی جائے گی اور عامل پر اس کے حصے کے بقدر اجرت مثل واجب ہو گی۔

فائدہ:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ”فان مضت“ میں ”فاء“ کی بجائے ”واو“ ذکر کرتے۔ ”وان مضت“ تو یہ بہتر ہوتا کیونکہ ”فاء“ لانے کی

صورت میں اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ما قبل سے متعلق ہے حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔
و نفقة الزرع یعنی عقد مزارعہ کی طے شدہ مدت گزرنے کے بعد کھیتی پر ہونے والا خرچ خواہ کھیتی پکنے سے قبل ہو یا بعد میں ہو دنوں پر ان کے حصوں کے بقدر واجب ہو گا جیسے فصل کو کامنے اور اٹھانے اور گاہنے اور بھوسے کو الگ کرنے کی اجرت دنوں پر ہو گی البتہ اگر مدت مزارعہ نہ گزری تو قابل کھیتی پکنے سے قبل ہونے والا خرچ صرف عامل پر واجب ہو گا اور کھیتی پکنے کے بعد دنوں پر خرچ واجب ہو گا۔
فان شرط علی العامل یعنی مدت مزارعہ گزرنے کے بعد ہونے والا خرچ ان دنوں پر واجب ہے لیکن اگر اس خرچ کی صرف عامل پر شرط رکھی گئی تو عقد فاسد ہو جائے گا کیونکہ جب کھیتی پک چکی تو عقد پورا ہو چکا لہذا یہ شرط لگانا مشقی عقد کے خلاف ہے۔
چنانچہ اس کی وجہ سے عقد فاسد ہو جائے گا۔ یہ ظاہر اڑاویہ ہے البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ اس خرچ کی شرط عامل پر لگانا بھی صحیح ہے اور تعامل کی وجہ سے یہ شرط عامل کو لازم ہو گی امام سرسخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے علاقوں میں چوں کہ یہی تعامل جاری ہے اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول صحیح ہے۔
فالحاصل ان سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ عمل جو کھیتی پکنے سے قبل ہو اس کا خرچ عامل پر ہو گا اور جو خرچ کھیتی پکنے کے بعد ہو گا وہ دنوں پر ان کے حصوں کے بقدر لازم ہو گا۔ علامہ حسنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ مدت مزارعہ گزرنے سے قبل اور کھیتی پکنے سے قبل ہونے والا خرچ عامل پر ہو گا چنانچہ مدت مزارعہ گزرنے کے بعد کھیتی پکنے سے قبل ہونے والا خرچ دنوں کے ذمے لازم ہو گا جیسا کہ گزر چکا ہے۔



كتاب المساقاة

چونکہ مساقات میں درخت دیئے جاتے ہیں اور مزارعہ میں زمین دی جاتی ہے اور زمین اصل اور درخت فرع ہیں۔ لہذا اصل کے احکام کو مقدم کیا ہے۔

لغوی معنی:

”مساقۃ“ سقی سے ماخوذ ہے جس کا معنی، ”کسی کو درخت بیانی پر دینا کہ وہ اس کو سیراب کر کے قابل انتفاع بنائے۔“

شرعی معنی:

شرعی معنی کا کتاب میں ذکر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ

سبب:

اس کے جواز کا سبب لوگوں کو اس کی حاجت ہے۔

رکن:

اس کا رکن ایجاد و قبول ہے۔

شرط:

اس کی شرط یہ ہے کہ عاقد اور ساقی اہل عقد میں سے ہوں اور اس کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ پھل کام کرنے مزید سے زیادہ ہوں۔

صفت:

اس کی صفت یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔

حکم:

اس کا حکم پیداوار میں شرکت ہے۔

عبارت:

هی دفع الشجر الی من يصلحه كجزء من ثمرة و هي كالمزارعة حكما و خلافا و شروطاً فان حكم المساقات حكم المزارعة في ان الفتوى على صحتها و في انها باطلة عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما و في ان شروطها كشروطها في كل شرط يمكن وجودها في المساقاة كهنية العاقدين و بيان نصيبي العامل والتخلية بين الاشجار و بين العامل و الشرکة في الخارج فاما بيان البذر و نحوه فلا يمكن في المساقاة و عند الشافعى رحمه الله تعالى المساقاة جائزة والمزارعة انما تجوز في ضمن المساقاة لأن الاصل هو

المضاربة و المساقۃ اشیہ بھا لان الشرکة فی الربع فقط و فی المزارعۃ لا تجوز الشرکة فی مجرد الربع و هو ما زاد علی البذر. الا المدة فانها تصح بلا ذکرها استحسانا فان لا دراک الشمر وقتا معلوما و تقع علی اول شمیر خرج.

ترجمہ:

مساقات درختوں کو اس شخص کو دینا ہے جو ان کی دیکھ بھال اس کے پھلوں میں سے ایک حصے کے بدلتے کرے گا اور یہ حکم اور اختلاف اور شرائط میں مزارعۃ کی طرح ہے کیونکہ مساقۃ کا حکم مزارعۃ کا حکم ہے اس بارے میں کہ اس کے صحیح ہونے پر فتویٰ ہے اور اس بارے میں کہ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطل ہے، برخلاف صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے ہے اور اس بارے میں کہ اس کی شرائط مزارعۃ کی شرائط کی طرح ہیں، ہر اس شرط کے بارے میں جس کا مساقات میں وجود ممکن ہے جیسے عائدین کی الہیت اور عامل کا حصہ بیان کرنا اور درختوں اور عامل کے درمیان تخلیہ کرنا اور پیداوار میں شرکت کرنا، بہر حال نجع اور اس جیسی اشیاء کا بیان مساقات میں شرط نہیں ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساقات جائز ہے اور مزارعۃ سوائے اس کے نہیں کہ مساقات کے ضمن میں جائز ہے اس لیے کہ اصل مضاربت ہے اور مساقات اس کے مشابہ ہے اس لیے کہ فقط نفع میں شرکت ہے اور مزارعۃ میں محض نفع میں شرکت جائز نہیں ہے اور یہ وہ ہے جو نجع پر زائد ہو، مگر مدت (مساقات میں شرط نہیں ہے) کیونکہ مساقات اس کے ذکر کیے بغیر استحسانا جائز ہے کیونکہ پھلوں کے پکنے کے لیے ایک وقت معلوم ہوتا ہے اور مدت پہلے نکلنے والے پھل پر واقع ہوگی۔

ترتیخ:

ہی دفع الشجر..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ مساقات کی شرعی تعریف کر رہے ہیں کہ مساقات اسے کہا جاتا ہے کہ درخت کی ایسے شخص کو دیے جائیں جو پھلوں کے حصے کے بدلتے ان کی رکھوائی کرے گا۔ مثلاً ان کو پانی دینا ان کی شاخوں کو درست کرنا وغیرہ۔ مساقات تین باتوں میں مزارعۃ کی طرح ہے۔

(۱) حکم۔ (۲) اختلاف۔ (۳) شرائط۔

پہلی بات یعنی مساقات کا حکم مزارعۃ والا ہے چنانچہ جس طرح مزارعۃ کے جواز پر فتویٰ ہے، اس طرح مساقات کے جواز پر بھی فتویٰ ہے۔

دوسری بات یعنی مساقات میں بھی وہی اختلاف ہے جو مزارعۃ میں ہے چنانچہ مساقات امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطل ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے۔

تیسرا بات یعنی مزارعۃ کی آنٹہ شرائط تھیں ان میں سے جس شرط کا وجود مساقات میں پایا جاسکتا ہے وہ مساقات میں ضروری ہے اور وہ چار شرطیں ہیں۔ (۱) عائدین کی الہیت۔ (۲) عامل کے حصے کو بیان کرنا۔ (۳) عامل اور درختوں کے درمیان تخلیہ کرنا۔ (۴) پھلوں میں شرکت۔ البتہ اس کے علاوہ شرائط جیسے نجع کا بیان اور جانوروں کا ذکر وغیرہ تو یہ مساقات میں شرط نہیں ہے۔

و عند الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ..... امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساقات جائز ہے اور مزارعۃ مساقات کے ضمن میں جائز ہے کیونکہ ان کے نزدیک اصل مضاربت ہے اور مضاربت میں صرف نفع میں شرکت ہوتی ہے اور مساقات اس کے زیادہ مشابہ ہے کیونکہ اس میں بھی محض نفع میں شرکت ہوتی ہے جب کہ مزارعۃ میں صرف نفع میں شرکت نہیں ہوتی بلکہ دوسرے امور میں بھی شرکت ہوتی ہے۔

الا المدة يـا استثناء "شـروطـا" سـے ہـے لـيـنـيـ مـسـاقـاتـ مـيـلـ مـدـتـ شـرـطـنـيـںـ ہـےـ،ـ چـنـاـلـ چـاـگـرـمـدـتـ ذـكـرـنـىـ کـيـ گـئـيـ توـقـعـ اـخـسـانـاـ جـاـزـ ہـوـجـائـےـ گـاـ اـسـ لـيـےـ کـہـ چـھـلـوـںـ کـےـ پـکـنـےـ کـاـ اـیـکـ وقتـ مـعـلـومـ ہـوتـاـ ہـےـ جـسـ مـیـںـ عـمـوـماـ فـرـقـنـیـںـ ہـوـتـاـ لـہـاـ جـبـ مـدـتـ کـاـ بـیـانـ شـرـطـنـيـںـ ہـےـ توـ مـدـتـ نـلـفـنـےـ وـاـلـےـ چـھـلـ کـےـ شـرـوـعـ سـےـ شـارـہـوـگـیـ۔ـ

عبارت:

و ادراک بذر الرطبة کا دراک الشمر الرطبة بالفارسية "ست تر" فانه اذا دفع الرطبة مسافة لا يشرط بيان المدة فيمتد الى ادراک بذر الرطبة فان كادراک الشمر في الشجر اقول الغالب ان البذر فيها غير مقصود بل تحصد في كل سنة ست مرات او اكثر فان اريد البذر تحصدمرة وترك في المرة الثانية الى ان يدرك البذر فيما لا يوخذ البذر يعني ان يقع على السنة الاولى على السنة التي تنتهي الرطبة فيها بعد العقد و ذكر مدة لا يخرج الشمر فيها يفسدها و مدة قد يبلغ فيها وقد لا يصح اي ذكر مدة كذا يصح فلو خرج في وقت سمي فعلى الشرط والا فللعامل اجر المثل اي ليعمل الى ادراک الشمر.

ترجمہ:

اور بر سین کے یہوں کا پکنا چھلوں کے پکنے کی طرح ہے "الرطبه" فارسی میں "ست تر" کوہا جاتا ہے چنانچہ جب بر سین مساقات پر دی گئی پس یہ درختوں میں پھل پکنے کی طرح ہے میں کہتا ہوں کہ اکثر طور پر اس میں بیش مقصود نہیں ہوتے بلکہ یہ ہر سال چھ یا اس سے زائد بار کاٹی جاتی ہے چنانچہ اگر بیش مقصود ہوں تو ایک مرتبہ کاٹی جائے اور دوسری مرتبہ چھوڑ دی جائے یہاں تک کہ بیش پک جائیں اور بیش نہ لینے کی صورت میں مناسب ہے کہ عقد اس سال پر واقع ہو جس میں بر سین ختم ہو جائے گا اور ایسی مدت کو ذکر کرنا جس میں پھل نہ نکلے یہ مساقات کو فاسد کر دیتا ہے اور ایسی مدت کو ذکر کرنا صحیح ہے جس میں کبھی پھل پک جاتا ہو اور کبھی نہ پکتا ہو یعنی اتنی مدت کو ذکر کرنا صحیح ہے چنانچہ جب اگر یہ پھل مقرر وقت میں نکل آئے تو تقسیم شرط کے مطابق ہو گی ورنہ عالم کے لیے اجرت مثل ہو گی تاکہ وہ چھلوں کے نکلنے تک کام کرتا رہے۔

تشريع:

و ادراک بذر الرطبة لـيـنـيـ اـيـكـ خـصـنـ نـيـ بـرـسـينـ کـيـ فـصـلـ کـيـ مـرـتـبـ کـاـ مـثـلـ کـےـ بـعـدـ کـسـ خـصـنـ کـوـ مـسـاقـاتـ پـرـ دـےـ دـیـ کـہـ وـہـ اـسـ کـوـ پـانـیـ وـغـیرـہـ دـےـ چـنانـچـہـ اـسـ مـیـںـ سـےـ نـلـفـنـےـ گـاـ وـہـ ہـمارـےـ درـمـیـانـ نـصـفـ نـصـفـ ہـوـگـاـ اـوـ مـدـتـ مـقـرـرـنـیـںـ کـیـ تـوـابـ یـہـ عـقـدـ سـچـ ہـےـ کـیـونـکـہـ بـیـشـ پـکـنـےـ کـیـ عـمـوـماـ اـیـکـ مـدـتـ مـقـرـرـ ہـوـتـیـ ہـےـ اـوـ بـاـقـیـ مـانـدـہـ بـرـسـینـ مـالـکـ کـاـ ہـوـگـاـ اـوـ اـسـ مـیـںـ شـرـکـتـ کـیـ شـرـطـ رـکـھـیـ توـ عـقـدـ فـاسـدـ ہـوـجـائـےـ گـاـ۔

[دریختار: ۲۸۸، الگفایہ: ۳۹۹]

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا اعتراض:

اقول الغالب سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ متن کی عبارت پر اشکال کر رہے ہیں کہ عام طور پر بر سین کاشت کرنے سے مقصود بیش نہیں ہوتے بلکہ بر سین کی فصل ہوتی ہے جو سال میں چھ یا اس سے زائد بار کاٹی جاتی ہے چنانچہ اگر بر سین کاشت کرنے سے مقصود بیش ہوتے تو اس کو ایک بار کاشت لیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے تاکہ بیش پک جائیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا لہذا مقصود بیش نہیں ہیں چنانچہ جب بیش مقصود نہیں ہیں تو اب اگر کوئی شخص بر سین مساقات پر دے تو مناسب یہ ہے کہ عقد اس سال پر واقع ہو جس میں عقد کے بعد بر سین ختم ہو جائے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیش پکنے تک کے لیے عقد مساقات کو جائز قرار دیا ہے اور شارح رحمہ

الله تعالى نے فرمایا ہے کہ بیچ مقصود نہیں ہے۔ لہذا اس کی مساقات کرنے کا کوئی مقصود نہیں ہے۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کو جواب:

صاحب شرح الفقایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعتراض کی بنیاد متن کی عبارت کی تشریح "فانہ اذا دفع الرطبة مساقاة الخ" سے کرنا ہے اور متن کی عبارت کو اس معنی پر محول کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جب ایک شخص برسمِ کوئی مرتبہ کاٹ چکا اور کامِ تمام ہو گیا اب اس سے صرف بیچ حاصل ہو گا تو اس شخص نے بیچ حاصل کرنے کے لیے برسمِ مساقات پر دے دیا تو یہ جائز ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ کسی نے محض برسمِ کی فصل کائی ہے قبل مساقات پر دے دی اور مقصود بیچ ہے۔ جیسا کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے چنانچہ یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ [شرح الفقایہ: ۳/۱۶۰]

عبارت کی تصحیح:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت "فِيمَا لَا يَوْلَدُ الْبَذْرُ" اصل میں "فِيمَا لَا يَوْلَدُ الْبَذْرُ" ہے اور اس طرح "ینبغی ان یقع على السنة الاولى" کی بجائے "ینبغی ان یقع على السنة التي تنتهي الرطبة فيها بعد العقد" ہے۔ [شرح الفقایہ: ۳/۱۶۰] و ذکر مدة..... یعنی اگر عقد مساقات میں باعث کے مالک نے اتنی مدت بیان کی جس میں پھل تیار نہ ہوں گے مثلاً پھل چھ ماہ میں تیار ہوں گے اور مالک نے چار ماہ پر عقد کیا تو یہ عقد کرنا فاسد ہے اور اگر اتنی مدت تک عقد کیا جس میں پھلوں کے تیار ہونے اور تیار نہ ہونے دونوں کا اختلاف ہے تو اسی مدت ذکر کرنے سے عقد فاسد نہ ہوتا البتہ اب دیکھا جائے گا اگر ذکر کردہ مدت کے اندر اندر پھل تیار ہو گئے تو طے شدہ شرط کے مطابق پھل تقسیم ہوں گے اور اگر ذکر کردہ مدت میں پھل تیار نہ ہوئے تو عقد فاسد ہو جائے گا اور عامل کو اس کے عمل کی اجرت مثل ملے گی اور وہ پھلوں کے نکلنے تک کام کرتا رہے گا۔

نوث:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت "لِيَعْمَلَ إِلَيْهِ الْأَدْرَاكُ الشَّمْرُ" پر علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتراض و جواب نقل کیا ہے۔
[من شاء فليراجع ثمه: ۲/۲۸۷]

عبارت:

و تصح في الكرم والشجر والرطاب و اصول البازنجان والنخل و ان كان باقية ثمر الامدر كالمزارعة هذا عندنا و عند الشافعى رحمه الله تعالى لا تصح الا في الكرم والنخيل و انما تصح فيهما بحديث خبير و في غيرهما بقى على القياس و عندنا تصح في جميع ما ذكر لحاجة الناس ثم اذا صحت و ان كانت ثمر الشمر على الشجر الا ان يكون ثمر مدر كلانه يحتاج الى العمل قبل الادراك لا بعده كالمزارعة تصح اذا كان الزرع بقللاً و لا تصح اذا استحصد لكن اجارة الأرض لا تصح الا و ان تكون خالية عن زرع المالك. فان مات احدهما او مضته مدتها و الشمرني يقوم العامل عليه او وارثه و ان كره الدافع او ورثته اى مات العامل و الشمرني يقوم ورثة العامل عليه ان كره الدافع و ان مات الدافع يقوم العامل كما كان و ان كره ورثة الدافع استحسانا دفعا للضرر.

ترجمہ:

اور مساقات انگور کی بیلوں اور درختوں اور بیگن کی جڑوں اور کھجوروں میں صحیح ہے اگرچہ پھل موجود ہوں، بچلوں کے کپے ہونے کی صورت میں صحیح نہیں ہے جس طرح مزارعہ ہے۔ یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساقات صرف انگور کی بیلوں اور کھجوروں میں ہی صحیح ہے اور سوائے اس کے نہیں کہ ان میں خیری کی حدیث کی وجہ سے صحیح ہے اور ان دونوں کے علاوہ مساقات قیاس پر باقی رہے گی اور ہمارے نزدیک لوگوں کی حاجت کی وجہ سے مذکورہ تمام اشیاء میں صحیح ہے، پھر جب مساقات صحیح ہے تو یہ صحیح ہوگی اگرچہ پھل درختوں پر ہوں مگر یہ کہ پھل کے ہوئے ہوں (تو صحیح نہیں ہے) اس لیے کہ پکنے سے قبل عمل کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ پکنے کے بعد جس طرح مزارعہ صحیح ہوتی ہے جب کہ کھیتی کچی ہو اور جب کھیتی کافی ہو تو مساقات صحیح نہیں ہے لیکن زمین کا اجارہ صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ زمین مالک کی کھیتی سے خالی ہو اور اگر ان دونوں میں سے ایک مرگیا مساقات کی مدت گزر چکی دراں حالکہ پھل کے ہیں تو عامل یا اس کا وارث اس پر قائم رہے گا اگرچہ دینے والا یا اس کا وارث ناپسند کرے یعنی عامل مرگیا دراں حالکہ پھل کچا ہو تو عامل کا وارث اس پر قائم رہے گا اگرچہ دینے والا ناپسند کرے اور اگر دینے والا مرگیا تو عامل قائم رہے گا جس طرح تھا اگرچہ دینے والے کا وارث ناپسند کرے ضرر کو دور کرنے کے لیے استحساناً باقی رکھا جائے گا۔

ترجمہ:

وَتَصْحِحُ فِي الْكَرْمِ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کن اشیاء میں مساقات صحیح ہے اور کن اشیاء میں مساقات صحیح نہیں ہے چنان چہ احناف کے نزدیک انگور کی بیلوں، درختوں، بیز یوں، بیگن کی جڑوں اور کھجوروں وغیرہ میں عقد مساقات صحیح ہے اگرچہ ان پر پھل موجود ہوں لیکن کپے نہ ہوں اور کسی عمل کی ضرورت ہو البتہ اگر پک چکے ہوں اور مزید عمل کی ضرورت نہ ہو تو عقد مساقات جائز نہیں ہے اس لیے کہ اجرت کا مستحق عمل کرنے سے ہو گا اور پکنے کے بعد عمل نہیں ہے لہذا اس کو اجرت بلا عمل ملے گی چنان چہ عقد مساقات ناجائز سے جیسا کہ عقد مزارعہ کھیتی تیار ہونے کے بعد کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ کھیتی تیار ہونے کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے، چنان چہ عقد مزارعہ صحیح نہیں ہے تو لہذا میں کو کرانے پر دینا جائز ہونا چاہیے تو لکن الارض سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ زمین کو اجارے پر دینا اس وقت جائز ہو گا جب مالک اپنی کھیتی زمین سے کاش لے گا۔

یہ احناف کے نزدیک ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقد مساقات صرف انگور کی بیلوں اور کھجوروں میں صحیح ہے اور ان میں صحیح ہونے کی دلیل حدیث خیر ہے اور ان دونوں کے علاوہ میں حدیث وارث نہیں ہے اور قیاس عقد مساقات کو جائز نہیں قرار دیتا لہذا یہ قیاس کے مطابق ان کے علاوہ عقد مساقات ناجائز ہے۔

احناف کی دلیل:

احناف کی دلیل یہ ہے کہ عقد مساقات حاجت کی وجہ سے جائز ہے اور حاجت عام ہے جب حاجت عام ہے تو اس پر مبنی حکم بھی عام ہو گا لہذا عقد مساقات مذکورہ بالامام اشیاء میں جائز ہے۔

عبارت:

ولا تفسخ الا لعذر و كون العامل مريضا لا يقدر على العمل او سارقا يخاف على سعة او ثمرة عذر. و دفع
فضاء مدة معلومة ليغرس ويكون الارض والشجر بينهما لا يصح لاشتراط الشركة فيما هو حاصل قبل الشركه

والشمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة غرسه واجر عمله لانه في معنى قفيز الطحان لانه استيجار ببعض ما يخرج من عمله نصف البستان وإنما لا يكون الغرس لصاحبه لانه غرس برضاه ورضي صاحب الأرض فصار تبعاً للارض وحيلة الجواز ان يبيع نصف الاغراس بنصف الأرض ويستاجر صاحب الأرض العامل في ثلث سنين مثلاً بشئ قليل ليعمل في نصبيه والله اعلم.

ترجمة:

اور عقد عذر کی وجہ سے ہی فتح کیا جائے گا اور عامل کا ایسا مریض ہونا کہ وہ کام پر قادر نہ ہو یا عامل کا چور ہونا جس سے مکحوروں کی شاخوں یا چھلوں کے چوری ہونے کا ذرہ ہو تو یہ عذر ہے اور خالی زمین کو مدت معلومہ کے لیے دینا تاکہ وہ اس میں پودے لگائے اور زمین اور درخت ان دونوں کے مابین تقسیم ہوں گے تو یہ تھیں نہیں ہے اس شئی میں شرکت کی شرط ہونے کی وجہ سے جو شرکت سے قبل حاصل ہے اور پھل اور پودے زمین والے کے ہوں گے اور دوسرے کے لیے اس کے پودوں کی قیمت اور اس کے کام کی اجرت ہوگی اس لیے کہ یہ قفس طحان کے معنی میں ہے کیوں کہ یہ اس شئی کو بعض کے بدلتے اجرت پر لینا ہے جو اس کے عمل سے نکلنے کی اور وہ باعث کا نصف ہے اور سوائے اس کے نہیں کہ پودے اس کے ساتھی کے ہوں گے اس لیے کہ اس نے اپنی رضامندی اور زمین والے کی رضامندی سے پودے لگائے ہیں تو یہ زمین کے تابع ہے اور جواز کا حلیہ یہ ہے کہ نصف پودوں کو نصف زمین کے بدلتے فروخت کر دے اور زمین والا عامل کو تھوڑی سی شئی کے بدلتے تین سال کے لیے اجارہ پر لے لےتاکہ وہ اپنے حصے میں کام کرے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ترجمہ:

و دفعہ فضاء سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی کو خالی زمین ایک مدت معلومہ تک دی تاکہ وہ اس میں درخت لگائے اور درخت لگائے اور زمین اور میان مشترک ہوں گے تو یہ عقد کرنا ناجائز ہے اس لیے کہ یہاں زمین میں بھی شرکت کی شرط لگائی جا رہی ہے حالاں کہ زمین شرکت سے قبل حاصل ہے۔ چنانچہ یہ عقد فاسد ہے تو اب پھل اور پودے زمین والے ہوں گے اور دوسرے کو اس کے پودے لگانے اور عمل کی اجرت ملے گی۔ اس لیے کہ یہ صورت قفس طحان کے معنی میں ہے۔ (تفیز طحان یہ ہے کہ کسی کو گندم پسوانے کے لیے دی جائے اور اجرت میں اسی گندم سے نکلنے والا آٹا طے کیا جائے) تو یہاں بھی چوں کہ باعث عامل کی محنت سے اگے گا تو اب اسی کی محنت سے اگنے والے باعث کا نصف دینا قفس طحان کے معنی میں ہے چنانچہ جس طرح قفس طحان والی صورت ناجائز ہے اسی طرح یہ صورت بھی ناجائز ہے اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ عامل کو اس کے پودے لگانے اور کام کرنے کی اجرت ملے گی اور درخت زمین والے کو ملیں گے اس لیے کہ عامل نے اپنی اور زمین والے کی رضامندی سے درخت لگائے تھے جب دونوں کی رضامندی شامل تھی تو یہ درخت زمین کے تابع ہو کر زمین والے کو ملیں گے۔

جواز کا حلیہ:

و حيلة الجواز شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عقد کے جائز ہونے کا حلیہ یہ بیان کیا ہے کہ عامل نصف درخت لگانے کو نصف زمین کے بدلتے فروخت کر دے اور زمین والا بھی عامل کو تین سال کے لیے تھوڑی سی اجرت دے کر اجارہ پر لے لےتاکہ وہ زمین والے کے حصے میں بھی کام کرے تو اس طرح یہ عقد جائز ہو جائے گا اور درخت لگانے کے بعد نصف باعث اور نصف زمین عامل کی ہوگی اور نصف باعث اور نصف زمین مالک کی ہوگی۔ البتہ اس حلیہ پر علامہ شاہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا ہے من شاء فلیراجه انا ترکتها مخالفۃ التطویل۔

كتاب الذبائح

كتاب الذبائح کی ماقبل سے مناسبت یہ ہے کہ جس طرح مساقات میں باغ سے فی الحال نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ مستقبل میں نفع حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح جانور سے فی الحال کھانے کا نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ ذبح کر کے کھانے کا نفع حاصل کیا جاسکتا ہے اسی وجہ سے کتاب الذبائح کو مساقات کے بعد ذکر کیا ہے۔ اس کتاب سے قبل چند باتیں بطور تمہید جانی چاہیے۔

رکن:

اس کا رکن کامنا اور زخمی کرنا ہے۔

شرط:

اس کی چار شرائط ہیں۔ (۱) آلہ جارحة تیز ہو۔ (۲) ایسا شخص ذبح کرے جو کسی آسمانی شریعت کا پیروکار یادگی ہو۔ (۳) جانور محلات میں سے ہو۔ (۴) بسم اللہ پڑھی جائے۔

حکم:

اس کا حکم یہ ہے کہ مذبوح جانور اگر ماکولات میں سے ہوتا اس کو کھانا حلال ہو جائے گا اور اگر غیر ماکولات میں سے ہوتا اس کا گوشت اور کھال وغیرہ پاک ہو جائے گی۔ [بخاری: ۲۹۵/۸]

عبارت:

حرم ذبیحة لم تذک اراد بالذبیحة حیوانا من شانه الذبیح حتى يخرج السمک و الجراد اذ ليس من شانهما الذبیح و انما حملناه على ذلك لا على المعنى الحقیقی اذ لو حمل عليه لكان المعنى حرمت مذبوح لم يذک ای لم یذکر اسم الله تعالیٰ علیہ فلا یتناول حرمة ما ليس بمذبوح كالمردية و النطیحة و نحوهما ولا ما اذا قطع من الحیوان الحی عضو و اذا حمل على المعنى المجازی و هو ما من شانه ان یذبح یتناول الصور المذکورة ثم فسر التذکیة بقوله. و ذکرة الضرورة جرح این کان من البدن والاختیار ذبح بین العلق و اللبة اللبة المنحر من الصدر و عروقه الحلقوم و المری و الودجان الحلقوم مجری النفس و المری مجری الطعام و الشراب و في الهدایة عکس هذا و هو سهو من الكاتب او غيره. فلم یجز فوق العقدة و البعض افتوا بنحو از لقوله عليه الصلة و السلام الزکوة بین اللبة. و اللھین و حل بقطع ای ثلث منها اقامۃ للاکثر مقاما الكل. و

بكل ما افرى الاوداج و انهر الدم ولو بليطة و مروءة الليطة قشر القصب و المروءة الحجر الذى فيه حدة الا سنا و ظفرا فائمتين اما اذا كانا منزوعين تحل الذبيحة عندنا لكن يكره و عند الشافعى رحمة الله تعالى الذبيحة بهما ميته لقوله عليه السلام ما خلا الظفر و السن فانهما مدعى العجشة و نحن نحمله على غير المنزوع فان العجشة كانوا يفعلون ذلك.

ترجمہ:

وہ ذبیحہ حرام ہے جس کو ذبح نہ کیا گیا۔ مصنف رحمة اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ سے ایسا حیوان مراد لیا ہے جس کی شان یہ ہے کہ ذبح ہو سکتا ہے لہذا مچھلی اور مٹی خارج ہو گئی اس لیے کہ ان دونوں کی شان ذبح ہونا نہیں ہے اور سوائے اس کے نہیں کہ ہم نے ذبیحہ کو اس معنی پر محمول کیا معنی حقیقی پر محمول نہیں کیا اس لیے کہ اگر اس پر محمول کرتے تو مطلب یہ ہوتا وہ مذبوح حرام ہے جس کو شرعی ذبح نہ کیا گیا ہو یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ ذکر کیا ہو تو یہ ان جانوروں کی حرمت کو شامل نہ ہوتا جو ذبح نہیں ہیں جیسے متربیہ اور نظیحہ اور ان دونوں جیسے مردار اور اس کی حرمت کو شامل نہ ہوتا جو زندہ حیوان سے عضو کاٹ لیا گیا ہوا اور جب اس کو مجازی معنی پر محمول کیا گیا دراں حاکمہ جانور کی حالت یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جاسکتا ہے تو یہ مذکورہ صورتوں کو شامل ہو گا پھر مصنف رحمة اللہ تعالیٰ نے تذکیرہ کی تفسیر اپنے اس قول سے کی اور ضرورة ذبح کرنا بدن کے کسی حصے میں زخم دینا ہے اور اختیاری ذبح کرنا حلق اور لبہ کے درمیان ہوتا ہے۔ لہ سینے کی طرف سے ذبح کرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے اور ذبح کرنے کی ریگیں حلقوم اور مری اور دودجان ہیں۔ حلقوم سائنس کی نالی اور مری کھانے اور پینے کی نالی اور ”حدایہ“ میں اس کا عکس مذکور ہے اور وہ کاتب سے یا کسی دوسرے سے بھول ہوئی ہے چنانچہ عقدہ (حلق سے اوپر کی جگہ) سے اوپر ذبح کرنا جائز نہیں ہے اور بعض علمائے نے جواز کا فتویٰ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ ذبح کرنا بالہ اور دونوں جبڑوں کے درمیان ہوتا ہے اور ان چاروں میں سے کسی تین رگوں کے کامنے سے حلال ہو جائے گا اکثر کوکل کے قائم مقام بناتے ہوئے اور ہر اس شیٰ سے حلال ہو جائے گا جو گوگول کوکاٹ دے اور خون بہادے اگرچہ بانس کے چپکلے یا تیز پتھر کے ساتھ ہو، ”لیطہ“ بانس کا تیز چپکلا اور ”مروہ“ وہ پتھر جس میں تیزی ہو، مگر اس دانت اور ناخن سے ذبح نہ ہو گا جو دونوں اپنی جگہ لگے ہوئے ہوں، بہر حال جب دونوں اکھاڑے ہوئے ہوں تو ہمارے نزدیک ذبیحہ حلال ہے لیکن مکروہ ہے اور امام شافعی رحمة اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں سے ہونے والا ذبیحہ مردار ہے آپ علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ ”ما خلا الظفر و السن فانهما مدعى العجشة“ اور ہم اس کوئی اکھاڑے ہوئے دانتوں اور ناخنوں پر محمول کرتے ہیں کیونکہ جب شی لوگوں ای طرح ذبح کرتے تھے۔

ترجمہ:

ذبیحہ سے مراد:

و حرم ذبیحة یہاں سے مصنف رحمة اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جانور جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے، اب ذبیحہ سے کیا مراد ہے تو شارح رحمة اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ذبیحہ سے اس کے مجازی معنی مراد ہیں یعنی ایسا جانور جس کو شرعاً ذبح کرنے کی صلاحیت ہو۔ لہذا مچھلی اور مٹی اس سے خارج ہو گئے کیونکہ ان کو ذبح کرنا ممکن ہے لیکن شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا جاسکتا۔ اب رہی یہ بات کہ ذبیحہ کے مجازی معنی کیوں مراد لیے اور حقیقی معنی کو چھوڑ دیا؟ اس کا جواب شارح رحمة اللہ تعالیٰ و انما حملنا سے شارح یہ بیان دے رہے ہیں کہ اگر ہم ذبیحہ کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرتے اور ذبح کیا ہوا جانور مراد لیتے تو اب مصنف رحمة اللہ تعالیٰ کی

عبارت کا مطلب یہ ہوتا کہ ایسا ذبح کیا ہوا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام ہے، جب یہ مطلب ہوتا تو یہ عبارت ان جانوروں کی حرمت کو شامل نہ ہوتی جن کو ذبح نہیں کیا گیا، جیسے متردید یا نظریہ وغیرہ حالاں کہ یہ جانور بھی مردار و حرام ہیں اس وجہ سے ذبح سے مراد مجازی معنی لیاتا کہ یہ متردید یا نظریہ کو شامل ہو جائے اور اسی طرح اگر ذبح کا حقیقی معنی مراد ہوتا تو یہ اس عضو کی حرمت کو شامل نہ ہوتا جس کو زندہ جانور سے الگ کیا گیا ہو، حالاں کہ وہ بھی حرام ہے، پتناں چہ ذبح کو معنی مجازی پر محول کرنے کی وجہ سے وہ صورتیں بھی اس عبارت میں داخل ہو جائیں گی۔

و ذکورة الضرورة یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ (۱) ذبح اختیاری۔ (۲) ذبح اضطراری۔ ذبح اضطراری یہ ہے کہ انسان ذبح کرنے کے ان آداب پر قادر نہ ہو جن کے بارے میں شریعت وارد ہوئی ہے تو ایسی صورت میں جس طرح ممکن ہواں جانور کو قتل کر دیا جائے جیسے ایک جانور پر دیوار گرگئی اور پکھ حصہ باہر رہ گیا اور اس میں حرکت باقی ہے تو اب اس کو جس طرح ممکن ہو ذبح کیا جائے گا اور اسی طرح شکار کا حکم ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھی جائے کہ ذبح اضطراری ذبح اختیاری کا بدل ہے لہذا جب تک ایک انسان ذبح اختیاری پر قدرت رکھتا ہو اس کے لیے بدل یعنی ذبح اضطراری کو اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جب اصل پر قادر نہ ہو تو اس وقت خلیفہ کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ذبح اختیاری یہ ہے کہ حلق اور لب کے درمیان ذبح کیا جائے۔ و عروقه یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان رگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو ذبح میں کاٹا جائے گا اور یہ چار رگیں ہیں۔ (۱) حلقوم۔ (۲) مری۔ (۳) دخون کی شریانیں۔

حلقوم سانس کی نالی کو کہا جاتا ہے اور مری کھانے اور پینے کی نالی کو کہا جاتا ہے۔ یہی تفسیر صحیح ہے جب کہ حدایہ میں اس کے عکس ہے کہ حلقوم کھانے اور پینے کی نالی کو کہا جاتا ہے اور مری سانس کی نالی کو کیا جاتا ہے۔ یہ قول صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کتاب سے لکھنے میں سہو ہوا ہے یا کسی دوسرے سے سہو ہوا ہے (اس سے مراد صاحب حدایہ ہیں لیکن ادب کی وجہ سے ”غیر“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کو مخترکیا ہے) [العنایۃ: ۲۱۳/۸]۔

علماء کرام حرمہم اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ذبح میں کتنی رگیں کاٹی جائیں گی اور کس کو کاٹنا ضروری ہے چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ ذبح کرنے میں صرف حلقوم اور مری پر اکتفاء کیا جائے گا اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ چاروں رگوں کو کاٹنا ضروری ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ ان چاروں میں سے حلقوم اور مری اور دونوں خون کی شریانوں میں سے ایک شریان کو کاٹنا ضروری ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ ان چاروں میں سے ہر ایک کا کثر حصہ کاٹنا شرط ہے اور امام ابو حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ ان چاروں میں سے تین پر اکتفاء کیا جا سکتا ہے خواہ وہ تین رگیں جو بھی ہوں۔

[العنایۃ: ۲۱۲/۸]

فلم یجز فوق یعنی اگر ایک شخص نے حلق کے اوپر والے حصے میں ذبح کیا تو یہ ذبح کرنا جائز ہے۔ البتہ بعض علماء نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کافرمان مبارک ہے ”الذکوة بین اللبة و اللحبین“ (اس مسئلے میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفید کلام کیا ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے یہاں ذکر کرنا طالعت کا باعث ہے۔ [من شاء فلییر اجعده: ۶/۲۹۲]

و بكل ما افری یعنی ہر وہ شئی جو ”او داج“ (مراد چاروں رگیں ہیں) کو کاث دیے اور خون بہادے تو اس سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اگر چہ وہ بانس کا چھلکا ہو یا تیز پتھر ہو کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا۔ البتہ دانت اور ناخن میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ الگ ہوں یعنی ناخن ہاتھ میں اور دانت منہ میں لگے نہ ہوں تو ان سے ذبح کیا جانے والا جانور حلال ہے لیکن ذبح کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے

تکلیف زیادہ ہو گئی اور اگر یہ دونوں اپنی جگہ پیوست ہیں تو ان سے ذمہ کیا جانے والا جانور حرام ہے یہ احتاف کا مذہب ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناخن اور دانت خواہ الگ ہوں یا اپنی جگہ پیوست ہوں دونوں صورتوں میں اس کا ذیجہ حرام ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو جیشیوں کی چھپری ذکر فرمایا ہے اور احتاف نے اس حدیث کو اس دانت اور ناخن پر محول کیا ہے جو اپنی جگہ پیوست ہوں اور الگ نہ ہوں کیوں کہ جب شی اسی طرح کرتے تھے۔

لغوی تحقیق:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ”لیطہ“ اور ”مروة“ کا ذکر کیا ہے۔ ”لیطہ“ لام کے کسرے اور یاء کے سکون کے ساتھ ہے اس کی جمع ”لیط“ ہے اور ”مروة“ کے بارے میں بعض شارحین حرمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہم کے کسرے کے ساتھ ہے لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ عرب کسی معتبر کتاب میں نہیں ملا بلۃ صاحب الدستور رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہم پر فتح قرار دیا ہے۔ [شامی: ۶/ ۲۹۶]

عبارت:

و ندب احداد شفترته قبل الاضجاج و کره بعده ارفاقا بالمدبوح والجر برجلها الى المذبح قوله و الجر بالرفع عطف على الضمير في کره و هو جائز لوجود الفصل و ذبحها من قفائهما و النخاع اي الذبح الشديد حتى يبلغ النخاع و هو بالفارسية حرام مغز و السلح قيل ان يبرد اى يسكن عن الااضطراب . و شرط كون الذابح مسلما او كتابيا ذميما او حربيا قال الله تعالى و طعام الذين اتوا الكتاب حل لكم و ذلك لأنهم يذكرون اسم الله عليها . فحل ذبيحهما لو مجنونا او امرأة و صبيا يعقل و يضبط حتى لو كان المجنون او الصبي بحيث لا يعقل و لا يضبط التسمية لا يحل ذبيحهما او اقلف او اخرس . لا ذبيحة و ثني و مجوسي و مرتد و تارك التسمية عمداً هذا عندنا لقوله تعالى و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه خلافا للشافعی و اقوى حجته قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحى الى محرما الى قوله تعالى او فسقا اهل لغير الله به فيحمل قوله تعالى و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق على ما اهل لغير الله به بقرينة قوله تعالى و انه لفسق و ايضا اذا لم يوجد هذا في المحرم يكون حلالا قلنا لا ضرورة في الحمل فإذا لم يحمل فيكون قل لا اجدناز لا قبل قوله و لا تأكلوا الشلا يلزم الكذب فان ترکھانا سيا حل عندر النسيان قال الله تعالى ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطئنا فقوله عليه السلام تسمية الله تعالى في قلب كل مسلم يحمل على حالة النسيان و عند مالک لا يحل في النسيان ايضا و کره ان یذکر مع اسم الله تعالى غيره و صلا لا عطفا کقوله باسم الله اللهم تقبل من فلان و حرم الذبيحة ان عطف نحو باسم الله و اسم فلان او فلان اى باسم الله و فلان . فان فصل صورة و معنى كالدعاء قبل الاضجاج و قبل التسمية لا باس به . وجوب نحر الابل و کره ذبحها في البقر و الغنم عکسه هکذا عندنا و عند مالک رحمہ الله تعالى ان ذبح الابل او نحر البقر و الغنم لا يحل .

ترجمہ:

اور جانور کو لٹانے سے قبل اپنی چھپری کو تیز کرنا مستحب ہے اور لٹانے کے بعد جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے کروہ ہے اور جانور کو مذہب

کی طرف پاؤں سے چھپنے کر لے جانا مکروہ ہے اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”والجر“ رفع کے ساتھ ہے ”کی ضمیر پر عطف ہے اور یہ فصل کے پانے جانے کی وجہ سے جائز ہے اور جانور کو گدی کی جانب سے ذبح کرنا اور حرام مغز کو ذبح کرنا (مکروہ ہے) یعنی اتنا سخت ذبح کیا کروہ ”ذخاع“ تک چھپنے کیا اور وہ فارسی میں حرام مغز کھلاتا ہے اور جانور کے ٹھنڈا ہونے سے قبل کھال اتارنا (مکروہ ہے) یعنی حرکت سے ساکن ہونے سے قبل اور ذبح کرنے والا مسلمان یا کتابی خواہ ذمی ہو یا حربی ہو یہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ طعام الذین اوتھو الكتاب حل لكم یا اس لیے کہ وہ جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور ان دونوں کاذبیہ حلال ہے اگرچہ وہ مجنون یا عورت یا ایسا بچہ ہو جو عقل رکھتا ہو اور اسم اللہ یا رکھتا ہو لہذا اگر مجنون یا بچہ اس طور پر ہو کہ عقل نہ رکھتا ہو اور اسم اللہ یاد نہ ہو تو ان کاذبیہ حلال نہیں ہے یا اقلف (جس کا ختنہ نہ کیا گیا ہو) ہو یا گوڑا ہو (یعنی ان کاذبیہ حلال ہو گا) نہ کہ بت کے چباری اور بجوی اور مرتد اور اسم اللہ جان بوجہ کے چھوڑنے والے کاذبیہ حلال ہے یہ ہمارے نزدیک ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے ”لاتاکلوا ممالم یذکر اسم اللہ علیہ“ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے برخلاف ہے اور ان کی سب سے قوی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان قل لا اجد فيما او حسی الى محroma اور فستفا اهل لغير الله به لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم کو اس پر محمول کیا ہے جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو واللہ تعالیٰ کے فرمان و انه لفسق کے قرئنے کی وجہ سے اور یہ بھی ہے کہ جب یہ حرم میں نہیں پایا گیا تو یہ حلال ہو گا ہم نے جواب دیا کہ محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ جب اس کو محول نہ کیا گیا تو ”کل لا اجد“ اللہ تعالیٰ کے فرمان ”لاتاکلوا“ سے قبل نازل ہونے والی آیت ہے تاک جھوٹ لازم نہ آئے اور اگر ایک شخص نے بھول کر اسم اللہ چھوڑی تو بھولنے۔ عذر کی وجہ سے جانور حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”ربنا لا تواخذنا ان نسيينا او اخطأنا“ چنانچہ آپ علیہ السلام کا فرمان تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل مسلم کو حالت نسیان پر محول کیا جائے گا اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نسیان کی صورت میں بھی جانور حلال نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر کا نام و صلاً مکروہ ہے نہ کہ عطفاً جیسے ذبح کا قول ”بسم الله اللهم تقبل من فلان او رذبيح حرام ہو جائے گا اگر عطف کیا جیسے“ بسم الله و اسمه فلان او فلان یعنی اللہ تعالیٰ اور فلان کے نام کے ساتھ اور اگر اس نے صورۃ اور معنی فصل کیا جیسے جانور کو لٹانے سے قبل اور تسمیہ سے قبل دعا مانگنا تو اس میں حرج نہیں ہے اور اونٹ کو خر کرنا محبوب ہے اور ذبح کرنا مکروہ ہے اور گائے اور بکری میں اس کا عکس محبوب ہے یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اونٹ کو ذبح کیا گیا اور گائے اور بکری کو خر کیا گیا تو یہ حلال نہیں ہوں گے۔

تشریح:

ندب احاداد یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ذبح سے متعلق ان امور کو بیان کر رہے ہیں جن کا ارتکاب کرنا مکروہ ہے اور اگر کسی نے یہ امور کیے تو جانور حلال ہی رہے گا ان امور میں اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام حس۔ سے جانور کو بلا ضرورت زائد تکلیف دی جائے وہ مکروہ ہے۔

[در مختار: ۲/۲۹۷]

چنانچہ فرمایا کہ چھری کو تیز کیا جائے بغیر تیز چھری کے ذبح کرنا مکروہ ہے اور اسی طرح چھری جانور کو لٹانے سے قبل تیز کرنا مستحب ہے اور لٹانے کے بعد تیز کرنا مکروہ ہے اور جانور کو ذبح کی طرف پاؤں کے ساتھ چھپنے کر لے جانا مکروہ اور جانور کو گدی کی جانب سے ذبح کرنا مکروہ ہے چنانچہ اس طرح ذبح کیا اور جانور رگیں کٹنے سے قبل مر گیا تو یہ جانور حرام ہے اور اگر رگیں کٹنے کے بعد مر اتو وہ حلال ہے اور اتنا سخت ذبح کرنا کہ حرام مغز بھی کاث دے یہ مکروہ ہے اور جانور ٹھنڈا ہونے سے قبل کھال اتارنا مکروہ ہے اور قبلہ سے ہٹا کر ذبح کرنا مکروہ ہے۔

[بحر الرائق: ۸/۳۱۱]

و شرط کون الذابح یعنی ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو ہر حال مسلمان ہونے کی صورت میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ حرم میں نہ ہو حرم سے باہر ہو اگر شکار کو ذبح کرنا ہو چنان چہ اگر کسی حلال شخص نے حرم میں شکار ذبح کر دیا تو وہ حرام ہو جائے گا البتہ اگر اس نے حرم سے باہر لا کر شکار ذبح کیا تو یہ حلال ہو گا اور کتابی ہونے کی صورت میں یہ تفصیل ہے کہ خواہ وہ ذمی ہو یا حرbi، عیسائی ہو یا یہودی اس کا ذبیحہ حلال ہے بشرطیکہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے اور حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت عزیز علیہ السلام کا نام نہ لے ایسی صورت میں اس کا ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ [شامی: ۲۹۶]

حتیٰ لو کان المجنون یعنی مجنون اور پچے کا ذبیحہ حلال ہے، بشرطیکہ وہ مجنون معتوہ ہو اور تسمیہ کے لفظ کی سمجھ رکھتا ہو اس طرح اگر پچھی لفظ تسمیہ کی سمجھ رکھتا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ لہذا اگر پچھی اور مجنون تسمیہ کی سمجھ نہیں رکھتے ہوں تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔
و تارک التسمیہ چونکہ ذبح کے وقت تسمیہ پڑھنا ضروری ہے لہذا اب ایک شخص ذبح کے وقت تسمیہ نہ پڑھے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی یا توجان بوجہ تسمیہ نہیں پڑھی ہو گی یا تسمیہ پڑھنا بھول گیا ہو گا تو ان دونوں صورتوں میں اس ذبیحہ کا حکم کیا ہے اس میں انہم کا آپس میں اختلاف ہے۔

احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہب یہ ہے کہ اگر تسمیہ جان بوجہ کر چھوڑی ہو تو ذبیحہ حرام ہے اور اگر بھول کر چھوڑی ہو تو ذبیحہ حلال ہے۔
 Shawafع رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذبیحہ حلال ہے خواہ تسمیہ جان بوجہ کر چھوڑی ہو یا بھول کر چھوڑی ہو۔
 مالکیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہب شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر تسمیہ بھول کر چھوٹ گئی ہو تو ان کے نزدیک ذبیحہ حرام ہے جیسا کہ جان بوجہ کر تسمیہ چھوڑنے کی صورت میں ذبیحہ حرام ہے۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں صورتوں میں ذبیحہ حرام ہے اکثر کتب فقہ میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی نہ ہب مقول ہے جب کہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امام مالک کا مشہور نہ ہب جوان کی کتب میں ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجہ کر تسمیہ چھوڑنے کی صورت میں ذبیحہ حرام ہے اور بھول کر چھوڑنے کی صورت میں حلال ہے۔ [شامی: ۲۹۹]

احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلائل:

احناف حبیبیم اللہ تعالیٰ نے جان بوجہ کر تسمیہ چھوڑنے کی صورت میں ذبیحہ حرام ہونے کی دلیل میں قرآن پاک کی یہ آیت ”ولا تأكلوا مسمالم يذکر اسم الله عليه“ پیش کی ہے کیونکہ سلف کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد ذبح کے وقت ذکر کرنا ہے اور اسی طرح لفظ ”علی“ بھی اس پر دال ہے کہ ذکر سے ذکر لسانی مراد ہے۔ [العنایہ: ۲۱۰/۸]

اور احناف نے بھول کر تسمیہ چھوڑنے کی صورت میں ذبیحہ حلال ہونے کی دلیل میں یہ آیت پیش کی ہے ”ربنا لا تواحدنا ان نسیما“ دوسری بات یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ بھولنے والا ہے چنان چہ اگر اس صورت میں ذبیحہ حرام قرار دیں تو اس سے حرج لازم آئے گا اور حرج شرعاً مذموع ہے۔ لہذا اس صورت میں ذبیحہ حلال ہے۔

Shawafع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل:

Shawafع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجہ کر تسمیہ چھوڑنے کی صورت میں ذبیحہ حلال ہونے پر دلیل میں یہ آیت پیش کی ہے۔ قل لا اجد فيما اوحى الى محروم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوها او نجم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به“ اس آیت اس ذبیحہ پرس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا فتن کا اطلاق کیا گیا ہے چنان چہ یہ معلوم ہوا کہ متذکر

السمیہ حلال ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کافرمان " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وانه فسوق " کو محول کیا جائے گا کیونکہ اس آیت میں "انہ فسوق" کا الفظ ذکر کیا گیا ہے اور یہ اس جانور پر صادق آتا ہے جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل بھی دی ہے کہ آپ علیہ السلام کافرمان ہے "تسمیۃ اللہ فی قلب کل مومن سُمی او لم یسم "لہذا جان بوجہ کرتسمیہ چھوڑے کے باوجود ذبح حلال ہے۔

احناف کا جواب:

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے " ولا تأكلوا مما لم يذكر والی آیت کو اس ذبحہ پر محول کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ محول کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آیات میں اصل یہ ہے کہ ان کو ظاہری معنی پر باقی رکھا جائے چنان چہ جب ایک آیت کو دوسرا پر محول نہیں کیا گیا تو "فَلَمَّا جَاءَهُنَّاْ قُلْ لَا أَجِدُ " والی آیت پہلے نازل ہوئی ہوگی اور "لا تأكلوا مما لم يذكر والی آیت بعد میں نازل ہوئی ہوگئی تاکہ کذب لازم نہ آئے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال میں جو حدیث مبارکہ پیش کی تھی "تسمیۃ اللہ فی قلب اس حدیث کو احناف نے حالت نیسان پر محول کیا ہے لہذا اس سے جان بوجہ کرتسمیہ چھوڑنے والی صورت پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

و حجب نحو یعنی اونٹ کو خر کرنا پسندیدہ ہے اور ذبح کرنا مکروہ تہذیبی ہے اور گائے اور بکری کو ذبح کرنا پسندیدہ ہے اور خر کرنا مکروہ تہذیبی ہے اور اس میں ضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس جانور کی گردان لبی ہو اس کو خر کیا جائے گا اور اگر چھوٹی ہو تو ذبح کیا جائے گا۔ یہ احناف کا مذہب ہے جب کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ اگر اونٹ کو ذبح کیا گائے اور بکری کو خر کیا گیا تو ان کو کھانا حلال نہیں ہے لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے اونٹ کو ذبح کیا گائے اور بکری کو خر کیا گیا تو یہ بلا کراہت جائز ہے اور اگر بلا ضرورت ایسا کیا گیا تو یہ فعل مکروہ ہے۔

[شامی: ۶/ ۳۰۳]

عبارات:

ولزم ذبح صید استانس و کفى جرح نعم توحش او سقط فى بير و لم يمكن ذبحه هذا عندنا و عند مالك رحمه الله تعالى لا يحل الا بالذكورة الاختياره . ولا يحل جنين ميت و جد في بطنه امه هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى و عندهما و عند الشافعى رحمه الله تعالى اذا تم خلقة اكل و ذكورة الام ذكورة له و لا ذوناب او مخلب من سبع او طير . ولا الحشرات ، والحرمر الاهلية . و البغل ، و الخيل ، و الضبع ، والزنبور والسلحفات والجريث والمارما هي الناب بالفارسية دندان نيش و ذوناب حيوان ينتهي بالناب و ذو المخلب طائر يختطف بالمخلب و في الحمر الاهلية خلاف مالك رحمه الله تعالى و في الخيل خلافهما و خلاف الشافعى رحمه الله تعالى و لنا قوله تعالى و الخيل و البغال و الحمير لتركبها الآية و في الضبع خلاف الشافعى رحمه الله تعالى و هو بالفارسية كفقار و السلحفات ستك پشت و الابقع كلاغ بيشه و الغداف كلاغ سياه بزرک و اليربوع موش دشتی و هو حلال عند الشافعى رحمه الله تعالى و ابن عرس راسو قوله لم يطف من الطفو اى لم يعل على الماء ميتأ حتى ان طفى الماء حرم والجريث نوع من السمك و هو غير المار ما هي كذا في المغرب و حل الجراد ، و انواع السمك بلا ذكورة ، وغراب الزرع والارنب ، والعقعق معها اى مع الزكوة .

ترجمہ:

اور منوس شکار کو ذبح کرنا لازم ہے اور اس چوپائے کو خی کرنا کافی ہے جو خشی ہو گیا ہو یا کنوں میں گر گیا ہو اور اس کو ذبح کرنا ممکن نہ ہو یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذکاۃ اختیاری سے ہی حلال ہو گا اور مردہ جنین جو اپنی ماں کے پیٹ میں پایا گیا حلال نہیں ہے۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب اس کی خلقت تام ہو چکی ہو تو اس کو کھایا جاسکتا ہے اور ماں کو ذبح کرنا جنین کو ذبح کرنا ہے اور درندوں اور پرندوں میں سے ذوناب (کیلوں والا) اور ذی محلب (چنگل والا) حلال نہیں ہیں اور نہ کیڑے مکوڑے، پاتوگدھے اور پھر اور گھوڑے اور بھڑا اور کچھوئے اور وہ کو جو مردار کھاتا ہو اور غداف اور ہاتھی اور جنگلی چوہا اور نیولا اور نہ دریائی جانور سوائے اس مچھلی کے جو طافی نہ ہو اور جریث اور مارماہی ”ناب“ فارسی میں ”واندان نیش“ کو کھاتا ہے اور ”ذوناب“ وہ جانور ہے جو نوکیلے دانتوں سے شکار کرتا ہو اور ”ذو محلب“ وہ پرنہدہ ہے جو ناخن سے اچکتا ہو اور پاتوگدھوں میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے اور گھوڑوں میں صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے اور جماری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان والخیل والبغال والحمیر لتر کبوہا آئیت ہے اور حجہ میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے اور اسے فارسی میں ”کفتار“ کھاتا ہے اور کچھوئے کو ”سنڈ پشت“ کھاتا ہے اور کوئے کو ”کلا غیپہ“ کھاتا ہے اور غداف کو ”سیاہ بزرک“ کھاتا ہے اور جنگلی چوہے کو ”مش دشت“ کھاتا ہے اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال ہے اور عرس کو ”راسو“ کھاتا ہے اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”لم يطف“ ”الطفو“ سے ہے لیعنی پانی کی سطح پر مردہ حالت میں نہ آئی ہو لہذا اگر پانی پر مردہ حالت میں پڑی ہو تو وہ حرام ہے اور جریث مچھلی کی ایک قسم ہے اور یہ مارماہی کے علاوہ ہے اسی طرح ”مغرب“ میں ہے اور مذہی اور مچھلی کی تمام اقسام بلا ذبح کیے اور کھیتی کا کو اور خرگوش اور عقعن ذبح کے ساتھ حلال ہیں۔

تشریح:

لا یحل جنین لیعنی اگر کسی مادہ حلال جانور کو ذبح کیا گیا اور اس کے پیٹ سے مردہ بچ نکلا تو اب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کھانا حلال نہیں ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس مردہ بچ کی تخلیق تام ہو چکی ہو تو اس کو کھانا حلال ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے ”ذکاۃ الجنین ذکاۃ امہ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ذبح کرنے سے پچھی ذبح ہو گیا اس کو الگ سے ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہے لیکن امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ پچھے کو ذبح کرنا بھی ماں کے ذبح کرنے کی طرح ہے لہذا اس کے حلال ہونے کے لیے مستقلًا ذبح کرنا ضروری ہے مولا ظفر احمد عثمنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حدیث کا جو مطلب صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ لفظ حدیث کے زیادہ قریب ہے اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مطلب بیان کیا ہے وہ معنی حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ [اعلاء السنن: ۱/۱۷]

و لا ذوناب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو کھانا حلال نہیں ہے مناسب یہ تھا کہ ان کا ذکر کتاب الصید میں کیا جاتا ان جانوروں کے حرام ہونے میں راز یہ ہے کہ ان جانوروں کی طبائع میں گھٹیا خصلتیں پائی جاتی ہیں جو شرعاً مذموم ہیں۔ لہذا اس بات کا ذرہ ہے کہ ان کا گوشت کھانے سے انسانوں میں وہی خصلتیں پیدا ہو جائیں اس حکمت کے تحت ان کو حرام کیا گیا ہے۔

لغوی تحقیق:

اس مسئلے کو جانے سے قبل اس میں مستعمل الفاظ کی وضاحت جانتا ضروری ہے۔

الابقع: سراب کو کہا جاتا ہے جو ایک پرندہ ہے اور یہ مردار کھاتا ہے۔

الغداف: پہاڑی کو اجس کے بازو سیاہ اور بڑے ہوتے ہیں۔

الجریث: کالی مچھلی: المار ماہی: سانپ کی شکل والی مچھلی۔

العقوق: کوئے کی شکل کا پرندہ

و فی الحمر پالتو گدھا احتاف کے نزدیک حرام ہے البتہ جنگلی گدھا حلال ہے اور اگر پالتو گدھا جنگلی بن جائے تو بھی حرام رہے گیا جنگلی گدھا پالتو بن جائے تو بھی حلال رہے گا اور جنگلی گدھی کا دودھ بھی حلال ہے۔ [شامی: ۶/ ۳۰۲]

و فی الخيل امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریکی ہے البتہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا گوشت حلال ہے البتہ مکروہ تحریکی ہے و لنا قوله تعالیٰ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت و الحیل و البغال آیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان جانوروں کا نام لے کر بطور احسان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو تمہاری سواری کے لیے پیدا کیا ہے اور احسان اعلیٰ نعمت پر ہوتا ہے اور کھانا حلال ہونا اعلیٰ نعمت ہے تو معلوم ہوا کہ اگر ان کا کھانا حلال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کھانا حلال ہونے کو ذکر کر کے احسان فرماتے حالاں کرایا نہیں فرمایا چنانچہ گھوڑے کو کھانا مکروہ تحریکی ہے البتہ حالت جنگ میں جائز ہے۔ فائدہ: کاندہ

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انتقال سے تین دن قبل اس کی حرمت سے رجوع فرمایا تھا چنانچہ اب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کاندہ بھی یہی ہے کہ اس کو کھانا مکروہ تحریکی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی ظاہر الروایت ہے۔ [در مختار: ۶/ ۳۰۵، شامی: ۶/ ۳۰۵] خچر میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس کی ماں گدھی ہو تو اس کو کھانا حلال نہیں ہے اور اگر اس کی ماں گائے ہو تو اس کو کھانا بااتفاق کھانا صحیح ہے اور اگر اس اس کی ماں گھوڑی ہو تو اس کا حکم گھوڑے والا حکم ہے۔ [در مختار: ۶/ ۳۰۲]

والابقع کوئے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو صرف دانے کھاتا ہے اور مردار نہیں کھاتا یہ کوئا مکروہ نہیں ہے دوسرا قسم وہ ہے جو صرف مردار کھاتا ہے اس کو اباقع کہا جاتا ہے تیسرا قسم وہ ہے جو بھی مردار کھاتا ہے اور کبھی دانے کھاتا ہے اس کو عقوق کہا جاتا ہے یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کروہ ہے۔ [شامی: ۶/ ۳۰۵]

کوئے کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی کا ایک مقالہ ہے جو قبیل مقالات میں موجود ہے من شاء فلیراجعہ: ۶/ ۳۱۱] کوئے کے بارے میں احتجاف کے نزدیک سمندری جانور حلال نہیں ہے البتہ مچھلی کی تمام اقسام حلال ہیں خواہ وہ کسی آفت کی وجہ سے و لا حیوان ماء احتجاف کے نزدیک سمندری جانور حلال نہیں ہے جو طبعی موت مرکر پانی کی سطح پر آ جائے اور اس کا پیٹ اور کی طرف ہو لہذا اگر اس کی پیٹھ اور پر کی جانب ہو تو اس کو کھانا حلال ہے۔ [شامی: ۶/ ۳۰۶]

..... ☆☆☆.....

كتاب الأضحية

اس کتاب سے قبل چند باتیں بطور تمہید جان لیں۔

لغوی معنی:

وہ جانور جس کو ایامِ اضحیہ میں ذبح کیا جائے۔

شرکی معنی:

”ذبح حیوان مخصوص بنیة القربة فی وقت مخصوص“.

شرکاط:

اس کے وجوہ کی تین شرکاط ہیں، مسلمان ہونا، مقیم ہونا، صاحبِ نصاب ہونا۔

سبب:

اس کے وجوہ کا سبب وقت (ایامِ ححر) ہے۔

رکن:

اس جانور کو ذبح کرنا جس جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔

حکم:

دنیا میں واجب کی ذمہ داری سے نکل جانا اور آخوت میں ثواب حاصل ہونا۔

عبارات:

ہی شاة من فرد و بقرة او بغير منه الى سبعة ان لم يكن لفرد اقل من سبع حتى لو كان لاحد السبعة اقل من السبع لا يجوز عن احد لان وصف القرية لا يتجزى و عند مالك رحمه الله تعالى تجوز عن اهل بيت واحد و ان كانوا اكثرا من سبعة و لا يجوز عن اهل بيتين و الكانوا اقل من سبعة، ويقسم اللحم وزنا لا جزا فالا اذا ضمن معه من اكارعه او جلدہ این یکون مع اللحم اکارع او جلد فی کل جانب شئی من اللحم و شئی من الاکارع او یکون فی کل جانب شئی من اللحم و بعض الجلد او یکون فی جانب لحم و اکارع و فی اخر لحم و جلد و انما یجوز صرف للجنس الی خلاف الجنس و صح اشتراک ستة فی بقرة مشترية لا ضحية استحسانا و فی القياس لا

يجوز وهو قول زفر رحمة الله تعالى لانه اعدها للقربة فلا يجوز بيعها وجه الاستحسان انه قد يجد بقرة سمينة ولا يجد الشركاء وقت البيع فالحاجة ماسة الى هذا وذا قبل الشراء احجاز اشارة الى الاشتراك وعن أبي حنيفة رحمة الله تعالى الى الاشتراك بعد الشراء و لا تجب، الا على من عليه الفطرة وقد مر في الفطرة و انما تجب لقوله عليه السلام من وجد سعة ولم يوضح فلا يقر بن مصلاناً و عند الشافعي رحمة الله تعالى هي سنة لنفسه لا لطفله في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى تجب على طفله كما في الفطرة قلنا سبب الفطرة رأس يمونه و يلي عليه. بل يضحي عنه او وصيه من ماله هذا عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى وقال محمد رحمة الله تعالى والشافعي رحمة الله تعالى عنه ابوه من مال نفسه لا من ماله . و اكل من الطفل و ما باقى يبدل ينتفعه بعينه كالثوب والخف لا بما ينتفع به بالاستهلاك كالخنزير و نحوه و انما يجوز ان يبدل بذلك لا بهذاقياسا على الجلد فان الجلد يجوز ان ينتفع به بان يتخذ جرابا و اذا بدلها بما ينتفع بعينه فتبدل حكم المبدل فهو كلام لافتاع بعينه لكن التبديل بالدرارهم تمول و بما ينتفع به بالاستهلاك في حكم الدرارهم فاذا كان الحكم في الجلد هذا قاسوا عليه اللحم اذا كان للصبي ضرورة .

ترجمة:

قرباني ایک شخص کی طرف سے بکری ہے اور گائے یا اونٹ ایک سے سات شخصوں تک ہے اگر کسی شخص کا ساتوں ھنے سے کم حصہ نہ ہو۔ لہذا اگر سات شخصوں میں سے کسی ایک کا ساتوں سے کم حصہ ہو تو کسی کی طرف سے جائز نہیں ہے اس لیے کہ قربت کے وصف کی تجزی نہیں ہوتی اور امام مالک رحمة الله تعالى کے نزدیک ایک گھروالوں کی طرف سے جائز ہے اگرچہ وہ سات سے زائد ہوں اور دو گھروالوں کی طرف سے جائز نہیں ہے اگرچہ وہ سات سے کم ہوں اور گوشت کو وزن کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا نہ کہ انکل کے اعتبار سے البتہ جب اس کے ساتھ اس کے پایوں اور کھال سے ملا دیا جائے یعنی گوشت کے ساتھ پائے یا کھال ملا دی جائے چنانچہ ہر جانب کچھ گوشت ہو اور کچھ پائے ہوں یا ہر جانب کچھ گوشت ہو اور کچھ کھال ہو یا ایک جانب گوشت اور پائے ہوں اور دوسرا جانب گوشت اور کھال ہو اور صرف جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیرنے کی وجہ سے جائز ہے اور کچھ شخصوں کو قربانی کے لیے خریدی جانے والی گائے میں شریک کرنا احسانا جائز ہے اور قیاس کی رو سے جائز نہیں ہے اور یہ امام زفر رحمة الله تعالى کا قول ہے اس لیے کہ اس شخص نے گائے کو قربت کی نیت سے تیار کیا ہے چنانچہ اس کی بیع ناجائز ہے اور احسان کی وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی موئی گائے پاتا ہے اور بیع کے وقت مزید شرکاء نہیں پاتا تو حاجت اس کی طرف لاحق ہوتی ہے اور یہ خریدنے سے قبل احباب (زيادہ پندیدہ) ہے "اذا" سے اشتراك کی طرف اشارة کرتا ہے اور امام ابوحنیفہ رحمة الله تعالى سے مردی ہے کہ خریدنے کے بعد شریک کرنا مکروہ ہے اور قربانی واجب نہیں ہوتی مگر اس شخص پر جس پر صدقہ فطر (واجب ہوتا ہے) اور یہ "باب الفطرة" میں گزر چکا ہے اور سوائے اس کے نہیں کہ قربانی آپ علیه السلام کے اس فرمان "من وجد سعة ولم يوضح فلا يقر بن مصلانا" کی وجہ سے واجب ہوئی ہے اور امام شافعی رحمة الله تعالى کے نزدیک قربانی سنت ہے۔ (قربانی) اپنی ذات کی طرف سے (واجب ہوتی ہے) نہ کہ اپنے بچے کی طرف سے۔ یہ ظاہر الروایۃ میں ہے اور امام ابوحنیفہ رحمة الله تعالى سے حسن رحمة الله تعالى کی روایت کے مطابق اپنے بچے کی طرف سے واجب ہوتی ہے جیسا کہ صدقہ فطر (واجب ہوتا ہے) ہم نے کہا صدقہ فطر کا سبب وہ سر ہے جس کی وجہ سے مشقت اٹھا رہا ہے اور جس کا ولی ہے بلکہ بچے کی طرف سے اس کا باپ یا باپ کا وصی بچے کے

مال سے قربانی کرے گا یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بچے کی طرف سے اس کا والد اپنے مال سے قربانی کرے گا نہ کہ بچے کے مال سے (کرے گا) اور قربانی سے بچہ کھائے گا اور جو باقی رہ جائے اس کو ایسی شیٰ سے تبدیل کر لیا جائے جس کے عین سے بچنے حاصل کرے جیسے کہ اموزہ نہ کہ ایسی شیٰ سے تبدیل کیا جائے جس کو ہلاک کر کے بچنے حاصل کیا جائے جیسے روٹی وغیرہ اور سوائے اس کے نہیں کہ اس شیٰ (یعنی جس کی عین باقی ہے) سے بدنا جائز ہے نہ کہ اس کے (یعنی جس کی عین باقی نہ ہے) ساتھ کھال پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہے کیونکہ کھال سے بچنے امکانا جائز ہے اس طور پر کہ اس کا مشکلہ بنا لیا جائے اور جب کھال کو ایسی شیٰ سے تبدیل کر لیا جائے جس کی عین سے بچنے حاصل کیا جاتا ہو تو مبدل کا حکم بدل جاتا ہے پس وہ ایسے ہے جیسے اس کی عین سے بچنے حاصل کرنا لیکن دراهم سے تبدیل کرنا مال حاصل کرنا ہے بسا اوقات ان کے ساتھ ہلاک کر کے بچنے حاصل کیا جاتا ہے۔

تشریح:

و صلح اشتراک یہ بات جانتی چاہیے کہ قربانی کا جانور اگر بڑا ہو تو اس میں دوسرے لوگوں کو شریک کرنا جائز ہے البتہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور خریدنے سے قبل سات آدمی شریک ہو جائیں اور جانور خریدیں یہ صورت اس لیے بہتر ہے کہ اس کے بچنے ہونے میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے البتہ اگر ایک شخص نے جانور خرید لیا اور بعد میں اس میں چھ شخصوں کو شریک کیا تو اب قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ ناجائز ہو اس لیے کہ اس شخص نے جانور کو قربانی (جو کہ عبادت ہے) کے لیے خریدا ہے جب یہ جانور عبارت کے لیے شخص ہو گیا تو اس کی بیع کرنا ناجائز ہے یہی امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

البتہ ہمارے نزدیک اس طرح شریک کرنا صحیح ہے کیونکہ انسان کبھی اکیلا منڈی چلا جاتا ہے اور وہاں اچھا جانور مناسب دام میں مل جاتا ہے اور وہ اس کو خرید لیتا ہے کہ ممکن ہے دوبارہ واپس آنے تک یہ جانور فروخت ہو جائے یہ احسان ہے لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکروہ فرمایا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ خریدنے سے قبل شرکت کریں۔

و لاتحجب یعنی قربانی کرنا اس شخص پر واجب ہے جس پر صدقہ فطرہ واجب ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ قربانی واجب ہے یا سنت تو احتفاف کے نزدیک قربانی واجب ہے اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ”من وجد سعة ولم يضط فلا يقر بن مصلانا“ اس حدیث میں وسعت والے شخص پر قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وعدہ آئی ہے اور وعدہ ایسے امر کی وجہ سے ہوتی ہے جو واجب ہو جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سنت ہے ان کی دلیل آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ”من اراد ان بضم حی منکم فلا يأخذ من شعره“ اس حدیث میں قربانی کا مدار مشیت پر رکھا ہے اور مشیت امر واجب میں نہیں ہوتی۔ لہذا یہ سنت ہے۔

لنفسہ لا لطفله یعنی انسان پر اپنے مال میں اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے اور اپنے مال سے اپنے بچے کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے البتہ ظاہر الرادیۃ میں ہے کہ اگر والد اپنے مال میں سے بچے کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ متحب ہے اور امام حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ اپنے مال میں سے بچے کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے جیسا کہ والد پر اپنے مال سے بچے کا صدقہ فطرہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہم نے اس کا یہ جواب دیا کہ صدقہ فطرہ پر قربانی کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ صدقہ فطرہ کے وجوب کا سبب وہ سر ہے جس کی انسان بذات خود مشقت اٹھاتا ہے اور جس سر کا انسان ولی ہے اور فتویٰ ظاہر الرادیۃ پر ہے لہذا بچے کی طرف سے قربانی کرنا متحب ہے۔

بل يصحى یعنی اگر بچے کی ملک میں مال ہو تو اس کا والد یا والد کا وصی بچے کے مال سے قربانی کرے گا یعنی حرمہ اللہ تعالیٰ کا نہب ہے جب کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک والد اپنے مال سے قربانی کر سکتا ہے بچے کے مال سے قربانی نہیں کرے گا۔

راجح قول:

اصح قول یہ ہے کہ والد بچے کے مال میں سے قربانی نہیں کرے گا۔ ان شئت التفصیل فارجع الی الشامیة: ۶/ ۳۱۶]

عبارت:

و اول وقتها بعد الصلوة ان ذبح في مصر اي بعد صلوة العيد يوم البحر . و بعد طلوع فجر يوم النحر ان ذبح في غيره و اخره قبيل غروب اليوم الثالث فالمعتبر في هذا مكان الفعل لا مكان من عليه لكن الاضحية لا تجب على المسافر كذا في الهدایة و عند مالک و الشافعی رحمهمما الله تعالى لا تجوز بعد الصلوة قبل نحر الامام و تجوز عند الشافعی رحمه الله تعالى في اربعة ايام واعتبر الآخر للفقر وضده و الولادة والموت اي اذا كان غنيا في الاول ايام فقير افي اخراها لا تجب عليه وعلى العكس تجب و ان ولد في اليوم الاخر تجب عليه و ان مات فيه لا تجب عليه . و الذبح ليلا فان تركت اي التضحية و مضت ايامها تصدق النادر و فقير شراها للاضحية بها حية و الغنى بقيمتها شراها او لا المراد انه نذر ان يضحى بهذه الشاة فانه ح يتعلق بال محل و الفقير انما يجب عليه بالشراء بنية الاجحية فاما الغنى فالواجب يتعلق بذمته شرى الشاة اولا . و صح الجذع من الضمان الجذع شاة لها ستة اشهر و الصنان ما تكون له الية و الشئ فصاعدا من الثلاثة اي من الشاة اعم من ان يكون ضانا او من البقر و من الابل و هو ابن خمس من الابل و حولين من البقر و حول من الشاة قل الثيا ابن حول و ابن ضعف و ابن خمس من ذوى ظلف و خف . كالجماء و الخصي و الثولاء ، دون العميا و العوراء و العجفاء و العرجاء التي لا تمشى الى المنسك الجماء التي لا قرن لها و الثولاء المجنونة و العوراء ذات عين واحدة وقد قيدت العجفاء بانها لا تنفى اي ما يكون عجفها الى حد لا يكون في عظامها تقى اي مخ ، و مقطوع يدها او جلها و ما ذهب اكثر من ثلث اذنها او ذنبها او عينها او اليتها هذا رواية الجامع الصغير و قبيل الشلت و قيل الرابع و عندهما ان بقى اكثرا من النصف اجزاء ثم طريق معرفة ذهاب ثلث العين ان يشداء العين المعاونة فيقرب اليها العلف اذا كانت جائعة فينظر انها من اي مكان رأت العلف ثم تشد العين الصحيحة و يقرب اليها العلف فينظر انها من اي مكان رأت العلف فينظر الى تفاوت ما بين المكانين فان كان ثلثا فقد ذهب الثالث و هكذا .

ترجمہ:

اگر قربانی شہر میں ذبح کی جائے تو اس کا اول وقت نماز کے بعد ہے یعنی نحر کے دن عید کی نماز کے بعد ہے اور شہر کے علاوہ (دیہات) میں نحر کے دن طلوع نہر کے بعد ہے اور آخری وقت تیرے دن غروب آفتاب تک ہے۔ چنانچہ اس میں معتبر قربانی کی وجہ ہے اس شخص کا

اعتبار نہیں ہے، حس پر قربانی واجب ہے لیکن مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے اسی طرح حدایت میں ہے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام کے قربانی کو ذبح کرنے سے قبل قربانی کرنا جائز نہیں ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاروں دن قربانی کرنا جائز ہے اور فقر او غنی میں اور پیدائش اور موت میں آخری دن کا اعتبار ہے یعنی جب وہ پہلے دن غنی ہو اور آخری دن فقیر ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے اور رات کو ذبح کرنا مکروہ ہے اور اگر قربانی کرنا چھوڑ دی اور قربانی کے دن گزر گئے تو نذر مانے والا اور وہ فقیر جس نے جانور کو قربانی کی نیت سے خریدا ہو یہ دونوں جانور کو زندہ صدقہ کریں گے اور غنی جس نے پہلے جانور خریدا تھا وہ اس کی قیمت کو صدقہ کرے گا مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے اس بات کی نذر مان لی کہ وہ اس بکری کی قربانی کرے گا تو یہ نذر محل سے متعلق ہو جائے گی اور فقیر پر قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب ہے۔ بہر حال غنی کے ذمے اولاً بکری کو خریدنا واجب ہے اور دنبے کی صورت میں جذع صحیح ہے، جذع چھ ماہ کا دنبہ ہوتا ہے اور رضان وہ ہے جس کے جھنی لگنی ہو اور شی اور اس سے بڑا جانور تینوں قسموں سے صحیح ہے یعنی بکری عام ہے کہ وہ رضان ہو یا معاشر ہو اور گائے اور اونٹ کی طرف سے صحیح ہے اور شی اونٹ میں پانچ سال اور گائے میں دوسال اور بکری میں ایک سال کی ہوتی ہے اور کہا گیا ہے کہ ناخن اور گھر والے جانوروں میں شی ایک سال، دوسال اور پانچ سال کی ہوتی ہے جیسے جمار اور خصی اور ثولا عنہ کے انہی اور لا غر اور ایسی لگنڈی جو قربان گاہ تک نہیں پہنچ سکتی، جماء وہ ہے جس کے سینگ نہ ہوں اور ثولا پاگل بکری کو کہا جاتا ہے اور عورا ایک آنکھ والی اور بعفاؤ کو اس سے مقید کیا گیا ہے کہ اس کی ہڈیوں کا گودا ختم نہ ہو اسی لیتی اس قدر نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودانہ رہا ہو اور جس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا ہو اور وہ جس کی ساخت یاد یا بینائی یا چکنی کا تیرے ہے سے زائد ختم ہو چکا ہو (تو یہ تمام قربانی کے لیے صحیح نہیں ہیں) یہ جامع صغير کی رویت ہے اور تیرا حصہ بھی کہا گیا ہے اور چوتھا حصہ بھی کہا گیا ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر نصف سے زائد باقی ہے تو قربانی کے لیے ہے پھر بینائی کے تیرا حصے چلے جانے کو پیچا نہ کا طریقہ کاری ہے کہ تکلیف وہ آنکھ کو باندھ دیا جائے پھر جب وہ بھوکی ہو تو چارا اس کے قریب کیا جائے چنانچہ غور کیا جائے کہ وہ چارا کس جگہ سے دیکھ لیتی ہے پھر صحیح آنکھ کو باندھ دیا جائے اور چارا اس کے قریب کیا جائے پھر غور کیا جائے کہ وہ کس مقام سے چارا دیکھ لیتی ہے۔ لہذا دونوں جگہوں کے درمیان موجودہ فرق پر غور کیا جائے سو اگر وہ ملٹ ہو تو ملٹ بینائی چالی گئی ہے اور اسی طرح قیاس کریں۔

تشریح:

اول وقتھا..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قربانی کا اول وقت شہری کے لیے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے اگرچہ خطبے سے قبل ہو البتہ خطبے کے بعد قربانی کرنا زیادہ پسندیدہ ہے اور شہر کے علاوہ دیہات میں اس کا اول وقت طلوع فجر کے بعد شروع ہوتا ہے۔

ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ سے تسامع:

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس میں تسامع ہوا ہے اس لیے کہ قربانی کی وقت میں شہری اور دیہاتی کا اختلاف نہیں ہے بلکہ دونوں کے لیے ایک ہی وقت ہے اور وہ طلوع فجر ہے البتہ اتنی بات ہے کہ شہری کے لیے نماز ادا کرنا قربانی سے قبل شرط ہے اور دیہاتی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ لہذا شہری کے لیے نماز سے قبل قربانی کا جائز نہ ہو ناشرط نہ پائے جانے کی وجہ سے ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وقت شروع نہیں ہوا۔ علامہ ابن الکمال رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ان مقامات سے ہے جن میں تاج الشریعتہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے تسامع ہوا ہے اور صدر الشریعتہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس پر تنبیہ نہیں ہوا۔

واجاب عن صاحب الواقية صاحب نتائج الافكار ترکته مخافة التطويل من شاء فليراجع ثمہ: ۸/۳۳۱]

اور قربانی کا آخری وقت تیرے دن غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے تک ہے۔ فالمعتبر فی هذا سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ قربانی کے وقت شروع ہونے میں قربانی کی جگہ کا اعتبار ہے اگر قربانی کی جگہ شہر ہے تو اول وقت نماز کے بعد ہے خواہ قربانی کرنے والا دیہات کا رہنے والا ہو اور اگر قربانی کی جگہ دیہات ہے تو اول وقت طلوع فجر کے بعد ہے خواہ قربانی کرنے والا شہر کا رہنے والا ہو۔

و ما ذهب اکثر یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور کے کان کا یاد مکایا آنکھ کا یا جگہ (جو دنبے کے پیچھے ہوتی ہے) کا تیرے حصے سے زائد ختم ہو چکا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے یہ جامع صیغہ کی روایت ہے۔ امام ابوحنین رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں چار روایتیں ہیں کہ تلتی مقدار قربانی سے مانع ہے۔ ایک روایت گزر چکی ہے کہ ثلث سے اکثر مانع ہے اور اس سے کم مانع نہیں ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ثلث مانع ہے اس سے کم مانع نہیں ہے اور تیسرا روایت یہ ہے کہ ربع مانع ہے اس سے کم مانع نہیں ہے چوچھی روایت یہ ہے کہ اگر ختم ہونے والی باقی رہنے والی سے اکثر یا برا بر ہے تو یہ مانع ہے اور اگر ختم ہونے والی باقی سے کم ہے تو یہ مانع نہیں ہے۔ و عندهما ان بقی سے صاحبین رحمہمَا اللہ تعالیٰ کا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ اگر نصف سے زائد باقی ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ امام ابوحنین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرف رجوع کر لیا تھا۔ لہذا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بھی یہی ہے کہ نصف سے زائد باقی رہنے کی صورت میں قربانی کرنا جائز ہے۔

[شامی: ۶/۳۲۲]

شم طریق معرفة آنکھ کے علاوہ دیگر اعضاء میں ختم ہونے والے اور باقی رہنے والے حصے کو پہچانا آسان تھا لیکن آنکھ میں یہ پہچانا مشکل تھا اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے ختم ہونے والے حصے اور باقی رہنے والے حصے کو پہچاننے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جانور کو ایک یا دو دن بھوکار کھا جائے اس کے بعد عیب والی آنکھ باندھ دی جائے اور صحیح آنکھ کو باندھ دی جائے اور پھر آہستہ آہستہ چارا اس کے قریب کیا جائے جس جگہ سے وہ چارا دیکھ لے وہاں ایک نشان لگا دیا جائے پھر اس کی صحیح آنکھ کو باندھ دیا جائے اور عیب والی آنکھ کو کھول دیا جائے اور اسی طرح چارا اس کے قریب لایا جائے۔ اب جس جگہ سے وہ چارا دیکھے وہاں نشان لگا دیا جائے۔ مثلًا صحیح آنکھ سے تین میٹر کے فاصلے سے چارا دیکھا تھا اور عیب والی آنکھ سے ایک میٹر کے فاصلے سے چارا دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کی دو ثلث بینائی چلی گئی ہے اور اگر صحیح آنکھ سے تین میٹر کے فاصلے سے دیکھا اور عیب والی آنکھ سے دو میٹر کے فاصلے سے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ ایک ثلث بینائی چلی گئی ہے۔

عبارات:

فَإِنْ ماتَ أَحَدٌ سَبْعَةً وَقَالَ وَرَثَةُ أَذْبَحُوهَا عَنْهُ وَعَنْكُمْ صَحْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَصْحُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لَأَنَّهُ تَبَرَعَ بِالْأَتَّلَافِ فَلَا يَجُوزُ عَنِ الْغَيْرِ كَالْأَعْنَاقُ عَنِ الْمَيْتِ وَجَهُ الْإِسْتِحْسَانِ إِنَّ الْقَرِيبَةَ قَدْ تَقَعُ عَنِ الْمَيْتِ كَالْتَصْدِيقُ بِخَلَافِ الْأَعْنَاقِ فَإِنْ فِي الْزَوَامِ الْوَلَاءُ عَلَى الْمَيْتِ كَفَرَةٌ عَنِ الْأَضْحِيَةِ وَمَتْعَةٌ وَقُرْآنٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ كَافِرًا أَوْ مِنْ مَزِيدِ اللَّحْمِ لَا لَانِ الْبَعْضِ لَيْسَ بِقَرْبَةٍ وَهِيَ لَا تَسْجُزِيٌّ وَيَا كَلِّ مِنْهَا وَيُوكِلُ وَيَهْبَ مِنْ يَشَاءُ وَنَدْبُ التَّصْدِيقِ بِثَلَاثَهَا وَتَرَكَهُ لِذَيِّ عِيَالٍ تَوْسِعَ عَلَيْهِمْ وَالذِّبْحُ بِيَدِهِ أَنْ أَحْسَنُ وَالْأَمْرُ غَيْرُهُ وَإِنْ ذَبَحَهَا كَتَابِيٌّ وَيَتَصَدِّقُ بِجَلْدِهَا أَوْ يَغْمِنُهُ اللَّهُ كَجْرَابٌ أَوْ خَفٌّ أَوْ فَرُوٌّ أَوْ يَبْدُلُهُ بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ بَاقِيَا لَا بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ

مستهلكاً كخل و نحوه فان بيع اللحم او الجلد به تصدق بسمه. ولو غلط اثنان و ذبح كل شاة صاحبه صحيلاً بلا غرم و في القياس ان لا يصح و يضمن لانه ذبح شاة غيره لغيره امره وجه الاستحسان انها تعينت للأوضحة و دلالة الاذن حاصلة فان العادة جرت بالاستعارة بالغير في امر الذبح. و صحت التضحية بشاه الغصب لا الودية و ضمنها لان في الغصب يثبت الملك من وقت الغصب و في الوديعة يصيير غاصباً بالذبح فيقع الذبح في غير الملك اقول بل يصيير غاصباً بمقدمات الذبح كالاضجاع و شد الرجل فيكون غاصباً قبل الذبح.

ترجمة:

اور اگر سات شرکاء میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثے نے کہا تم اس جانور کو میت کی طرف سے ذبح کر دو تو صحیح ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زندگی میت کی طرف سے آزاد کرنا اور احسان کی وجہ یہ ہے کہ قربت میت کی طرف سے واقع ہو گی جیسے چہ غیر کی طرف سے جائز نہیں ہے جیسے میت کی طرف سے آزاد کرنا اور احسان کی وجہ یہ ہے کہ قربت میت کی طرف سے واقع ہو گی جیسے صدقہ کرنا اعتماق کے برخلاف ہے کیونکہ اس میں میت پر ولاء کو لازم کرنا ہے جیسے ایک گائے قربانی تمعن قرآن کی طرف سے صحیح ہے اور اگر شرکاء میں سے ایک کافر ہو یا گوشت کا ارادہ رکھتا ہو تو قربانی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ بعض قربت نہیں ہے اور قربت کی تجزی نہیں ہوتی اور قربانی کرنے والا اس سے کھائے گا اور کھلائے گا اور جس کو چاہے گوشت دے گا اور قربانی کا مائدہ حمه صدقہ کرنا مستحب ہے اور کثیر عیال والا صدقہ کرنے کو چھوڑ دے عیال پر وسعت کرتے ہوئے اور ذبح اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح جانتا ہو ورنہ دوسرے کو کہہ دے اور اگر کتابی نے ذبح کیا تو یہ مکروہ ہے اور اس کی کھال کو صدقہ کرے گا یا اس سے آله بنالے جیسے جراب یا موزے یا پوتین یا اس کو ایسی شئی سے تبدیل کر لیا جائے جس کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل کیا جاسکتا ہونے کے ایسی شئی سے جس سے ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے جیسے سرکہ اور اس جیسی اشیاء اور اگر گوشت یا کھال کو اس کے بد لے فروخت کر دیا گیا تو اس کے شمن کو صدقہ کر دے اور اگر دو شخصوں سے غلطی ہو گئی اور ہر ایک نے اپنے ساتھی کی بکری ذبح کر دی تو یہ بلا ضمان صحیح ہے اور قیاس کے مطابق صحیح نہیں ہے اور ہر ایک خامن ہو گا اس لیے کہ اس نے دوسرے کی بکری اس کی اجازت کے بغیر ذبح کر دی اور احسان کی وجہ یہ ہے کہ ہر بکری قربانی کے لیے متین ہو چکی تھی اور دلالة اجازت حاصل تھی کیونکہ ذبح کے معاملے میں دوسرے سے مدد لینے کی عادت جاری ہے اور غصب شدہ بکری کی قربانی صحیح ہے نہ کہ دلیعۃ کی اور قربانی کرنے والا اس کا خامن ہو گا اس لیے کہ غصب میں ملکیت غصب کے وقت سے ہی ثابت ہو جاتی ہے اور دلیعۃ کی صورت میں ذبح کرنے سے عاصب بن جائے گا چنان چہ ذبح کرنا غیر کی ملک میں ہوا بلکہ وہ ذبح کے مقدمات سے عاصب بن گیا، جیسے لٹانا پاؤں باندھنا۔ لہذا یہ ذبح قبل عاصب بن گیا ہے۔

شرح:

فان مات سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک گائے یا اونٹ میں سات شخص شریک تھے پھر قربانی سے قبل ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثے نے بقیہ شرکاء سے کہا تم اپنی اور میت کی طرف سے قربانی کو ذبح کر دو تو یہ صحیح ہے، جب کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زندگی ورثہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولیل:

امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو اعتماق پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح میت کی طرف سے ورش غلام آزاد نہیں کر سکتے اسی طرح

میت کی طرف سے قربانی ذنبح کرنے کا حکم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ شئی ضائع کر کے احسان کرنا ہے اور کسی کی شئی کو ضائع کر کے تبرع کرنا ناجائز ہے۔ لہذا یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔

وجه الاستحسان..... احسانی دلیل یہ ہے کہ قربانی ذنبح کرنے کا ثواب میت کو حاصل ہو گا جیسے کہ صدقہ کرنے کا ثواب میت کو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا قربانی کا حکم دینا صحیح ہے بخلاف الاعتقاد..... سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اعتقاد پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ میت کی طرف سے غلام آزاد کرنے کی صورت میں ولاء میت پر لازم ہوگی اور اس مسئلے میں میت پر کچھ لازم نہیں ہو رہا لہذا اعتقاد ناجائز ہے اور قربانی کا حکم دینا ناجائز ہے کیونکہ اس میں میت پر الام نہیں ہے۔

راجح قول:

مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔

[خانیہ: ۳/۳۵۱، ہندیہ: ۵/۳۰۵، ہندیہ: ۳/۵۳۲]


ولو غلط الثان..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر دو شخصوں نے قربانی کا جانور ذنبح کرنے میں غلطی کر لی اور ہر ایک نے اپنے ساتھی کا جانور ذنبح کر دیا تو اب احسان کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر ایک کا قربانی کرنا بلا خانص صحیح ہے اور قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ قربانی کرنا صحیح نہیں ہے اور ہر ایک دوسرے کے جانور کی قیمت کا ضامن ہو گا کیونکہ اس نے دوسرے کی بکری اس کی اجازت کے بغیر ذنبح کر دی ہے۔ البتہ احسان کا تقاضہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک بکری قربانی کے لیے معین ہو چکی تھی اور دلالۃ ہر ایک کی طرف سے اجازت بھی حاصل تھی کیونکہ عموماً ذنبح کرتے وقت دوسرے سے مددی جاتی ہے تو یہاں بھی یہی سمجھا جائے گا کہ ہر ایک نے دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس کا جانور ذنبح کر دیا ہے۔

فائدہ:

ولو غلط..... یہ ”غلط“ کی قید احترازی ہے کیونکہ اگر ایک شخص نے دوسرے کا جانور جان بوجہ کر ذنبح کیا تو یہ قربانی کرنا صحیح نہ ہو گا لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر بھی صحیح ہے۔

[شامی: ۶/۳۲۹]

صحت التضحیة..... سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے غصب شدہ بکری کی قربانی کر دی اور اس کا ضمان ادا کر دیا تو یہ قربانی کرنا صحیح ہے اور اگر امانت والی بکری کی قربانی کر دی تو یہ قربانی کرنا صحیح نہیں ہے اگرچہ اس کا ضمان بھی ادا کردے کیونکہ غصب کی صورت میں غصب کے وقت سے ہی غاصب کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور امانت کی صورت میں وہ ذنبح کرنے بلکہ ذنبح سے قبل کیے جانے والے کاموں مثلاً لٹانا، پاؤں باندھنا وغیرہ کی وجہ سے ہی غاصب بن گیا اور امانت میں عاریت اور اجارہ والا جانور بھی داخل ہے یعنی ان کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔



كتاب الكراهة

مصنف رحمه اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام ”الکراہیہ“ رکھا ہے اسی طرح ”حدایہ“ اور ”جامع صغیر“ میں ہے اور ”بسط“ اور ”ذخیرہ“ میں اس کا نام ”الاستحسان“ رکھا گیا ہے اور ”قدروی“ میں ”کتاب الحظر والاباحة“ رکھا گیا ہے اور بعض کتب میں ”کتاب الزهد والودع“ رکھا گیا ہے۔

عبارت:

ما حرام عند محمد رحمه الله تعالى و لم يلفظ به نعدم القاطع فنسبة المكروه الى الحرام كنسبة الواجب الى الفرض و عندهما الى الحرام اقرب المكروه عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و ابى يوسف رحمه الله تعالى ليس بحرام لكنه الى الحرام اقرب هذا هو المكروه كراهة تحريم و اما المكروه كراهة تزنيه فالى الحل اقرب

ترجمہ:

جو مکروہ ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک حرام ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لفظ حرام نہیں بولا کیونکہ نص قاطع نہیں ہے، چنانچہ مکروہ کی طرف نسبت ایسی ہے جیسی واجب کی فرض کی طرف نسبت ہے اور شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کے زدیک یہ حرام کے زیادہ قریب ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک مکروہ حرام نہیں ہے لیکن حرام کے زیادہ قریب ہے یہ وہ مکروہ تحریکی ہے بہر حال مکروہ تزنيہ توہہ حلت کے زیادہ قریب ہے۔

مساکرہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے مکروہ تحریکی کے بارے میں اختلاف ذکر کر رہے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک جو مکروہ تحریکی ہے وہ حرام ہے ”یعنی گناہ میں حرام کی طرح ہے کہ جو سزا جہنم میں حرام کی ملے گی وہی مکروہ تحریکی کا ارتکاب کرنے سے ملے گی اگرچہ اس کا مذاب صریح حرام فعل کے عذاب سے کم ہو گا ب瑞 یہ بات کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکروہ تحریکی پر لفظ حرام کیوں نہیں بولا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی قطعی دلیل نہیں پائی، اس وجہ سے لفظ حرام مطلق نہیں بولا چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک مکروہ کی نسبت حرام کے مقابل ایسی ہے جیسے واجب کی نسبت فرض کے مقابلے میں ہے۔

و عندهما الى الحرام امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک مکروہ تحریکی حرام کے اقرب ہے یعنی ان کے زدیک مکروہ تحریکی حرام نہیں ہے بلکہ حرام کے بہت زیادہ قریب ہے۔

راجح قول:

مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔

[در مختار: ۳۳۶، هندیہ: ۵/۳۰۸] البتہ مکروہ تزنيہ متفقہ طور پر حلت کے زیادہ قریب ہے یعنی اس کے کرنے والے کو عذاب نہ دیا جائے گا لیکن اس کے چھوڑنے پر ثواب ملے گا۔ ظاہریہ ہے کہ مکروہ تزنيہ حلال نہیں ہے۔

کراہت تنزہی و تحریکی میں فرق:

ان دونوں فرق یہ ہے کہ اگر کسی فعل میں اصل حرمت ہو پھر وہ حرمت کسی عموم بلوی کی وجہ سے ساقط ہو گئی ہو تو کراہت تنزہی ہو گئی جیسے بلی کا جو شاور نہ کراہت تحریکی ہو گئی جیسے گدھے کا گوشت اور اگر کسی فعل میں اصل اباحت ہو پھر کوئی ایسی شیئی اس کو لاحق ہو گئی جس نے اباحت ختم کر دی پھر اگر ظن غالب حرام کا ہوتا ہو تو کراہت تحریکی ہے ورنہ کراہت تنزہی ہے۔ [هذا کلمہ ما خوذ من الشامی: ۳۳۷/۶]

عبارت:

الاکل فرض ان دفع به هلاکه، وما جور عليه ان مکنه من صلوته قائماً و من صومه، و مباح الى الشبع ليزيد قوته و حرام فوقه، الالقصد قوته صوم الغداء و لثلا يستحب ضيفه، و لين الاتان، وبول الابل اما لين الاتان فحكمه حكم لحمه و اما بول الابل فحرام عند ابى حنيفة رحمة الله تعالى و عند ابى يوسف رحمة الله تعالى يحل به التداوى لحديث العرنين و عند محمد رحمة الله تعالى يحل مطلقاً لانه لو كان حراماً لا يحل به التداوى قال عليه السلام ما وضع شفاوكم فيما حرم عليكم و ابو يوسف رحمة الله تعالى يقول لا يبقى حراماً للضرورة و ابو حنيفة رحمة الله تعالى يقول الاصل في البول الحرمة و هو عليه السلام قد علم شفاء العرنين و حياً و اما في غيرهم فالشفاء فيه غير معلوم، فلا يحل الاكل و الشرب و الادهان و التطيب من اناء ذهب و فضة اى للرجال و النساء قال عليه السلام انما يجر جر في بطنه نار جهنم و حل من اناء رصاص و زجاج و بليور و عقيق. ومن اناء مفضض و عند الشافعى رحمة الله تعالى و جلوسه على الكرسى مفضض متقياً موضع الفضة فقوله و جلوسه عطف على الضمير في حل و هذا يجوز لوجود الفصل فعند ابى حنيفة رحمة الله تعالى الاكل و الشرب من الاناء المفضض و الجلوس على الكرسى او السرير او السراج او نحوه مفضضاً انما يحل اذا كان متقياً موضع الفضة اى لا يكون الفضة في موضع الفم و في موضع اليدين عند الاخذ و في موضع الجلوس على الكرسى و عند ابى يوسف رحمة الله تعالى مطلقاً و محمد قد قيل انه مع ابى حنيفة رحمة الله تعالى و قد قيل انه مع ابى يوسف رحمة الله تعالى.

ترجمہ:

کھانا فرض ہے اگر اس سے ہلاکت کو دور کیا جائے اور کھانے پر تواب دیا جائے گا اگر اس سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی تدریت حاصل کی جائے اور پیٹ بھرنے تک کھانا مباح ہے تاکہ انسان کی قوت زیادہ ہو جائے اور اس سے اور کھانا حرام ہے مگر یہ کہ آیندہ کل روزہ رکھنے کی قوت حاصل کرنے کا رادہ ہو یا اس لیے کہ اس کا مہمان شرم نہ کرے اور گدھی کا دودھ اور اونٹ کا پیشتاب پینا مکروہ ہے بہر حال گدھی کے دودھ کا وہی حکم ہے جو اس کے گوشت کا حکم ہے بہر حال اونٹ کا پیشتاب امام ابو حنيفة رحمة الله تعالى کے نزدیک حرام ہے اور امام ابو يوسف رحمة الله تعالى کے نزدیک حدیث عرنین کی وجہ سے اس کو دوائی کے طور پر استعمال کرنا حلال ہے اور امام محمد رحمة الله تعالى کے نزدیک مطلقاً حلال ہے اس لیے کہ اگر یہ حرام ہوتا اس سے دوائی حاصل کرنا حلال نہ ہوتا۔ آپ عليه السلام نے فرمایا ہے کہ تم پر حرام اشیاء میں تمہاری شفاء نہیں رکھی گئی اور امام ابو يوسف رحمة الله تعالى فرماتے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے حرام باقی نہیں رہا اور امام

ابوحنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیشاب میں اصل حرمت ہے اور آپ علیہ السلام کو عنینین کی شفاء کا علم بذریعہ وحی ہوا تھا بہر حال ان کے علاوہ میں شفاء معلوم نہیں ہے، چنانچہ یہ حلال نہیں ہے اور سونے اور چاندی کے برتن سے کھانا، پینا، تیل لگانا اور خوبیوں کا نامکروہ ہے یعنی مردوں اور عورتوں کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جنم کی آگ بھر رہا ہے اور سیے اور شیش اور بلور اور عقیق کے برتن سے حلال ہے اور چاندی کی پاش کی گئی ہوئے برتن سے حلال ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے اور انسان کا ایسی کرنی پر بیٹھنا جس پر چاندی کی پاش کی گئی ہو حلال ہے دراں حائل کو چاندی کی جگہ نے فجک رہا ہو۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”وجلوسہ“ کا ”حل“ کی ضمیر پر عطف ہے اور یہ فعل کے پائے جانے کی وجہ سے جائز ہے۔ پس امام ابوحنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاندی سے پاش شدہ برتن سے کھانا اور پینا اور کرنی، چارپائی، زین یادگیر اشیاء جو چاندی سے پاش شدہ ہوں ان پر بیٹھنا جائز ہے جب کہ چاندی کی جگہ سے بچتا ہو یعنی چاندی منہ کی جگہ پڑتے وقت ہاتھ کی جگہ، کرنی پر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ امام ابوحنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔

ترشیح:

کھانے کے درجات:

الا کل فرض کھانے کے کل چھ درجات ہیں۔

پہلا درجہ یہ ہے کہ اتنی مقدار کھانا کھانا فرض ہے جس سے انسان ہلاکت سے فج کے اگر چوہ کھانا حرام شی ہو جیسے مردار یا شراب وغیرہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اتنی مقدار کھانا کھانا جس سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت اور روزہ رکھنے کی قدرت حاصل ہو اس مقدار پر ثواب ملے گا۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ اتنی مقدار کھانا کھانا جو پیٹ بھردے تاکہ اس سے قوت حاصل ہو جائے یہ مباح ہے اور پیٹ بھرنے سے مراد شرعی بیٹھ بھرنا نہیں ہے کہ پیٹ کے تین حصے کیے جائیں۔ ایک سانس کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ کھانے کے لیے یہ مراد نہیں ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اتنی مقدار کھانا کھانا جو معدہ کو خراب کر دے یہ حرام ہے کیونکہ اس میں اسراف ہے اور اسراف حرام ہے، البتہ اگر اتنی مقدار کھانا دوسرے دن روزہ رکھنے کی قوت حاصل کرنے کی غرض سے ہو تو یہ جائز ہے اور اسی طرح اگر کسی مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے تو بھی اتنی مقدار کھانا کھانا جائز ہے تاکہ مہمان حیاء کرتے ہوئے کھانا نہ کھائے اور بھوکارہ جائے۔

پانچواں درجہ یہ ہے کہ اتنی مقدار کھانا کھانا جس سے نوافل پڑھنے اور علم سکھنے اور سکھانے کی قدرت حاصل ہو جائے یہ مقدار مستحب ہے۔ چھٹا درجہ یہ ہے کہ پیٹ بھرنے سے کچھ زیادہ کھانا کھانا جس سے صحت کو نقصان نہ ہو یہ مکروہ ہے۔ [شامی: ۶/ ۳۳۸]

و اما بول الابل اونٹ کے پیشاب کے بارے میں اختلاف کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مطلقاً حرام ہے اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دوائی کے لیے حلال اور دوائی کے علاوہ استعمال کے لیے حرام ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلقاً حلال ہے۔

اما ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث عنینین کو دلیل بنایا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دوائی کے لیے پیشاب پینے کی اجازت دے دی تھی لہذا یہ دوائی کے لیے حلال ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلقاً حلال ہے کیوں اگر یہ حرام ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو دوائی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہ دیتے کیوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ تمہاری شفاء حرام اشیاء میں نہیں رکھی گئی چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیشاب میں اصل حرام ہونا ہے لیکن آپ علیہ السلام نے عنینین کو جواہازت دی تھی وہ اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام کو ان کی شفاء کا بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کو پیشاب پینے کے لیے کہا اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کی شفاء پیشاب میں ہے۔ لہذا یہ حلال نہیں ہے۔

راجح قول:

مشائخ حرمہم اللہ تعالیٰ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب ماہر طبیب یہ کہے کہ میرے علم کے مطابق اس کے سوا کوئی دو اپنیں ہے۔ [شانی: ۶/۳۲۰، اعلاء السنن: ۱/۳۱۳، ۳۰۳، خانیہ: ۳/۲۰۳، تکملہ فتح المکہم: ۳۰۳/۲]

و جلوسہ علی کرسی یعنی ایسی کرسی پر بیٹھنا جس کو چاندی سے آراستہ کیا گیا ہوا اور اسی طرح ایسے برتن میں پانی پینا اور کھانا کھانا جس کو چاندی سے آراستہ کیا گیا ہوا اور اسی طرح ایسی چار پانی یا زین پر بیٹھنا جس کو چاندی سے آراستہ کیا گیا ہو۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا استعمال جائز ہے بشرطیکہ اس جگہ عضونہ لگے جس پر چاندی لگی ہوئی ہے۔ یعنی کرسی میں بیٹھنے کی جگہ اور برتن میں منہ لگانے کی جگہ چاندی نہ ہو ورنہ مکروہ ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی اشیاء کو استعمال کرنا مطلقاً مکروہ ہے خواہ چاندی کی جگہ عضو لگے یا نہ لگے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول میں اختلاف ہے بعض نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت قرار دیا اور بعض نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرار دیا ہے۔

فائدہ:

حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ ایسی اشیاء کو استعمال کرتے وقت سونا اور چاندی سے بچنا دشوار ہے اس لیے امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے اور ایسے اختلافات اور احوالات میں پڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔

[امداد الفتاویٰ: ۲/۱۳۵]

اطیفہ:

یہ فرضہ مردی ہے کہ یہ مسئلہ ابو جعفر دوننقی کی مجلس میں پیش ہوا جس میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر ائمہ موجود تھے دیگر ائمہ نے کہا کہ ایسی اشیاء کو استعمال کرنا مطلقاً مکروہ ہے اور جب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے جواب دیا اگر چاندی کی جگہ عضو لگے تو مکروہ ہے ورنہ مکروہ نہیں ہے تو دیگر ائمہ حرمہم اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی ہوا وہ چلو میں پانی لے کر پینے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آیا یہ مکروہ ہے تو تمام ائمہ کرام خاموش ہو گئے اور ابو جعفر امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جواب سے حیران ہوئے۔ [بحر الرائق: ۸/۳۲۱، الکفاۃ: ۸/۳۲۳]

عبارت:

و قيل قول كافر قال شربت اللحم من مسلم او كتابي فعل او مجوسى فحرم فان قول الكافر مقبول فى المعاملات للحاجة اليه اذا المعاملات كثيرة الواقع . و قول فرد كافر او انشى او فاسق او عبد فى المعاملات

كشراء ذكر و التوكيل كما اذا اخبر انى وكيل فلان في بيع هذا يجوز الشراء و قول العبد الصبي في الهدایة والاذن كما اذا جاء بهدیة و قال اهدي فلان اليك هذه الهدایة بحل قوله منه او قال انا ماذون في التجارة يقبل قوله. و شرط العدل في الديانات كالخبر عن نجاسة الماء فتيم اذا اخبر بها مسلم عدل ولو عبد او يتحرى في الفاسق والمستور ثم يعمل بغالب رأيه و لو اراق فتيم في غلبة صدقه او توضاء فتيم في كذبه فاحوط و مقتدى دعى الى وليمة فوجد ثمه لعبا او غباء لا يقدر على منعه بخرج البة وغيره ان قعدوا اكل جاز و لا يحضر ان علم من قبل، و قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى ابتليت بهذا مرة فصبرت وذا قبل ان يقتدى به و دل قوله على حرمة كل الملاهي لأن الابتلاء بالمحرم يكون اعلم انه لا يخلو انه ان علم قبل الحضور ان هناك لهواء لا يجوز الحضور و ان لم يعلم قبل الحضور لكن هجم بعده فان كان قادرا على المنع يمنع و ن لم يكن قادر افان كان الرجل مقتدى بخرج لثلا يقتدى الناس به و ان لم يكن مقتدى فان قعدوا كل جاز لأن اجابة الدعوة سنة فلا تترك بسبب بدعة كصلوة الجنائز تحضرها اليناعة قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى ابتليت بها مرة فصبرت قالوا قول ابتليت يدل على الحرمة و يمكن ان يقال الصبر على الحرام لا قامة السنة لا يجوز و الصبر الذي قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان يكون جالساً معرضاً عن ذلك اللهو منكر الله غير مشتعل و لا متلذذ به .

ترجمہ:

اور اس کافر کا قول قبول کیا جائے گا جو یہ کہے میں نے گوشت مسلمان یا کتابی سے خریدا ہے چنانچہ یہ حلال ہے یا مجھی سے خریدا ہے تو حرام ہے کیوں کہ کافر کا قول معاملات میں ضرورت کی وجہ سے مقبول ہے اس لیے کہ معاملات کا وقوع بہت زیادہ ہے اور فرد کا قول معاملات میں قبول کیا جائے گا خواہ وہ کافر ہو یا عورت یا ناقۃ یا غلام جیسے ذکر کے خریدنے اور توکیل کی خبر دینا جیسا کہ جب اس نے خبر دی میں فلاں کا اس شئی کو فروخت کرنے میں وکیل ہوں تو اس کو خریدنا جائز ہے اور غلام اور بچے کا قول حد یہ اور اجازت میں قبول کیا جائے گا جیسا کہ جب وہ حد یہ لے کر آیا اور اس نے کہا فلاں نے آپ کی طرف یہ حد یہ بھیجا ہے تو اس حد یہ کو اس سے قبول کرنا حلال ہے یا اس نے کہا مجھے تجارت میں اجازت دی گئی ہے تو اس کا قول قبول کیا جائے گا اور دینی امور میں عدالت شرط ہے جیسے پانی کی نجاست کی خبر دینا چنانچہ انسان تیم کر لے جب نجاست کی عادل مسلمان خبر دے اگرچہ وہ غلام ہو اور فاسق اور مستور کی صورت میں تحری کر لے پھر غالب رائے پر عمل کر لے اور اگر پانی بہادیا پھر اس کے غلبہ صدق میں تیم کر لیا یا اس نے وضوء کر لیا پھر کذب میں تیم کر لیا تو یہ احوط ہے اور ایک مقتدى کو ولیمہ کی طرف دعوت دی گئی پھر اس نے وہاں ہبو ولعب پایا اور وہ اس کو روکنے کی قدرت نہیں رکھتا تو ضروری طور پر نکل آئے اور غیر مقتدى اگر بیٹھ جائے اور کھا لے تو یہ جائز ہے اور اگر پہلے سے علم ہو تو دعوت میں حاضر نہ ہو اور امام ابو حنيفة رحمه اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک مرتبہ اس میں بتلاہ ہونا حرم کے ساتھ ہوتا ہے جان لے یہ مسئلہ (دوسروں سے) خالی نہیں ہے اگر حاضر ہونے سے قبل اس دلالت کرتا ہے اس لیے کہ بتلاہ ہونا حرم کے ساتھ ہوتا ہے جان لے یہ مسئلہ (دوسروں سے) خالی نہیں ہے اگر حاضر ہونے سے قبل اس بات کا علم ہو کہ وہاں ہبو ولعب ہے تو حاضر ہونا جائز ہے اور اگر حاضر ہونے سے قبل علم نہ تھا لیکن حاضر ہونے کے بعد اچانک علم ہو اچنانچہ اگر وہ روکنے پر قادر ہو تو وہ کوئی اور اگر قادر نہ ہو پھر اگر آدمی مقتدى ہو تو وہ نکل جائے تاکہ لوگ اس کی پیروی نہ کریں اور اگر مقتدى نہ ہو پھر اگر بیٹھ جائے اور کھا لے یہ تو جائز ہے اس لیے کہ دعوت قبول کرنا نہیں ہے۔ لہذا بدعت کے سبب سے یہ چھوڑی نہ جائے گی جیسے نماز

جنازہ کہ جس میں نوحہ کرنے والی حاضر ہو جائیں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اس میں بتلاء ہو چنانچہ میں نے صبر کریا، فقہاء نے فرمایا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”ابتلیت“، ”حرمت پر دلالت کرتا ہے اور ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ حرمت پر صبر کرنا سنت کو قائم کرنے کی وجہ سے جائز نہیں ہے اور وہ صبر جس کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس لہو و لعب سے اعراض کرتے ہوئے بیٹھا جائے۔ دراں حاکمہ اس کا انکار کرنے والا ہواں میں مشغول ہونے اور لذت لینے والا نہ ہو۔

تشریح:

و قبل قول کافر..... یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ معاملات میں کس کا قول قبول کیا جائے گا اور کس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔

یہ بات جان لیتی چاہیے کہ کافر کا قول معاملات میں بالاجماع قبول کیا جائے گا چنانچہ اگر کسی کافر نے کہا میں نے یہ گوشت کتابی یا مسلمان سے خریدا ہے تو اس گوشت کو کھانا حلال ہے اور اگر اس نے کہا میں نے خریدا ہے تو اب اگر مجوسی صرف باائع ہو اور اس نے ذبح نہ کیا ہو تو اس گوشت کو کھانا مکروہ ہے اور اگر ذبح بھی مجوسی نے کیا ہو تو کھانا حرام ہے۔ اب یہی یہ بات کہ یہاں کافر کے قول سے گوشت کی حلت اور حرمت ثابت ہو رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شراء ایک عقد معاملہ ہے اور معاملہ میں چوں کہ حاجت زیادہ ہے اس پر یہی اس میں کافر کا قول قبول کیا جائے گا۔ اس طرح معاملات میں مرد، عورت اور آزاد و غلام، کافر و مسلمان ہر ایک کا قول قبول کیا جائے گا۔

تشریح عبارت:

کشراء ذکر علامہ جلیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بعض ناخنوں میں ”کشراء ذکریہ“ کی عبارت ہے اور یہ قول احسن ہے مراد یہ ہے کہ کافرنے مذحوہ بکری خریدنے کی خبر دی۔ [جعی]

و شرط العدل فی یعنی دینی امور میں عادل شخص کا قول قبول کیا جائے گا اور اس سے مراد حنفی دینی امور ہیں جن میں کسی کی ملک زائل نہ ہو بالبتہ اگر ایسا دینی امر ہو جس میں کسی شخص کی ملکیت زائل ہو تو پھر دعا دل گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ [شامی: ۶/ ۳۳۶]

چنانچہ پانی کا خس ہونا ایک دینی امر ہے اب پانی کی نجاست کی عادل مسلمان خبردے تو اس کی خبر قبول کی جائے گی اگر چودہ غلام ہو اور اگر فاسق یا مستور الحال شخص پانی کی نجاست کی خبر دے تو انسان اپنے غالب رائے پر عمل کرے لیکن اگر فاسق کی خبر دینے کے بعد اس شخص نے اس کی خبر کو چاگمان کرتے ہوئے پانی بہادریا اوری تیم کر لیا تو یہ جائز ہے اور اگر اس کو جھوٹا گمان کرتے ہوئے وضوء کر لیا پھر اس کی خبر کی وجہ سے تیم بھی کر لیا تو یہ احتوط ہے۔



فصل

عبارت:

لا يلبس رجل حريراً الا قدر اربعة اصابع اي في العرض اراد مقدار العلم وروى انه عليه السلام لبس جبة مكفوفة بالحرير و عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى لا فرق بين حالة الحرب وغيره و عندهما يحل فى الحرب ضرورة قلنا الضرورة تندفع بما لحمته ابريسم و ماسداه غيره . ويتوسده و يفترشه هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى لما روى انه عليه السلام جلس على مرفقة من حرير قالاً . و يلبس ماسداه ابريسم و لحمته غيره ، و عكسه فى الحرب فقط انما اعتبار فى المخلوط اللحمة حتى لو كانت من الا بريسم لا يحل و كانت من غيره يحل اعتبار اللعلة القريبة . و لا يحلى بذهب او فضة ، الا يخاتم و منطقة و حلية سيف منها و مسامار ذهب لثقب فص و حل للمرأة كلها و لا يختتم بالحجر و الحديد و الصفر لكن يجوز ان كان الحلقة من الفضة والفض من الحجر . و تركه لغير الحاكم احب اى ترك التختم لغير السلطان و القاضى احب لكونه زينة و السلطان و القاضى يحتاج الى الختم و لا يشد سنة بذهب بل بفضة هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و الباس الصبى ذهبا او حريرا كما ان شرب الخمر حرام فكذا اشرابها حرام ، لا خرقه الوضوء او مخاطر عند البعض ئ ذلك لانه نوع تجبر لكن الصحيح انها اذا كانت للحاجة لا و ان كانت للتذكرة و لا الرت هو الخطط الذى يعقد على الاصبع لتذكر الشئ فقد عده لا لانه ليس بعيث لان فيه غرض صحيحا و هو التذكرة انما ذكر هذا لان من عادة بعض الناس شد الخيوط على بعض الاعضاء و كذا السلسل و غيرها و ذلك مکروه لانه محض عبث فقال ان الرتم ليس من هذا القبيل .

ترجمہ:

مرد چار الگیوں کے بقدر ہی ریشم پہن سکتا ہے یعنی چورائی میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقش کی مقدار مرادی ہے اور یہ روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسا جبہ پہنا ہے جس پر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنگ اور غیر جنگ کا فرق نہیں ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنگ میں بطور ضرورت حلال ہے ہم نے کہا کہ ضرورت اس کپڑے سے پوری ہو جائے گی جس کا بانا (جودھا گے عرضالگے ہوں) ریشم کا ہوا اور اس کا تانا (جودھا گے طولانی گے ہوں) غیر ریشم کا ہوا اس کا تکلیف بنا سکتا ہے اور اس کا پچھونا بنا سکتا ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے مردی ہے کہ آپ علیہ السلام

نے ریشم کے تکلیف پر سہارا لیا اور صاحبین حبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے اور وہ کپڑا پہن سکتا ہے جس کا باناریشم کا ہوا اور اس کا تانا غیر ریشم کا ہوا اور اس کے عکس فقط جنگ میں پہن سکتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ مخلوط کپڑے میں بنے کا اعتبار کیا ہے۔ لہذا اگر وہ ریشم کا ہو تو حلال نہیں ہے اور اگر غیر ریشم کا ہو تو علت قربیہ کی وجہ سے حلال ہے اور مرسونے اور چاندی سے آراستہ نہیں ہو گا مگر انگوٹھی کے ساتھ اور کمر بند کے ساتھ اور تکوار کے زیور کے ساتھ اور سونے کی کیل کے ساتھ جو لگینہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہوا درعورت کے لیے تمام حلال ہے اور پھر اور لو ہے اور پیٹل کی انگوٹھی نہیں بنائی جائے گی لیکن اگر حلقة چاندی کا ہوا اور لگینہ پتھر کا ہوا اور غیر حاکم کے لیے انگوٹھی چھوڑنا پسندیدہ ہے کیونکہ یہ زینت ہے اور حاکم اور قاضی انگوٹھی کے محتاج ہیں اور اپنے دانت کو سونے سے نہیں باندھے گا بلکہ چاندی سے باندھے گا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور بچ کو سونا یا ریشم پہنانا مکروہ ہے جس طرح شراب کو پینا حرام ہے اسی طرح پلانا بھی حرام ہے وضو کا پانی اور ناک صاف کرنے کے لیے ریشم استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ ہے اس لیے کہ یہ تکمیر کی قسم ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ جب یہ حاجت کی وجہ سے ہوتا مکروہ نہیں ہے اور اگر تکمیر کی وجہ سے ہوتا مکروہ ہے اور ”رتم“ مکروہ نہیں ہے یہ وہ دھاگہ ہے جس کو انگلی پر باندھا جاتا ہے تاکہ کوئی شئی یاد رکھی جائے، چنانچہ اس کا باندھنا مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ عبث نہیں ہے کیونکہ اس میں صحیح غرض ہے اور وہ ”یاد رکھنا“ ہے سوائے اس کے نہیں کہ اس کو ذکر کیا گیا اس لیے کہ بعض لوگوں کی بعض اعضاء پر دھاگے باندھنے کی عادت ہوتی ہے اسی طرح زیبیریں وغیرہ اور یہ مکروہ ہے اس لیے کہ یہ محض عبث ہے، چنانچہ مصنف نے فرمایا کہ ”رتم“ اس قسم میں سے نہیں ہے۔

شرط ۷:

اس فصل میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ لباس کے متعلق احکامات بیان کریں گے۔

لباس کے درجات:

یہ بات جانی چاہیے کہ لباس پہننے کے پانچ درجے ہیں۔

اتنا لباس پہنانا فرض ہے جس سے سرڈھان کا جا سکے اور سردی و گرمی سے بچا جا سکے۔ اتنا لباس پہنانا مستحب ہے جس سے زینت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو۔

عیدین، جمعہ اور جالس میں خوبصورت لباس پہنانا مباح ہے، تکمیر کے لیے پہنانا مکروہ ہے۔ ریشم کا لباس پہنانا مردوں پر حرام ہے۔

[شامی: ۶/ ۳۵۱]

لایبلس رجل یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مردوں پر ریشم پہنانا حرام ہے البتہ چار انگلیوں کے بعد چوڑی پٹی لگانا جائز ہے اور چار انگلیوں سے مراد چاروں کو ملا کرنا ہے، چنانچہ اگر کسی کپڑے پر چار انگلیوں کے بعد چوڑی ریشم سے کڑھائی کی گئی ہو تو یہ لباس مرد کے لیے جائز ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایسا جبہ پہنانا ہے جس پر ریشم کے گوٹ لگے ہوئے تھے۔

ولا فرق سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ خالص ریشم پہنانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک حالت جنگ میں ریشم پہنانا مردوں کے لیے جائز ہے اور حالت جنگ کے علاوہ مردوں کے لیے ناجائز ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جنگ میں ضرورت ایسے کپڑے سے پوری ہو سکتی ہے جس کا باناریشم کا ہوا رہتا غیر ریشم کا ہوا لہذا خالص ریشم کو جنگ میں جائز قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

راجح قول:

مشائخ حجّهم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول اختیاط پر مبنی ہے۔

[قاضی خان: ۳۱۲/۳، اعلاء السنن: ۷/۳۳۳، البناۃ: ۱۱۸/۳، الدباب: ۲۱۳/۳]

و یلبس ماسداہ..... یہ بات جانی چاہیے کہ ہر کپڑا دھاگوں سے بنتا ہے اور کپڑے کا دھاگوں سے بنادو قسم کے دھاگوں پر موقوف ہے ایک بانا اور دوسرا تانا بنا وہ دھاگہ ہے جو کپڑے میں طولاً گاہوتا اور تانا وہ دھاگہ ہے جو کپڑے میں عرضانگاہ ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ کپڑے کا وجود بانے پر موقوف ہوتا ہے کہ اس کے بغیر دھاگہ کپڑے کی صورت اختیار نہیں کر سکتا اور تانے پر کپڑے کا وجود موقوف نہیں ہے۔ لہذا دھاگے کے کپڑا بننے کی دلیلیں ہیں۔ بانا علت قریبیہ ہے اور تانا علت بعیدہ ہے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کپڑے میں بانا ریشم کے علاوہ کسی دھاگے کا ہو اور تانا ریشم کے دھاگے کا ہو تو ایسا کپڑا حالت جنگ اور حالت جنگ کے علاوہ پہننا جائز ہے اور اگر بانا ریشم کے دھاگے کا ہو اور تانا غیر ریشم کا ہو تو ایسا کپڑا بالاتفاق حالت جنگ میں پہننا جائز ہے اور حالت جنگ کے علاوہ ناجائز ہے۔

انما اعتبر في سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مخلوط کپڑے کے طلال اور حرام ہونے کا مدار بانے پر کھا گیا ہے اس لیے کہ بانا کپڑے کی علت قریبہ ہے اور تانا علت بعیدہ ہے چنانچہ حلت و حرمت کا مدار علت قریبہ پر کھا گیا۔ لہذا اگر بانا ریشم کا ہو تو کپڑا پہننا حلال نہیں ہے اور اگر بانا غیر ریشم کا ہو تو کپڑا پہننا حلال ہے۔

[شامی: ۶/۳۵۷]

عبارت:

و ينظر الرجل من الرجل سوى ما بين سرتة الى تحت ركبته السرة ليست بعورة عندنا والركبة عورة و عند الشافعى رحمه الله تعالى على العكس ، و من عرسه و امته الحلال الى فرجها ، و من محربه الى الراس و الوجه والصدر و الساق و العضدان امن من شهوته و الا فلا لا الى الظهر و البطن و الفخذ كامة غير فان حكم امة الغير حكم المحرم لضروره رويتها فى ثياب المهنة و ما حل نظرا منها حل مسا ، و له مس ذلك ان اراد شرعاها و ان خاف شهوتها ، و امة بلغت لا تعرض فى ازار و احد ، و من الاجنبية الى وجهها و كفيها فقط هذا فى ظاهر الرواية و عن ابى حنيفة رحمه الله تعالى انه يحل النظر الى قدمها و قد مر فى كتاب الصلوة ان اتم لم ليست بعورة فلنا فى الصلوة ضرورة وليس فى نظر الاجنبي الى القدم ضرورة بخلاف الوجه و الكف . و كذا السيدة فانها فى النظر الى قدميها كالاجنبية ، فان خاف اى الشهوة لا ينظر الى وجهها ، الا بحاجة كفاص يحكم و شاهد يشهد عليها و من يريده نكاح امرأة او شراء امه و رجل يد او يها فان هؤلاء يحل لهم النظر مع خوف الشهوة للحاجة فينظر الى موضع مرضها بقدر الضرورة ، و تنظر المرأة من المرأة كالرجل من الرجل و كذا من الرجل ان امنت شهوتها و الشخصى و المحبوب و المخت فى النظر الى الاجنبية كالفحول و يعزل عن امته بلا اذنها و عن عرسه به العزل ان يطأ فاذا اقرب الى الانزال اخرج ذو لا ينزل فى الفرج .

ترجمہ:

اور مرد و سرے مرد کا اتنے حصے کے علاوہ دیکھ سکتا ہے جو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ ہمارے نزدیک ناف سترنیں ہے اور

گھٹنا ستر ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بر عکس ہے اور اپنی بیوی اور حلال باندی کے فرج کو دیکھنا حلال ہے اور اپنی محروم کا سر اور چہرہ اور سینہ اور پنڈلی اور دونوں بازوں دیکھنا جائز ہے اگر شہوت سے مامون ہو ورنہ جائز نہیں ہے۔ پیشہ اور پیش اور انوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے جس طرح کسی کی باندی کو دیکھنا کیونکہ کسی کی باندی کا حکم حرم عورت والا حکم ہے کیونکہ محنت کے کپڑوں میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور عورت کا جو حصہ دیکھنے کے لحاظ سے حلال ہے وہ چھونے کے لحاظ سے بھی حلال ہے اور مرد کے لیے باندی کو چھونا جائز ہے اگر اس کو خریدنے کا ارادہ ہو اگرچہ اس پر شہوت کا خوف ہو اور وہ باندی جو بالغ ہو جائے اس کو ایک شلوار میں پیش نہیں کیا جائے گا اور اجنبیہ کے فقط چہرے اور ہتھیلوں کو دیکھنا جائز ہے یہ ظاہر الروایت میں ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ اس کے قدموں کو دیکھنا حلال ہے اور کتاب الصلوٰۃ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ پاؤں سترنہیں ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ نماز میں ضرورت ہے اور اجنبی کے پاؤں کی طرف دیکھنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برخلاف چہرے اور ہتھیلی کے ہے اور اسی طرح سیدہ ہے کیونکہ وہ پاؤں کی طرف دیکھنے کے بارے میں اجنبیہ کی طرح ہے، چنانچہ اگر شہوت کا خوف ہو تو اجنبیہ کے چہرے کی طرف حاجت کے وقت دیکھا جائے جیسا کہ وہ قاضی جو فیصلہ کر رہا ہو یا گواہ جو عورت کے خلاف گواہی دے رہا ہو اور جو کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو یا باندی کو خریدنا چاہتا ہو یا مرد عورت کا علاج کرنا چاہتا ہو تو ان لوگوں کے لیے شہوت کے خوف کے باوجود ضرورت کی وجہ سے دیکھنا جائز ہے چنانچہ اگر شہوت کے باوجود ضرورت کے خوف کے وجہ سے دیکھنا جائز ہے اور اسی طرح مرض کی جگہ کو ضرورت کے بعد رد دیکھنے گا اور عورت دوسرا عورت کی اتنی مقدار دیکھنے گی جتنی مرد دوسرا عورت کے مرد کو دیکھنے میں اگر وہ شہوت سے مامون ہو اور خصی اور مجبوب اور منشت اجنبیہ کی طرف دیکھنے میں مرد کامل کی طرح ہیں اور مرد اپنی باندی سے اس کی اجازت کے بغیر اور بیوی سے اجازت کے ساتھ عزل کرے گا عزل یہ ہے کہ انسان ولی کرے چنان جب وہ ازال کے قریب ہو تو اپنے ڈکر کو نکال لے اور فرج میں ازال نہ کرے۔

تشریح:

اس فصل میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کے احکامات کو بیان کریں گے یہ بات جانی چاہیے کہ دیکھنے کے مسائل چار قسم پر مشتمل ہیں۔

(۱) مرد کا عورت کو دیکھنا۔ (۲) عورت کا مرد کو دیکھنا۔ (۳) مرد کا مرد کو دیکھنا۔ (۴) عورت کا عورت کو دیکھنا۔

اب پہلی قسم (مرد کا عورت کو دیکھنا) بھی چار قسموں پر مشتمل ہے۔

(۱) مرد کا اجنبیہ کو دیکھنا۔ (۲) مرد کا اپنی بیوی اور باندی کو دیکھنا۔ (۳) مرد کا محارم کو دیکھنا۔ (۴) مرد کا غیر کی باندی کو دیکھنا۔

بنظر الرجل سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا قسم کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرد دوسرا مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچتک کے علاوہ جسم دیکھ سکتا ہے۔ ناف سے گھٹنے کے نیچتک کا حصہ ستر ہے۔ جس کو بلا ضرورت دیکھنا جائز ہے اور احناف کے نزدیک گھٹنا ستر ہے اور ناف ستر نہیں ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بر عکس ہے یعنی ناف ستر ہے اور گھٹنا ستر نہیں ہے۔

من عرسہ و امته یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پہلی قسم کی دوسرا قسم کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ مرد اپنی بیوی اور حلال باندی کا سارا جسم دیکھ سکتا ہے خواہ شہوت ہو یا شہوت نہ ہو البته اولی یہ ہے کہ ہر ایک دوسرا کے ستر کو کم سے کم دیکھے۔ عبارت میں جو لفظ "الحلال" مذکور ہے یہ "الامة" کی صفت بھی بن سکتا ہے کہ وہ باندی مراد ہے جو حلال ہو یعنی جو سیہہ یا مشترکہ باندی نہ ہو کہ اس کو دیکھنا حرام ہے اور اسی طرح "عرسہ" کی صفت بھی بن سکتا ہے کہ اپنی بیوی کی طرف دیکھ سکتا ہے تو اس سے اس شخص کی بیوی خارج ہو گئی جس نے اپنی بیوی سے ظہار کیا ہوا ہے کیونکہ مظاہر کا اپنی بیوی کو کفارہ ادا کرنے سے قبل دیکھنا حلال نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ

تعالیٰ نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ ”عرسہ“ کی صفت ہے۔ [شامی: ۶/۳۲۶]

و من محرمه..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پہلی قسم کی تیسری قسم کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ انسان اپنی حمار عورتوں کا سر، چہرہ، سینہ، بازو و دیکھ سکتا ہے بشرطیکہ شہوت کا خوف نہ ہو ورنہ دیکھنا جائز نہیں ہے اور حرم وہ ہے جس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔

[بjur الرائق: ۶/۳۵۵]

کامۃ غیرہ..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کی پوچھی قسم کا حکم بیان کیا ہے کہ مرد کا کسی کی باندی کے حجم کو اتنا دیکھنا جائز ہے جتنا اپنی حرم عورت کے جسم کو دیکھنا جائز ہے اس لیے کہ وہ باندی اپنے مولیٰ کے کام کے لیے محنت و مشقت والے کپڑوں میں نکلے گی اور مردوں سے ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی باندی کو دوپٹہ اوڑھے ہوئے دیکھتے تو اس کو کوڑا مارتے اور فرماتے کہ دوپٹہ اتارو تم آزاد عورتوں کی مشابہت کرتی ہو۔ [بjur الرائق: ۸/۳۵۷]

ماحل نظر امنها..... یعنی اپنی حمار اور ایک مرد کے لیے دوسرا مرد کا جتنا حصہ دیکھنا جائز ہے اس کو چھوٹا بھی جائز ہے کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی مبارک پر بوسہ لیتے تھے اور فرماتے مجھے اس سے جنت کی خوبیوں رہی ہے۔

[بjur الرائق: ۸/۳۵۶]

وله مس ذلک..... یعنی جب کوئی شخص باندی خریدنا چاہتا ہو تو اس کے جسم کے ہر حصے کو چھوٹتا ہے، جس کی طرف اس کے لیے دیکھنا جائز ہے جیسے سینہ، پنڈلیاں، سرو وغیرہ اگرچہ اس کو شہوت کا خوف ہو۔

اماۃ بلغت..... یعنی جب باندی بالغ ہو جائے اور مولیٰ اس کو فروخت کرنا چاہتا ہو تو اس کو صرف شلوار میں پیش نہ کرے، شلوار سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے ناف سے گھنٹے تک کے حصے کو ڈھانپے کیونکہ اب اس کا پیٹ اور پیٹھ بھی ستر ہے اور یہی حکم اس باندی کا بھی ہے جو بالغ ہونے کے قریب ہو اس کو بھی ایک شلوار میں پیش نہ کیا جائے۔

و من الاجنبیة..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پہلی قسم کی ساری حکم بیان کر رہے ہیں کہ مرد کا کسی اجنبی عورت کے فقط چہرے اور ہتھیلوں کو دیکھنا جائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ عورت ساری کی ساری ستر ہے۔ البتہ شریعت نے دعوضوں سے خارج کر دیتے ہیں۔ ایک چہرہ دوسرا ہتھیلوں کیونکہ عورت کو اجنبی مردوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے چہرہ ہکولنا ضروری ہے اور شریٰ کو دینے اور لینے کی ضرورت بھی پڑے گی اس لیے ہتھیلوں بھی ستر نہیں ہیں۔ یہ ظاہر ارتویت ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ پاؤں بھی ستر نہیں ہے کیونکہ کتاب الصلوۃ میں گزر چکا ہے کہ پاؤں نماز میں ستر نہیں ہے لیکن اصح یہی ہے کہ پاؤں بھی ستر ہیں کیونکہ پاؤں کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نماز میں ضرورت تھی اس لیے وہاں ستر نہیں ہے۔ [بjur الرائق: ۸/۳۵۱]

فان خاف ای الشہوہ..... یعنی اجنبی عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز ہے البتہ اگر چہرے کی طرف دیکھنے سے شہوت کا خوف ہو تو پھر چہرے کی طرف بھی نہ دیکھے البتہ قاضی اور گواہ کے لیے گواہی کے وقت دیکھنا جائز ہے اگرچہ شہوت کا خوف ہو اور گواہ کے لیے شہوت کے ساتھ دیکھنے کی گنجائش گواہی دیتے وقت ہے البتہ گواہ بننے وقت شہوت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا باندی کو خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی دیکھنا جائز ہے البتہ شادی کرنے والے کے لیے عورت کے چہرے اور ہتھیلوں کو چھوٹا جائز نہیں ہے اور اسی طرح ڈاکٹر اور طبیب کے لیے بھی عورت کی مرض کی جگہ کو دیکھنا بقدر ضرورت جائز ہے یعنی مرض کی تشخیص کرنے اور دمائی لگانے وغیرہ کے وقت دیکھنا جائز ہے اور یہ بھی اس وقت جائز ہے جب کوئی عورت طبیب نہ ہو چنانچہ اسے اگر عورت طبیب موجود ہو تو مرد کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے اور مرد طبیب صرف مرض کی جگہ کو دیکھے اور دوسرا جگہوں سے نظر کو بچائے۔

[بjur الرائق: ۸/۳۵۲]

وتنظر المرأة..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ چوتھی قسم کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ عورت کا عورت کے جسم کو اتنا دیکھنا جائز ہے جتنا ایک مرد دوسرے مرد کے جسم کو دیکھ سکتا ہے یعنی ایک عورت دوسری عورت کا ناف سے لیکر گھٹنے کے علاوہ جسم دیکھ سکتی ہے بشرطیکہ شہوت نہ ہو اور اگر اس کو شہوت کا خوف ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کو نہ دیکھنے۔ [بخاری: ۳۵۲/۸]

عبارت:

من ملک امة بشراء او نحوه كالوصية والارث و نحوهما ولو بكن و مشترية من امرأة او عبدا و محربها اى محرب الامة لكن غير ذى رحم محرب لها حتى لا تعتق الامة عليه او من مال صبي اى كانت الامة من مال صبي حرم عليه وطيهها و دواعيه حتى يسترى بحيةة فيمن تحيض و بشرهه فى ذات شهرو بوضع الحمل فى الحال فان الحكمه فى الاستبراء تعرف براءة الرحم صيانة للماء المحترم عن الاختلاط و ذلك عند حقيقة الشغل او توهם الشغل بما محترم لكنه امر خفى فادير الحكم على امر ظاهر و هو استحداث الملك و ان كام عدم وطى الولى معلوما كما فى الامور التى عدها و هي قوله و لو بکرا الى اخره فان الحكمه تراعى فى الجنس لا فى كل فرد و لكن يرد عليه ان الحكمه لا تراعى فى كل فرد لكن تراعى فى الانواع المضبوطة فان كانت الامة بکرا او مشترية ممن لا يثبت نسب و لدها منه و هو ان يكون لولد ثابت النسب ينبغي ان لا يجب لان عدم الشغل بالماء المحترم متيقن فى هذه الانواع والجواب انه انما يثبت بالنص لقوله فى سبايا او طاس الا لا توطا الحبالى حتى يضعن حملن ولا الا حيالى حتى يستبرئن بحيةة فان السبايا لا تخلو من ان يكون فيها بکرا او نسية من امرأة و نحو ذلك و مع هذا حكم النبي عليه السلام حكما عاما فلا يختص بالحكمة كما انه تعالى بين الحكمه فى حرمة الخمر بقوله انما يريد الشيطان ان يوقع الآية فلا يمكن كما انه تعالى بين الحكمه فى حرمة الخمر بقوله انما يريد الشيطان ان يوقع الآية فلا يمكن ان يقول احد انى اشربها بحيث لا يقع العداوة ولا يصدنى عن الصلوة فإذا كانت المصلحة غالبة فى تحريمها فالشرع يحرم على العموم لما ان فى التخصيص ما لا يخفى من الخبط و تجاسر الناس بحيث ترفع الحكمه فإذا ثبت الحكم فى السبي على العموم ثبت فى سائر اسباب الملك كذلك قياساً فان العلة معلومة ثم تايد ذلك بالاجماع . ولم تكف حيةة ملكها فيها و لا التي قبل القبض ولا الودة كذلك.

ترجمہ:

جو شخص کسی باندی کا خریدنے یا کسی دوسرے ذریعے سے مالک بنے جیسے وصیت اور وراثت اور ان دونوں جیسے کسی طریقے سے اگرچہ باکرا ہو اور اس کو عورت یا غلام یا اس کے محروم سے خریدا گیا ہو یعنی باندی کے محروم سے لیکن ذی رحم محروم کے علاوہ سے تاکہ باندی اس پر آزادی ہو جائے یا بچے کے مال سے خریدا گیا ہو یعنی باندی بچے کے مال سے تھی تو خریدنے والے پر اس سے وطنی کرنا اور دواعی وطنی کرنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اس سے ایک حیض کا استبراء کروالے حیض آنے والی عورتوں میں سے ہونے کی صورت میں اور ذات شہرو والی عورتوں میں سے ہونے کی صورت میں مینے سے اور حاملہ میں وضع حمل سے استبراء کروالے کیونکہ استبراء میں حکمت رحم کے صاف ہونے کو پیچانا ہے۔ محترم

پانی کو ملنے سے بچانے کے لیے اور یہ حقیقی ملنے کے وقت بھی ہو گا اور محترم پانی سے ملنے کے وہم کے وقت بھی ہو گا لیکن رحم کا مشغول ہونا مخفی امر ہے، چنانچہ حکم ظاہری امر پر رکھا گیا ہے اور وہ ملک کا پیدا ہوتا ہے اگرچہ مولیٰ کا وظی نہ کرنا معلوم ہو جیسا کہ ان امور میں جن کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے اور وہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ”لو بکر“ سے آخر تک ہے کیونکہ حکمت کی جنس میں رعایت کی جاتی ہے ہر فرد میں نہیں کی جاتی، لیکن اس پر اعتراض ہو گا کہ حکمت کی ہر فرد میں رعایت نہیں کی جاتی لیکن معلوم انواع میں رعایت کی جاتی ہے چنانچہ اگر باندی با آرہا ہو یا اس شخص سے خریدنے تھی جس سے اس کے بچے کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا اور وہ یہ ہے کہ بچہ ثابت النسب ہو تو مناسب یہ ہے کہ استبراء واجب نہ ہو، اس لیے کہ محترم پانی سے مشغول نہ ہونا ان انواع میں یقینی ہے۔ جواب یہ ہے کہ استبراء نص سے ثابت ہے آپ علیہ السلام کے او طاس کے قیدیوں کے بارے میں فرمائے کی وجہ سے، خبردار حاملہ عورتوں سے وطی نہ کی جائے یہاں تک وہ وضع حمل کر دیں اور نہ غیر حاملہ سے وطی کی جائے یہاں تک کہ وہ ایک حیض سے استبراء کر لیں کیونکہ قیدی عورتیں اس سے خالی نہ تھیں کہ ان میں باکرا عورتیں بھی تھیں اور عورت سے قید کی ہوئی بھی تھیں اور اسی طرح دوسری بھی تھیں اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے عام حکم فرمایا۔ لہذا استبراء حکمت سے خاص نہ ہو گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت خمر کی حکمت اپنے اس قول ”انما يرید الشیطان ان یوقد..... آیہ سے بیان فرمائی ہے چنانچہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں شراب اس طرح پیتا ہوں کہ عداوت واقع نہ ہو اور مجھے نماز سے نہ رو کے۔ لہذا جب شراب کو حرام کرنے میں مصلحت غالب تھی تو شریعت نے اس کو عمومی طور پر حرام قرار دیا اس لیے کہ تخصیص میں ایسی خرابی اور لوگوں کا جرأت کرنا تھا جو مخفی نہیں ہے کہ جس سے حکمت ختم ہو جاتی۔ لہذا جب قیدیوں میں عمومی طور پر حکم ثابت ہو گیا تو ملکیت کے سارے اسباب میں قیاس کے طور پر ثابت ہو گا کیونکہ علت معلوم ہے پھر اس کی اجماع سے تائید ہو گئی ہے اور جس حیض میں اس کا ملک بنے ہے وہ کافی نہیں ہے اور نہ ہی وہ حیض کافی ہے جو قبضے سے قبل آیا ہو اور اسی طرح ولادت بھی قبضے سے قبل والی معتبر نہیں ہے۔

تشریح:

یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ استبراء کے متعلق مسائل ذکر کر رہے ہیں البتہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ فصل میں بیان نہیں کیا جب کہ دیگر مصنفوں حتماً اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ فصل میں بیان کیا ہے ان مسائل سے قبل استبراء کے متعلق چند بائیکیں بطور تمہید جان لیں۔
لغوی معنی:

استبراء کا لغوی معنی مطلق براءت طلب کرنا ہے۔

شرعی معنی:

مملوک باندی کے رحم کی براءت طلب کرنا

صفت:

استبراء واجب ہے۔

سبب:

اس کے وجوب کا سبب باندی کا مالک بننا ہے۔

دلیل:

اس کی دلیل آپ علیہ السلام کا او طاس کے قیدیوں کے ہارے میں یہ فرماتا ہے۔ الا لا توطوؤ الحبالی حتى یضعن حملہن و

لا الحیالی حتی یستبرئن بحیضۃ“ یہ حدیث استبراء کے وجوب کا فائدہ دیتی ہے۔
حکم:

رحم کی براءت کو پہچاننا تاکہ ما محترم کو اختلاط سے بچایا جائے۔ [بخاری اقت: ۳۶۰/۸]

و من ملک یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کسی باندی کا خریدنے سے یا وصیت سے یا اور اشت سے یا کسی دوسرے سبب سے مالک بنا تو اس کے ذمے باندی کا استبراء کروانا واجب ہے یعنی اگر وہ باندی ایسی ہے جس کو حیض آتا ہے تو ایک حیض گزرنے سے قبل وطی نہ کرے اور اگر باندی ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا تو ایک مہینہ گزرنے کے بعد وطی کرے اور اگر باندی حاملہ ہے تو وضع حمل سے قبل وطی نہ کرے اگرچہ باندی باکرا ہو یا اس شخص نے کسی عورت سے خریدی ہو یا کسی غلام سے یا باندی کے حرم سے خریدی ہو یا بچے کے مال سے خریدی ہو ہر صورت میں استبراء واجب ہے، فان الحکمة فی سے استبراء کے وجوب کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ استبراء کی حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ باندی پہلے کسی نطفے سے خالی ہے۔ لہذا ما محترم اختلاط سے محفوظ رہے گا۔

اشکال:

ذکورہ بالادلیل پر یہ اشکال ہوا کہ جب استبراء کے وجوب کی حکمت یہ ہے کہ رحم کا بری ہونا معلوم ہو جائے تو یہ حکمت اس صورت میں ثابت نہ ہوگی جب باندی باکرا ہو یا کسی عورت یا باندی کے حرم سے خریدی گئی ہو کیونکہ ان صورتوں میں اس کا رحم یعنی طور پر بری ہے چنان چہ ان صورتوں میں استبراء واجب نہ ہونا چاہیے اس کے باوجود آپ نے ان صورتوں میں بھی استبراء واجب قرار دیا ہے۔

جواب:

ذلک عند سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے اسی اشکال مقدرا کا جواب دے رہے ہیں کہ استبراء کا وجوب رحم کے حقیقی طور پر مشغول ہونے کی صورت میں بھی ہے۔ مثلاً باندی ایسے شخص سے خریدی گئی جو اس سے وطی کرتا تھا یا وہ باندی حاملہ تھی اور استبراء کا وجوب رحم کی مشغولیت کے وہم کی صورت میں بھی ہے جیسے عورت کی بارہم کی باندی تو اس میں اگرچہ موی کا وطی نہ کرنا معلوم ہے لیکن رحم کا مشغول ہونا چونکہ ایک مخفی امر تھا اور مخفی امر پر حکم کی بنیاد نہیں رکھی جاتی کیونکہ مخفی امر کو پہچانا نہیں جاسکتا لہذا حکم کا مدار امر ظاہر باندی میں ملکیت نہیں ہونا ہے یعنی ایک کی ملکیت سے جب دوسرے کی ملکیت میں داخل ہوگی تو استبراء واجب ہو گا پیش از چہ ان امور یعنی عورت کی باندی اور حرم کی باندی میں بھی چونکہ ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا استبراء واجب ہو گا۔ مزید یہ کہ استبراء کی حکمت رحم کی براءت کو پہچانا ہے اور حکمت کی رعایت جنس میں کی جاتی ہے۔ ہر ہر فرد میں حکمت کی رعایت کرنا ممکن نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی فرد میں حکمت پائی جائے اور کسی فرد میں نہ پائی جائے، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ تمام باندیوں میں استبراء واجب ہے خواہ اس کا رحم حقیقی طور پر مشغول ہو یا مشغولیت کا وہم ہو۔ لہذا عورت کی باندی اور باکرا باندی میں بھی استبراء واجب ہو گا۔

اعتراض:

ولکن یہ رد عليه سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ استبراء کی حکمت پر اعتراض و جواب ذکر کر رہے ہیں۔ استبراء کی حکمت رحم کی براءت پہچانا اور شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ حکمت کی رعایت جنس میں کی جاتی ہے اور جنس کے ہر ہر فرد میں اس حکمت کی رعایت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی پر اعتراض ہوا کہ آپ کا یہ کہنا کہ حکمت کی ہر ہر فرد میں رعایت نہیں کی جاتی درست ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہر ہر

فرد میں رعایت ممکن نہیں ہے۔ البتہ معین انواع میں رعایت ممکن ہے، چنان چہ جن انواع میں حکمت کی رعایت ہو سکے، وہاں استبراء واجب ہوا اور جہاں حکمت کی رعایت نہ ہو سکے وہاں استبراء واجب نہ ہو۔ چنان چہ ”باندی ہونا“ ایک جنس ہے اس کی مختلف انواع میں مثلًا بکرا باندیاں عورتوں کی باندیاں محارم کی باندیاں وغیرہ تواب باکر باندیوں میں سے ایسی باندیوں میں جن کو ایسے شخص سے خریدا گیا ہو جن سے نسب ثابت نہیں ہو سکتا مناسب یہ ہے کہ استبراء واجب نہ ہو کیوں کہ ماء محترم کے ساتھ مشغولی نہ ہونا یقینی ہے۔ لہذا ان انواع میں استبراء واجب نہ ہو گا۔

جواب:

والجواب انه انما سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اس جواب سے قبل یہ بات جان لیں کہ کسی حکم کا دار و مدار اس کی حکمت پر نہیں ہوتا کہ حکمت پائی جائے تو حکم بھی پایا جائے اگر حکمت نہ پائی جائے تو حکم بھی نہ پایا جائے۔ لہذا ہم نے کہا استبراء ایک حکم ہے جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے او طاس کی قیدی باندیوں کے بارے میں فرمایا تھا ”الا لا تو طا الحبالی حتى يضعن حملهن ولا الحبالی حتى يستبرئن بحبيضة“ اب ان باندیوں میں ایسی باندیاں بھی تھیں جو باکر تھیں اور ایسی بھی تھیں جو کسی عورت کی ملک میں تھیں پھر اس عورت سے ان کو قید کر لیا گیا اسی طرح دوسرا باندیاں بھی تھیں جب ان میں ہر قسم کی باندیاں تھیں کہ جن کا حرم حقیقی طور پر ماء محترم کے ساتھ مشغول تھا یا پھر مشغولیت کا وہم تھا اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے استبراء کا عام حکم دیا کہ ہر باندی پر استبراء واجب ہے جب حکم عام ہے تو یہ حکمت کے ساتھ خاص نہ ہو گا بلکہ ہر قسم کی باندی پر استبراء واجب ہے۔

کما انه تعالى بین سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ حکمت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام کرنے کی حکمت یہ بیان فرمائی۔ انما یوید الشیطان ان یو قع اب اگر کوئی شخص یہ کہے شراب اس کے لیے حرام ہے جس کو شیطان عداوت میں دال دے یا نماز سے روک دے۔ مجھے شیطان عداوت میں نہیں ڈال سکتا اور نماز سے نہیں روک سکتا لہذا میرے لیے شراب پینا حلال ہے تو اس کی یہ بات بالکل قابل قبول نہیں ہے کیونکہ مصلحت اسی میں ہے کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے تو شریعت نے اس کو عمومی طور پر حرام کر دیا کیونکہ اگر عمومی طور پر حرام نہ کی جاتی بلکہ بعض افراد سے تخصیص کی جاتی تو ایسی خرابی لازم آتی جس سے حکمت بھی ختم ہو جاتی اور لوگ شراب پینے پر جرأت کرتے۔ لہذا استبراء کے مسئلے میں جب آپ علیہ السلام نے قیدیوں کے بارے میں عمومی حکم جاری کیا تو یہی حکم ملکیت کے تمام اسباب میں بذریعہ قیاس ثابت ہو گا کیونکہ علت معلوم ہے تو علت کے تعددی سے حکم بھی متعدد ہو گا مزید یہ کہ اس کی اجماع سے بھی تائید ہو گئی ہے۔

نوٹ:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ استبراء کا حکم قیدیوں میں نص سے ثابت ہے تو اس سے بذریعہ قیاس ملکیت کے تمام اسباب میں یہ حکم ثابت ہو گیا اس پر صاحب تناخ الافکار نے رد کیا ہے کہ قیدیوں کے بارے میں نص سے حکم خلاف قیاس ثابت ہے اور یہ مقامہ ہے کہ جو حکم خلاف قیاس ثابت ہواں پر مزید قیاس نہیں کر سکتے۔ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسباب ملک میں حکم دلالت انص سے ثابت ہوا ہے اور صاحب الاصلاح والایضاں رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایک درس اجواب دیا ہے اور شارح کے جواب کو رد کیا ہے۔ یہ تفصیل تناخ الافکار میں موجود ہے۔ میں نے طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کی۔

عبارت:

و تجب في شراء امة الاشخاصا هو له لان الملك ثم له والحكم يضاف الى العلة القريبة لا عند عود الابقة ورد المغصوبة والمستاجرة و فك المرهونة لانه لم يوجد الاستحداث الملك. و رخص حيلة اسقاط الاستبراء عند ابى يوسف خلافاً لمحمد رحمة الله تعالى و اخذنا بالاول ان علم عدم وطى بائعها في ذلك الطهر و بالثانى ان اقربها و حى ان لم تكن تحته حرمة ان ينكحها لم يشتريها اذ بالنكاح لا يجب الاستبراء ثم اذا اشتري زوجته لا يجب ايضا و ان كان ان يكتفى البائع قبل الشراء او المشتري قبل قبضه من يوثق به ثم يشتري ويقبض فيطلق الزوج اى ان كانت تحته حرمة فالحيلة ان ينكحها البائع قبل شراء المشتري رجالاً عليه اعتقاداً ان يطلقها ثم يشتريها اذ بالنكاح لا يجب الاستبراء ثم اذا اشتري زوجته لا يجب ايضا وان كانت ان ينكحها البائع قبل الشراء او المشتري قبل قبضه من يوثق به ثم يشتري ويقبض فيطلق الزوج اى ان كانت تحته حرمة فالحيلة ان ينكحها البائع قبل شراء المشتري رجالاً عليه اعتقاداً ان يطلقها ثم يشتريها اذ بالنكاح لا يجب الاستبراء فاذا طلقها الزوج قبل الدخول حل على المشتري وح لم يوجد حدوث الملك فلا استبراء او ينكحها المشتري قبل القبض ذلك الرجل ثم يقبضها ثم يطلقها الزوج فان الاستبراء يجب بعد القبض وح لا يحلوطى و اذا حل بعد طلاق الزوج لم يوجد حدوث الملك و م فعل بشهادة احدى دواعي الوطى بامتيازه لا تجتمعان نكاحا حرم عليه وظيهما بدواعيه حتى يحرم عليه احدهما دواعي الوطى هي القبلة و المس بشهوة والنظر الى فرجها بشهوة فان لدواعى الوطى حكم الوطى و تحريم احدهما يكون بازالة الملك كلا او بعضا او بالنكاح.

ترجمة:

اور باندی کی خریداری سوائے اس حصے کے جو (پہلے سے) خریدار کا ہے میں استبراء واجب ہے، اس لیے کہ ملکیت اس کی تام ہو گئی ہے اور حکم کی نسبت قریبی علت کی طرف کی جاتی ہے۔ بھاگنے والی باندی کے لوٹنے کے وقت اور مخصوصاً باندی اور مستاجر باندی کے واپس ہونے کے وقت اور مرهونہ باندی کو چھڑانے کے وقت استبراء واجب نہ ہوگا اس لیے کہ ملکیت کا نیا ہونا نہیں پایا گیا اور استبراء کو ساقط کرنے کا حیلہ کرنے کی امام ابو یوسف رحمة اللہ تعالیٰ کے نزدیک رخصت ہے برخلاف امام محمد رحمة اللہ تعالیٰ کے ہے اور ہم نے امام ابو یوسف رحمة اللہ تعالیٰ کے قول کو لیا ہے اگر اس کے باعث کا اس طہر میں وطی نہ کرنے کا علم ہو جائے اور امام محمد رحمة اللہ تعالیٰ کے قول کو لیا ہے اگر باعث نے وطی کرنے کا قرار کیا ہوا و حیلہ یہ ہے کہ مشتری باندی سے نکاح کر لے اگر اس کی آزادی عورت یوں نہ ہو پھر اس باندی کو خرید لے اس لیے کہ نکاح کی وجہ سے استبراء واجب نہ ہوگا۔ پھر جب وہ اپنی یوں کو خرید لے گا تو بھی واجب نہ ہوگا اور اگر آزادی عورت اس کی یوں ہوتا (حیلہ یہ ہے کہ) باعث اس باندی کا شراء سے قبل یا اس پر قبضے سے قبل ایسے شخص سے نکاح کروادے جس پر بھروسہ ہو پھر اس کو خریدے اور قبضہ کر لے پھر شہر طلاق دے دے یعنی اگر مشتری کی یوں آزادی عورت ہوتا حیلہ یہ ہے کہ باعث اس باندی کا مشتری کے خریدے نے قبل ایسے آدمی سے نکاح کروادے جس پر اس بات کا اعتقاد ہو کہ وہ اس کو طلاق دے دے گا پھر مشتری اس کو خرید لے پھر شہر طلاق دے دے تو استبراء واجب نہ ہوگا اس لیے کہ اس نے غیر کی مکوحة خریدی ہے اور اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے چنان چہ

استبراء بھی واجب نہیں ہے چنانچہ جب شوہر نے اس کو دخول سے قبل طلاق دے دی تو وہ مشتری کے لیے حلال ہو گئی اور اس وقت حدوث ملک نہیں پائی گئی۔ لہذا استبراء واجب نہیں ہے یا مشتری قبضے سے قبل اس مرد سے نکاح کروادے پھر اس پر قبضہ کرے پھر شوہر اس کو طلاق دے دے کیونکہ استبراء قبضے کے بعد واجب ہوتا ہے اور اس وقت وطی حلال نہیں ہے اور جب شوہر کے طلاق دینے کے بعد وطی حلال ہوئی تو حدوث ملک نہیں پائی گئی اور جس نے شہوت کے ساتھ دواعی وطی میں سے کوئی فعل اپنی ایسی دو باندیوں کے ساتھ کیا جو دونوں نکاح کے لحاظ سے جمع نہیں ہو سکتی تو اس پر ان دونوں سے وطی کرنا دواعی کے ساتھ حرام ہے یہاں تک کہ ان میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ دواعی وطی چومنا اور چھوٹنا شہوت کے ساتھ ہے اور عورت کے فرج کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا ہے کیونکہ دواعی وطی کا بھی وطی کا حکم ہے اور ان میں سے ایک کو حرام کرنا ملک کو کلایا بعض ازائل کر کے یا باندی کا نکاح کر کے ہو گا۔

تشریح:

و تجہب فی سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک باندی دو شخصوں نے مل کر مشترکہ طور پر خریدی پھر ان میں سے ایک ساتھی نے دوسرے کا حصہ بھی اس سے خرید لیا تو اب استبراء واجب ہو گا، اس لیے کہ مشتری کی ملک اب مکمل ہوئی ہے اس سے قبل باندی میں اس کا حصہ تھا اور اس باندی میں استبراء کی دعائیں ہیں۔ ایک علت بعیدہ وہ ہے جب دونوں نے مل کر باندی خریدی تھی اور دوسری علت قریبہ وہ ہے کہ جب ایک ساتھی نے دوسرے کا حصہ بھی خرید لیا اور حکم کی نسبت علت قریبہ کی طرف ہوتی ہے۔ لہذا اپنی مرتبہ جب دونوں نے مل کر باندی خریدی تھی تو اس وقت استبراء واجب نہ ہو گا۔

لا عند عود الابقة..... یعنی اگر ایک باندی مولیٰ سے بھاگ گئی اور پھر اس کو واپس لا یا گیا اور اسی طرح ایک باندی کو کسی نے غصب کر لیا اور پھر مولیٰ کو واپس کی اور اسی طرح ایک باندی کو مولیٰ نے خدمت کرنے کے لیے اجارہ پر دیا اور پھر وہ اجارہ سے واپس لوٹی اور اسی طرح اگر ایک شخص نے اپنے ذمے دین کے بد لے باندی کو رہن رکھوادیا پھر وہ اس کو رہن سے واپس چھڑوایا تو ان تمام صورتوں میں مولیٰ پر استبراء کروانا واجب نہیں ہے۔ کیوں کہ استبراء کے وجوب کی دلیل ملک کا نیا ہونا ہے اور ان ساری صورتوں میں ملک نہیں ہوئی بلکہ پرانی ملک ثابت ہے۔

رخص حیله سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ استبراء کو ساقط کرنے کے لیے حیله کرنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ حکم کو اپنے اوپر لازم کرنے سے روکنا ہے اس ڈر سے کہ اگر یہ حکم لازم ہو گیا تو ممکن ہے کہ اس کو پورا نہ کیا جاسکے چنانچہ حکم ساقط کرنے کے لیے حیله کرنا جائز ہے۔

اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حیله کرنا مکروہ ہے کیوں کہ حیله کے ذریعے احکام شرعیہ سے فرار کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے جو کہ مؤمن کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ حیله کرنا مکروہ ہے۔

راجح قول:

لہذا اب اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ خریدنے سے قبل جو طبر گزار ہے اس میں باعث نے باندی سے وطی نہیں کی تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو لیا جائے گا اور حیله کرنا جائز ہو گا اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ باعث نے طبر میں وطی کی ہے تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو لیا جائے گا اور حیله کرنا مکروہ ہو گا اور علامہ ابو سعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کچھ بھی معلوم نہ ہو تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا اور حیله کرنا مکروہ ہو گا۔

وہی ان لم سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ حیلہ کرنے کا طریقہ ذکر کر رہے ہیں اب چونکہ مشتری دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو مشتری کی کسی آزاد عورت سے شادی ہوئی ہوگی یا شادی نہ ہوئی ہوگی اگر شادی نہ ہوئی ہو تو اس کا ایک حیلہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اگر شادی ہوئی ہو تو اس کے دو حیلے ذکر کیے ہیں۔

پہلا حیلہ:

اس حیلے کا تعلق اس مشتری سے ہے جس کی کسی آزاد عورت سے شادی نہ ہوئی تو حیلہ یہ ہے کہ مشتری باندی خریدنے سے قبل اس سے نکاح کر لے پھر اس پر قبضہ کر لے اور اس سے طلب بھی کر لے پھر اس باندی کو خریدے تو استبراء واجب نہ ہو گا اس لیے کہ اس مشتری نے دو کام کیے ہیں ایک کام یہ کیا کہ اس باندی سے نکاح کیا اور نکاح کرنے سے استبراء واجب نہیں ہوتا اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس کو خریدا اور خریدتے وقت اس کی بیوی تھی اور بیوی کو خریدنے سے استبراء واجب نہیں ہوتا۔

[شای: ۶/۳۷۷]

دوسرہ حیلہ:

اس حیلے کا تعلق اس مشتری سے ہے جس کی کسی آزاد عورت سے شادی ہوئی ہو تو حیلہ یہ ہے کہ بالع مشتری کے خریدنے سے قبل اس باندی کا کسی ایسے شخص سے نکاح کروادے جس پر اعتماد ہو کہ وہ اس باندی کو طلاق دے دے گا چنانچہ اس کے نکاح کے بعد مشتری باندی کو خرید لے اور اس پر قبضہ کر لے پھر شوہر اس کو طلاق دے دے تو اب استبراء واجب نہ ہو گا اس لیے کہ مشتری نے دوسرے کی منکوحہ خریدی ہے اور دوسرے کی منکوحہ سے طلبی کرنا حلال نہیں ہے، چنانچہ جب طلبی حلال نہیں ہے تو استبراء بھی واجب نہیں ہے کیونکہ استبراء اس جگہ واجب ہوتا ہے جس میں طلبی کرنا حلال ہو اور جب شوہرنے اس کو طلاق دے دی اور دخول نہیں کیا تھا تو یہ مشتری کے لیے حلال ہو گئی تو اب استبراء واجب نہیں ہے کیونکہ اب حدوث ملک نہیں پائی گئی اور استبراء کے وجوب کا سبب حدوث ملک ہے۔

تیسرا حیلہ:

اس حیلے کا تعلق بھی اس مشتری کے ساتھ ہے جس کا کسی آزاد عورت سے نکاح ہوا ہو وہ حیلہ یہ ہے کہ مشتری باندی خریدنے کے بعد اور اس پر قبضہ کرنے سے قبل اس کا ایسے شخص سے نکاح کروادے جس پر اعتماد ہو کہ وہ اس کو طلاق دے دے گا پھر اس باندی پر قبضہ کر لے پھر شوہر اس کو طلاق دے دے تو اب استبراء واجب نہ ہو گا کیونکہ استبراء قبضہ کرنے کے بعد واجب ہوتا ہے اور قبضہ کرنے کے بعد اس باندی سے طلبی کرنا حلال نہ تھی کیونکہ وہ دوسرے کی منکوحہ تھی چنانچہ استبراء واجب نہیں ہے اور جب شوہرنے طلاق دے دی تو اب باندی تو حلال ہو گئی لیکن حدوث ملک نہیں پایا گیا جو کہ استبراء کے وجوب کا سبب ہے۔

چوتھا حیلہ:

تیسرا اور چوتھے حیلے میں یہ گزرا کہ ایسے شخص سے نکاح کروائے جس پر اعتماد ہو کہ وہ اس کو طلاق دے دے گا لہذا اگر ایسا شخص نہ مل بلکہ اس پر خوف ہو کہ وہ اس کو طلاق نہ دے گا تو اب بالع یا مشتری اس شخص سے نکاح کروادے اور اس بات کی شرط لگادے کہ اس عورت کی طلاق کا معاملہ اس عورت کے یا میرے ہاتھ میں ہے میں جب چاہوں گا اس کو طلاق دلواؤں گا۔

[در مختار: ۶/۳۷۸]

لطفیہ:

صاحب در مختار رحمہ اللہ تعالیٰ نے استبراء کے متعلق ہارون رشید اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا لچپ قصہ لکھا ہے۔

[ترکیۃ مخافة التطویل من شاء فلیراجعہ ۶/۳۷۸]

و من فعل سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی ایسی دو باندیاں ہیں جو نکاح کے لحاظ سے اکٹھی ہیں ہو سکتی تواب اس کی تین صورتیں ہیں یا تو اس نے کسی سے بوسہ نہ لیا ہو گا تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے جس سے چاہے و کرے اور بوسے لے اور اگر اس نے ان میں سے ایک سے بوسہ لیا ہو تواب صرف اسی باندی سے ٹلی کر سکتا ہے اور اگر اس نے دونوں شہوت سے بوسے لے لیا تواب اس پر دونوں باندیاں حرام ہو گئی ہیں۔ البتہ یہ کہ ان میں سے کسی ایک کو حرام کر لے اور حرام کرنے کی مختلف صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ایک باندی کا کسی دوسرے شخص سے نکاح صحیح کروادے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ باندی کی پوری کچھ ملکیت کا کسی کو ہبہ وغیرہ کے ذریعے مالک بنا دے تو اس صورت میں دوسری باندی سے ٹلی کرنا حلal ہو جائے گی۔

[عنایتی: ۳۶۳/۸، بحر الرائق: ۳۸۳/۸]

عبارت:

و تقبیل الرجل اعتقاده في ازار واحد و جاز مع القميص فلا باس بالاجماع والخلاف فيما يكون للمح واما بالشهوة فلا شک في الحرمة اجماعاً و بيع الذوة خالصة و صح في الصحيح مخلوطة كبيع السرقى والانتفاع بمخلوطتها لا بخالصتها فان بيع السرقين جائز عندنا و عند الشافعى رحمه الله تعالى لا يجوز و ج اخذ دين على كافر من ثمن خمره باعه بخلاف المسلم اي بخلاف دين على المسلم فانه لا يوجد من ثم خمر باعه المسلم لان بيده باطل فالثمن الذى اخذه حرام و تحلية المصحف بالرفع عطف على اخذ دين دخلو الذمى المسجد هذا عندنا و عند مالك و اشافعى رحمهما الله تعالى اي لقوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام قلنا لا يراد نهى الكفار عن هذا لان قوله انما المشركون نجس لا يوج الحرمة بعد عاتهم هذا بل المراد بشارة المسلمين بان الكفار لا يتمكرون من الدخول بعد عاتهم هذا و عياد و خصاء البهائم و انزاء العمير على الخيل، والحقنة، ورزق القاضى اي من بيت المال فان القضاء و ان ك عبادة و لا اجر على العبادة فهذا يجوز لان في المنع الامتناع عن القضاء.

ترجمہ:

اور مرد کا بوسہ لینا اور اس سے ایک شلوار میں معافہ کرنا مکروہ ہے اور قیص کے ساتھ معافہ کرنا جائز ہے اور اس سے مصافحہ جائز ہے اور اس کا "جاز" کی ضمیر پر عطف ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک ہے اور امام ابویوسف رحمہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک شلوار میں ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے اور بہر حال قیص کے ساتھ تو اس میں بالاجماع حرج نہیں ہے اختلاف اس معافہ میں ہے جو محبت کے لیے ہو اور بہر حال شہوت کے ساتھ ہو تو اس کی حرمت میں اجماعاً شک نہیں ہے اور انسان خالص فضلے کی بیع مکروہ ہے اور صحیح قول کے مطابق مخلوط فضلے کی بیع صحیح ہے جیسے جانوروں کے مخلوط فضلے کی بیع اور اس سے نفع حاصل کرنا ہے نہ کہ خالص فضلے کی بیع صحیح ہے کیونکہ جانوروں کے فضلے کی بیع ہمارے زدیک ناجائز ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک ہے اور اس دین کو لینا جائز ہے جو کافر پر اس کی شراب کے شمن سے واجب ہوا ہو جس کو اس نے فروخت کیا ہو۔ برخلاف مسلمان کے یعنی مسلمان پر دین کے برخلاف ہے کیونکہ اس شراب کا شمن نہیں لیا جائے گا جس کو مسلمان نے فروخت کیا ہوا ہے لیے کہ اس کی بیع با ہے چنان چہ وہ شمن جو اس نے لیا ہے حرام ہے اور مصحف کو آراستہ کرنا جائز ہے یہ نفع کے ساتھ ہے اس کا "اخذ دین" پر عطف ہے

ذمی کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے۔ ”انما المشر کون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام“ ہم نے کہا اس آیت سے کفار کو منع کرنا مراد نہیں لیا جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ”انما المشر کون نجس“ یہ سال کے بعد کی حرمت کو ثابت نہیں کرتا بلکہ مسلمانوں کو خوشخبری دینا ہے کہ کفار اس سال کے بعد دخول پر قدرت نہیں رکھتے اور ذمی کی عیادت کرنا جانوروں کو خصی کرنا۔ گھوڑی پر گدھے کو چڑھانا، حقنے کرنا اور قاضی کو تxonah دینا جائز ہے۔ یعنی بیت المال سے۔ کیوں کہ قضاۓ اگرچہ عبادت ہے اور عبادت پر اجرت نہیں ہوتی پس یہ جائز ہے اس لیے کہ اجرت نہ دینے میں قضاۓ سے رکنا ہے۔

ترتیب:

و تقبیل الرجل سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تین اشیاء کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ (۱) معافقة۔ (۲) بوسہ۔ (۳) مصافحة۔

معافقة کا حکم:

اگر دو شخصوں میں سے ہر ایک نے صرف شلوار پہنی ہو اور پھر وہ معافقة کریں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے جب کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے اور اگر دونوں نے قیص بھی پہنی ہو تو بالاجماع طور پر جائز ہے اور یہ اختلاف اس معافے میں ہے جو بطور محبت کیا جائے البتہ جو معافۃ شہوت کے طور پر کیا جائے وہ حرام بالاتفاق ہے۔

معافۃ کی قسمیں:

معافۃ کی چار قسمیں ہیں۔

پہلی قسم یہ ہے کہ معافۃ بطور شہوت کیا جائے یہ حرام ہے۔ اگر ایک ساتھی شہوت سے کرے اور دوسرے کو اس کا علم نہ ہو تو دوسرے کے لیے معافۃ کرنا جائز ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ معافۃ محض تکلف اور جھوٹی محبت ظاہر کرنے کے لیے ہو یہ اچھا نہیں ہے البتہ مباح ہے۔

تیسرا قسم یہ ہے کہ تبرک حاصل کرنے کے لیے معافۃ کیا جائے یہ اچھا ہے۔

چوتھی قسم یہ ہے کہ دشمنی کے طور پر معافۃ کیا جائے۔ [بحشی]

فائدہ:

یہ بات چانی چاہے کہ معافۃ کے بارے میں دونوں قسم کی احادیث وارد ہیں۔ چنان چہ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احادیث میں تظییں دیتے ہوئے ذکر کیا کہ جو معافۃ شہوت کے طور پر کیا جائے وہ مکروہ ہے اور جو تبرک اور کرامت کے لیے کیا جائے وہ جائز ہے۔

بوسہ کا حکم:

بوسہ لیتا اگر بطور تبرک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر بطور شہوت ہو تو مکروہ ہے اور اسی طرح کسی عالم اور بزرگ کا ہاتھ بطور تبرک چومنا جائز ہے۔

بوسہ کی اقسام:

فقیہ ابواللیث نے بوسہ کی پانچ اقسام ذکر کی ہیں۔

پہلی قسم یہ ہے کہ بطور رحمت بوسہ لیا جائے جیسے والد اپنے بچے کا بوسہ لے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ بطور استقبال بوسہ لیا جائے جیسے ایک مومن دوسرے مومن کا بوسہ لے۔

تیسرا قسم یہ ہے کہ بطور شفقت بوسہ لیا جائے جیسے بچا پنے والد کا بوسہ لے۔

چوتھی قسم یہ ہے کہ بطور شہوت بوسہ لیا جائے جیسے شوہر اپنی بیوی کا بوسہ لے۔

پانچویں قسم یہ ہے کہ بطور محبت بوسہ لیا جائے جیسے آدمی اپنے بھائی کی پیشانی پر بوسہ لے۔

[بخاری: ۳۶۲]

مصنفوں کا حکم:

مصنفوں جائز ہے بلکہ سنت ہے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مصنفوں ملاقات کے وقت مستحب ہے البتہ جو بعض لوگوں نے

[شامی: ۶/۳۸۱]

صحیح اور عصر کی نماز کے بعد مصنفوں کی عادت بناتی ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ سے تاج:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ عبارت "لا بأس بهما فی ازار واحد" ذکر کی ہے اس میں ان سے تاج ہوا ہے کیوں کہ اس کا

مطلوب یہ ہے کہ ایک شلوار میں معانقة کرنے اور بوسہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے کیوں کہ صرف شلوار میں معانقة کرنا

پایا جاتا ہے لیکن بوسہ لینا کپڑے پر تحقیق نہیں ہے بلکہ عام طور پر بوسہ بلا کسی جاگہ کے لیا جاتا ہے۔

چنانچہ بوسے کے ساتھ "فی ازار واحد" کے لفظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا صاحب التویر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہترین عبارت ذکر

کی ہے کہ تقبیل الرجل و معانقة فی ازار واحد چنانچہ "فی ازار واحد" کا تعلق صرف "معانقة" کے ساتھ ہے اور

[جعفری، درختار: ۶/۳۸۱] "تقبیل الرجل" مطلق ہے۔

و یعنی سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ خالص انسانی فضله کی بیع کرنا مکروہ ہے البتہ اگر اس کے ساتھ مٹی یا

ریت وغیرہ ملی ہوئی تو صحیح قول کے مطابق یہ بیع صحیح ہے اور اسی طرح خالص فضله سے نفع حاصل کرنا مکروہ ہے اور مخلوط فضله سے نفع حاصل

کرنا جائز ہے۔ البتہ انسان کے علاوہ دیگر حیوانات کے خالص فضله کی بیع اور اس سے نفع حاصل کرنا احتاف کے نزدیک صحیح ہے جب کہ

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بیع صحیح نہیں ہے۔

فائدہ:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مخلوط فضله کی بیع صحیح ہے اور یہ بیان نہیں کیا کہ مٹی اور ریت اس پر غالب ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح

صاحب حدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جب کہ صاحب درمتار رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر مٹی اور ریت فضله پر غالب ہو تو اس کی بیع صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں تقطیق دینے کے مختلف جوابات دیے ہیں جن میں سے

ایک یہ کہ صاحب حدایہ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کو رخصت پر محول کیا جائے اور صاحب درمتار رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کو

عزیت پر محول کیا جائے۔

[شامی: ۶/۳۸۵]

و جاز اخذ دین سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کا کسی کافر پر دین ہو پھر کافرنے اپنی

شراب فروخت کی اور اس سے حاصل ہونے والے ملنے سے قرض ادا کر دیا تو اب مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس رقم کو لے لے اور اگر

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر دین ہو اور مدینا اپنی شراب فروخت کر کے اس سے دین ادا کر دے تو اب قرض خواہ کے لیے وہ رقم لینا

صحیح نہیں ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں شراب کی بیج صحیح ہے چنانچہ باعث اس کے شمن کا مالک بن گیا کیوں کہ شراب کافر کے لیے مال مقصود ہے اور دوسرا صورت میں مسلمان کا شراب کو فروخت کرنا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے شمن کا مالک نہیں بنا جب یہ اس کے شمن کا مالک نہیں بنا تو یہ شمن ابھی غیر (شраб کو خریدنے والے) کی ملک ہے اور غیر کی ملک کو لینا صحیح نہیں ہے۔

[بحار الرائق: ۳۶۹/۸]

عبارت:

و سفر الامة و ام الولد بلا محرم فان مس الاعضائهما في الالكاب كمس اعضاء المحارم و شراء ما لا بد للطفل منه و بيعه لاخ و عم و ملتقط هو في حجرهم و احترته لامه فقط فان الام تملک اتلاف منافعة بالاستخدام ولا كذلك غيرها وبيع العصير من يخذل خمراً فان المعصية لا تقوم بعين العصير بخلاف بيع السلاح ممن يعلم انه من اهل الفتنة فان المعصية تقوم بعينه وحمل خمر ذى باجرة هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وعندہما لا يجوز ولا يحل له الاجر واجارة بيت بالسوداد ليتخد بيت نار او كنيسة او بعة او يباع فيه الخمر هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى لتخلل فعل الفاعل المختار و قال لا يجوز و انما قال بالسوداد لانه لا يجوز فى الامصار اتفاقاً و فى سوا دنا لا يمكنون منها فى الاصح فان ما قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى يختص بسوداد الكوفة فان اکثر اهلها ذمى فاما فى سوداد فاعلام الاسلام فيه ظاهرة وبيع بناء بيوت مكة و تقييد العبد و قبول هديته تاجر او اجابة دعوته و استعارة دابته وفى القياس لا يجوز وجه الاستحسان انه صلى الله عليه وسلم قبل هدية سلمان و بربرة وكسوتہ ثوبا واهداوه النقادین اى ان يكسو العبد غيره ثوبا و ان يهدىء النقادين واستخدام الشخص فانه حث على اخضاء الانسان وهو غير جائز، واقراض يقال شيئاً يأخذ منه ماشاء فانه قرض جرنفعاً و اللعب بالشرنج والنبرد وكل لهو هذا عندنا و عند الشافعى رحمه الله تعالى يباح لعب الشترنج اذ فيه تشحيد الخاطر لكن بشرط ان لا تفوته الصلة ولا يكون فيه ميسير قلنا هو مظنة فوت الصلة وتضييع العمر و استيلاء الفكر الباطل حتى لا يحس بالجوع و العطش فكيف بغيرهما.

ترجمہ:

اور باندی اور ام ولد کا بلا محرم سفر کرنا جائز ہے کیونکہ سوار کروانے میں ان کے اعضاء کو چھوٹے کی طرح ہے اور بچے کے لیے ضروری اشیاء کو خریدنا اور فروخت کرنا بھائی اور بچا اور ماں اور ملتقط (بچے کو اٹھانے والا) کے لیے جائز ہے دراں حاکمہ بچے ان کی پروردش میں ہو اور بچے کو مزدوری پر دینا افقط ماں کے لیے جائز ہے کیوں کہ ماں اس کے منافع کو خدمت طلب کر کے خرچ کرنے کی مالک ہے اور ماں کے علاوہ اس طرح نہیں ہیں اور اس شخص کو شیر اور فروخت کرنا جو اس سے شراب بنائے گا جائز ہے، کیوں کہ معصیت شیرے کی عین سے قائم نہیں ہے برخلاف اس شخص کو تھیار فروخت کرنے کے ہے جس کے بارے میں علم ہے کہ وہ اہل فتنہ میں سے ہے کیونکہ معصیت تھیار کی عین سے قائم ہے۔ اور ذمی کی شراب اجرت کے ساتھ اٹھانا جائز ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناجائز ہے اور مزدور کے لیے اجرت حلال نہیں ہے اور دیہات میں کمرہ اجارہ پر دینا جائز ہے تاکہ اس میں آتش کدہ یا کنیسه یا بیعہ یا اس میں شراب فروخت کی جائے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے فاعل مختار کے فعل

حائل ہونے کی وجہ سے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ناجائز ہے سوائے اس کے نہیں دیہات کہا اس لیے کہ یہ شہروں میں اتفاقی طور پر ناجائز ہے اور ہمارے دیہاتوں میں اصح قول کے مطابق کفار ان عمارتوں کو بنانے کی قدرت نہیں رکھتے، کیوں کہ امام ابوحنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ کوفہ کے ساتھ خاص ہے کیوں کہ ان میں اکثر ذمی تھے۔ بہر حال ہمارے دیہاتوں میں اسلام کی علامات غالب ہیں اور مکہ کی عمارتوں کو فروخت کرنا جائز ہے اور غلام کو قید کرنا اور اس کاحد یہ قبول کرنا دراں حاکمہ وہ تاجر ہو اور اس کی دعوت قبول کرنا اور اس کی سواری کو عاریت پر لینا یہ سب جائز ہے اور قیاس کے مطابق یہ جائز نہیں ہے اور احسان کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ اور حضرت بریہ رضی اللہ عنہ کاحد یہ قبول فرمایا تھا اور غلام کا کپڑے پہننا نا اور غلام کا نقدین کو ہدیہ کرنا مکروہ ہے یعنی یہ بات مکروہ ہے کہ غلام کسی کو کپڑے پہنانے اور یہ کہ کسی کو نقدین ہدیہ کرنے اور خصیٰ شخص سے خدمت لینا مکروہ ہے کیوں کہ یہ انسان کو خصیٰ کرنے پر ابھارتا ہے اور یہ ناجائز ہے اور سبزی فروش کو کچھ قرض دینا تاکہ اس سے جو چاہے لے لے یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ ایسا قرض ہے جو نقع لے کر آ رہا ہے اور شترنخ اور نزد اور ہر لہو سے کھلنا مکروہ ہے یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شترنخ کے ساتھ کھلنا مباح ہے کیوں کہ اس میں ذہن کو تیز کرنا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی نمازوں نہ ہو اور اس میں جوانہ ہو۔ ہم نے کہا شترنخ نمازوں کے فوت ہونے اور عمر ضائع کرنے اور فکر باطل کو غلبہ دینے کی جگہ ہے۔ یہاں تک کہ انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا تو ان کے علاوہ کا احساس کس طرح ہوگا۔

تشریح:

و سفر الامة سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ باندی اور ام ولد کے لیے بلا حرم سفر کرنا جائز ہے کیوں کہ جنپی مرد باندیوں کے حق میں ایسے ہیں جیسے ان کے محارم ہیں چنان چہ ان کو سوار کروانے میں ان کے اعضاء کو چھوٹا بھی ایسا ہے جیسا کہ محارم کے اعضاء کو چھوٹا اور محارم کے اعضاء کو چھوٹا جائز ہے۔ لہذا ان کے اعضاء کو چھوٹا بھی جائز ہے چنان چہ ان کے لیے بلا حرم سفر کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ ان کے زمانے میں تھا ہمارے زمانے چوں کہ اہل فساد کا غالباً ہے اس لیے اب سفر کرنا بلا حرم جائز نہیں ہے۔ [در مختار: ۴/ ۳۹۰]

و بیع العصیر یہ بات جان لئی چاہیے کہ میمع کی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جس کی ذات کے ساتھ معصیت قائم نہیں ہو گی جیسے گندم، چاول وغیرہ ہیں اس کی بیع بالاتفاق جائز ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ جس کی ذات کے ساتھ معصیت قائم ہو گی لیکن اس کی عین کے ساتھ نہیں بلکہ اس عین میں تبدیلی کرنے کے بعد معصیت قائم ہو گئی جیسا کہ انگور کا شیرا ہے کہ اس میں تصرف کرنے کے بعد یہ شراب بنے گی اور فی الحال شراب نہیں ہے تو اس کی بیع امام ابوحنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کافر کو شیر افروخت کیا جائے۔ بہر حال اگر ایسے مسلمان کو شیر افروخت کیا جائے جو اس سے شراب بنائے گا تو یہ بالاتفاق مکروہ ہے۔

[در مختار: ۶/ ۳۹۱]

تیسرا قسم یہ ہے کہ میمع کی عین سے معصیت قائم ہو گی جیسے ہتھیار اہل فتنہ کو فروخت کرنا بالاتفاق مکروہ ہے۔

و حمل خمر ذمی سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان نے ذمی کی شراب خود یا اپنی سواری پر کرایہ لے کر اٹھائی اور اس کی اجرت لی تو یہ امام ابوحنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناجائز ہے۔ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث دلیل میں پیش کی ہے جس میں آپ علیہ السلام شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر لعنت فرمائی

بے حج میں اٹھانے والا بھی شامل ہے اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے کہ اٹھانے پر اجرت لینے میں کوئی معصیت نہیں ہے بلکہ معصیت فاعل مختار کے فعل سے آئے گی۔

حج قول:

رانچ قول صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا ہے چنانچہ کسی شدید ضرورت کے بغیر ایسے خطرات میں نہیں پڑنا چاہے۔

[اماء المغتیین: ۲/۱۷، احسن الفتاویٰ: ۷/۳۳۲]

واحارة بنت سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہیا توں میں کوئی کمرہ اس لیے کراچے پر دینا تاکہ اس میں آتش درہ (جو سیوں کی عبادت گاہ) یا کینیہ (یہودیوں کی عبادت گاہ) یا بیعہ (نصاریٰ کی عبادت گاہ) بنائی جائے گی یا اس میں شراب فروخت جائے گی تو یہ امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناجائز ہے۔

ام اعظم کی دلیل:

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ اجارہ کمرے کی منفعت پر ہوا ہے اور اسی وجہ سے کمرہ حوالے کرتے ہی اجرت واجب ہو گی وہ اس میں عبادت گاہ نہ بنائی جائے چنانچہ اجارہ میں معصیت نہیں ہے اور معصیت متاجر کے فعل میں ہے اور وہ اس فعل میں مختار، لہذا اجارے پر دینا اور اجرت لینا جائز ہے۔

[شای: ۶/۳۹۲]

انما قال بالسود سے شارح رحمہما اللہ تعالیٰ "السوداد" کی قید کافائدہ بیان کر رہے ہیں کہ مذکورہ بالا اختلاف اس صورت ہے جب کمرہ دیہات میں کراچے پر دیا جائے بہر حال شہروں میں کمرہ کراچے پر دینا تاکہ اس میں ایسی عبادت گاہیں بنائیں یہ تفاق ناجائز ہے۔

اور اسی طرح دیہات سے مراد بھی کوفہ کے دیہات ہیں کیوں کہ ان میں ذمیوں کی اکثریت تھی بہر حال ہمارے دیہات میں چوں کہ لمانوں کا غالبہ ہے۔ لہذا اس میں کمرے کو ان امور کے لیے اجارہ پر دینا ناجائز ہے۔

ل:

مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ نے جو "بیع العصیر ممن او بیاع فيه الخمر" تک جو مسائل بیان کیے ہیں ان میں سے ہر ایک معصیت کا سبب ہے لیکن سبب کی نوعیت میں فرق ہے اور اسی پر جواز اور عدم جواز کا مدار ہے۔ چنانچہ مفتی اعظم مولانا شفیع صاحب رحمہ تعالیٰ نے یہ اصول ذکر کیا ہے کہ سبب اگر معصیت کی طرف حرک اور داعی ہو تو ایسے سبب کا ارتکاب کرنا حرام ہے جیسے قرآن پاک میں، "لا تسبووا الذين يدعون کتم کفار کے معبدوں کو برabolana کہو کیوں کہ یہ اس کا سبب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو برabolana ہیں گے اگر سبب حرک اور داعی نہ ہو بلکہ محض معصیت تک موصل ہو اور وہ سبب قریب ہو یعنی معصیت کے قیام کے لیے فاعل کو اس میں تبدیلی رہی پڑے جیسے اہل فتنہ کو تھیار فروخت کرنا اور اس شخص کو شیر افر و خوت کرنا جو اس سے شراب بنائے گا اور کمرے کو اجارہ پر دینا تاکہ اس شراب فروخت کی جائے یا کینیہ یا بیعہ بنا یا جائے تو یہ مکروہ تحریک ہے بشرطیکہ بالع کو اس کا علم ہو اور اگر بالع کو علم نہ ہو تو وہ معدور، اور اگر سبب محض معصیت تک موصل ہو اور وہ سبب بعید ہو یعنی موجودہ حالت میں اس سے معصیت کا قیام نہیں ہو سکتا بلکہ اس میں لی کرنے کے بعد معصیت قائم ہو گی جیسے اہل فتنہ کو لوہا فروخت کرنا تو یہ مکروہ تحریک ہے۔

[جوہر الفقة: ۲/۳۵۳]

و بیع بناء بیوت سے مصنف رحمہما اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کی عمارتوں کو فروخت کرنا جائز ہے اور اسی طرح اس کی

زمینوں کو بھی فروخت کرنا جائز ہے البتہ مکہ کے گھروں کو اجارہ پر دینا حج کے موسم میں مکروہ ہے اور حج کے علاوہ دنوں میں صحیح ہے۔
[درستار ۳۹۲/۶]

عبارت:

و جعل الغل في عنق عبد و بيع ارض مكة و اجارتها هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى لان مكة حرام و
عنهما يجوز لان ارضها مملوكة و قوله في دعائة بمعقد الغرم من عرشك و بحق رسلك و ابيائك لانه
يوجه تعلق عزه بالعرش و لا حق لاحد على الله تعالى و عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى يجوز الاول للدعاء
الماثور و تعشير المصحف و نقطه الا للعجم فانه حسن لهم و احتكار قوت البشر و البهائم فى بلد يضر باهله
التخصيص بالقوت قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى و عند ابى يوسف رحمه الله تعالى كل ما اضر بالعامة جبته
 فهو احتكار وعن محمد رحمه الله تعالى لا احتكار فى الشياطين و مدة الحبس قيل مقدرة باربعين يوما و قيل
بيع فاضل عن قوته و قوت اهله فان لم يفعل غرره وال الصحيح ان القاضى بيع ان امتنع اتفاقا لاغلة ارضه و
مجلوبه من بلد اخر هذا عند ابى حنيفة و عند ابى يوسف رحهمها الله تعالى كل ذلك و عند محمد رحمه
الله تعالى كل ما يجلب منه الى المصر غالبا فهو في حكم المصر و لا يسر حاكم الا اذا تعدى الارباب عن
لاقيمة فاحشا فيسر بمشورة اهل الرأى.

ترجمہ:

اور اپنے غلام کی گردن میں زنجیر ڈالنا اور مکہ کی زمین کو فروخت کرنا اور اجارہ پر دینا مکروہ ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
ہے اس لیے کہ حرم ہے اور صاحبین رحہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے اس لیے کہ اس کی زمین مملوک ہے اور انسان کا اپنی دعا میں یوں
کہنا "بمقعد العز من عرشك" اور "بحق دسلک و انبیائک" مکروہ ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عزت کے عرش سے
متعلق ہونے کا وہم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق نہیں ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلا ماثور دعا میں جائز ہے اور
قرآن پر اعراب اور نقطے لگانا مکروہ ہے مگر عجمیوں کے لیے جائز ہے کیوں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے اور انسانوں اور جانوروں کی روزی کو
ایسے شہر میں ذخیرہ کرنا جس شہر والوں کو ضرر ہو یہ مکروہ ہے روزی سے خاص کرنا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور امام ابو یوسف رحمہ
الله تعالیٰ کے نزدیک ہروہ شی جس سے عام لوگوں کو تکلیف ہواں کو روکنا احتکار ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ کپڑوں میں
احتکار نہیں ہے اور ذخیرہ اندوڑی کی مدت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چالیس دن سے مقرر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک ماہ سے مقرر
کی گئی ہے اور یہ دنیا کے انجام کے حق میں ہے لیکن وہ شخص گناہ کار ہو گا اگر چہ مدت کم ہو اور واجب ہے کہ قاضی اس کو اپنی روزی اور اپنے
گھر والوں کی روزی سے زائد فروخت کرنے کا حکم دے اور اگر وہ یہ نہ کرے تو اس کو تعزیر لگائے اور حجج یہ ہے کہ اگر وہ ڈک جائے تو اس کو
بالاتفاق فروخت کر دے اپنی زمین کے اناج کو ذخیرہ کرنا احتکار نہیں ہے اور جواناج دوسرے شہر سے لے جایا گیا اس کو ذخیرہ کرنا مکروہ
نہیں ہے یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سارا بھی مکروہ ہے اور امام محمد رحمہ اللہ
تعالیٰ کے نزدیک ہروہ جگہ جس سے اناج عموماً شہر لے کر آیا جاتا ہے وہ شہر کے حکم میں ہے اور حاکم بھاؤ مقرر نہیں کرے گا مگر بہ اذن
والے قیمت سے بہت زیادہ تعداد کر لیں تو پھر اہل رائے کے مشورہ سے بھاؤ مقرر کر دے گا۔

ترجع:

و جعل الغل سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھاگنے والے غلام کے گلے میں لوہے کا طوق ڈالنا مکروہ ہے۔
لفظ غل کی تحقیق:

لفظ ”غل“، غین کے ضمہ اور سرہ کے ساتھ مستعمل ہے اور ”اقنی“، ”میں مذکور ہے کہ اس لوہے کے ہار کو کہا جاتا ہے جو غلام کی گردan میں ڈالا جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ غلام بھاگا تھا اور ”قہستانی“، ”میں مذکور ہے کہ اس لوہے کے ہار کو کہا جاتا ہے جس میں بہت بڑی کیلیں لگائی جاتی ہے جو غلام کو سر کی حرکت دینے سے روکتی ہے۔

[شامی: ۷/ ۳۹۵] و قوله في دعائه سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا اپنی دعائیں یوں کہنا ”اللهم استلک بمعقد العز من عرشك“، مکروہ ہے کیوں کہ یہ جملہ اس بات کا دھم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت عرش سے متعلق ہے اور عرش حادث ہے چنان چہ اللہ تعالیٰ کی عزت بھی حادث ہے حالاں کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت صفت قدیم ہے۔ البتہ امام ابو یوسف سے مردی ہے کہ اس جملے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ یہ دعا آپ علیہ السلام سے منتول ہے۔ ”اللهم انی استلک بمعقد العز من عرشك و منتهی الرحمة من كتابك و باسمك الاعظم و جدك الاعلى و كلماتك التامة“۔

[شامی: ۶/ ۳۹۵، دریخانہ: ۶/ ۳۹۶]

راجح قول:

نقیہ ابوالیث سمرقندی نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کر لیا ہے البتہ احتیاط اس میں ہے کہ یہ جملہ نہ کہا جائے۔

[شامی: ۶/ ۳۹۶، دریخانہ: ۸/ ۳۷۸، هندیہ: ۵/ ۳۱۸]

اور اگر کسی نے ”بمعقد“ کی وجہے ”بمعقد“ کا لفظ کہا تو یہ بلاشبی صحیح نہیں ہے۔

[دریخانہ: ۶/ ۳۲۸]

احتکار قوت البشر سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس مسئلے سے قبل احتکار کے معنی جان لینے چاہیں۔

لفظ ”احتکار“ کی وضاحت:

احتکار کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی شئی کے زرخ بڑھنے کے انتظار میں اس شئی کو ذخیرہ کر کے روک لینا اور شرعی معنی یہ ہیں کہ انانج وغیرہ کو خرید کر چالیں دن تک زرخ بڑھنے کے انتظار میں روک کر رکھنا۔

[شامی: ۶/ ۳۹۸]

انسان اور جانوروں کی غذا کو ایسے شہر میں ذخیرہ کر لینا جس شہر والوں کو ذخیرہ کرنے سے تکلیف ہوگی یہ مکروہ ہے اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احتکار صرف غذائی اشیاء میں ہوتا ہے اس کے مساوا اشیاء میں احتکار نہیں ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس شئی کو ذخیرہ کرنے سے عموم کو تکلیف ہو تو یہ احتکار ہے خواہ وہ غذا ہو یا غذانہ ہو اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ کپڑوں میں احتکار نہیں ہوتا۔

راجح قول:

مشائخ حرمہم اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔

[شامی: ۶/ ۳۹۸]

و مدة الحبس سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ احتکار کی مدت میں اختلاف ہے بعض نے چالیس دن مقرر کی ہے اور بعض نے ایک

ما مقرر کی ہے اور بعض نے اس سے زائد مقرر کی ہے اور یہ مدت کا مقرر کرنا دنیا میں سزا کے لحاظ سے ہے یعنی اگر کسی نے چالیس دن تک شنی کو روک لیا تو قاضی اس کو فروخت کرنے کی صورت میں تعزیر لگائے گا البتہ جہاں تک گناہ کا تعلق ہے تو وہ قلیل مدت میں بھی غذارو کئے حاصل ہو گا۔

و یحب ان یامره یعنی جب غذا کو کسی نے ذخیرہ کر لیا اور شہر والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو قاضی محکم کو اتنی شنی فروخت کرنے کا حکم دے جو اس کی اور اس کے گھر والوں کی ضرورت سے زائد ہو اور اگر وہ فروخت نہ کرے اور دوبارہ قاضی کے پاس معاملہ پہنچے تو قاضی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے اور اس کو دوبارہ فروخت کرنے کا حکم دے اگر وہ پھر بھی فروخت نہ کرے اور قاضی کے پاس سہ بارہ معاملہ پہنچے تو قاضی اس کو تعزیر لگوائے اور قاضی اس کے ذخیرہ کردہ اناج کو خود فروخت کر دے بھی سمجھ ہے۔ [شامی: ۳۹۹/۶]

احتکار حرام کی شرائط:

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ احتکار حرام کی تین شرائط ہیں۔

(۱) محکم نے اس شنی کو اسی شہر سے خریدا ہو چنان چہ اگر وہ دوسرے شہر سے لایا یا اپنی زمین کی پیداوار کو ذخیرہ کر لیا تو یہ احتکار حرام میں داخل نہیں ہے۔

(۲) جس شنی کو ذخیرہ کیا جائے وہ غذائی اشیاء میں سے ہو چنان چہ سالن، میٹھی اشیاء، شہد، جانوروں کا چارا کو ذخیرہ کرنا احتکار حرام میں داخل نہیں ہے۔

(۳) محکم اس شنی کو خرید کر لوگوں کو ٹیکی میں ڈال دے اس کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو اس شہر میں وہ شنی کم ہے چنان چہ ذخیرہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہو گی دوسری صورت یہ ہے کہ اس شہر میں لوگ تنگ دست ہیں چنان چہ امیرتا جو شہر سے باہر جا کر قافلوں سے خرید کر ذخیرہ کریں تو اس سے بھی تکلیف ہو گی چنان چہ اگر ذخیرہ کرنے سے تکلیف نہ ہو تو یہ حرام نہیں ہے۔

مقتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ذکر کیا ہے کہ احتکار کی حرمت حدیث مبارک سے بلاشبک و شبہ ثابت ہے۔ چنان چہ یہ تشریعی امر ہے جس پر ہمیشہ عمل کیا جائے گا اس لیے کہ لوگوں کو غذا کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ دوسری اشیاء کو ذخیرہ کرنے کا حکم حرام وقت کی طرف پر کیا جائے گا اگر وہ یہ سمجھے کہ ان اشیاء کو ذخیرہ کرنے سے تکلیف ہو گی تو اس کے ذخیرہ روک دے ورنہ اجازت دے دے۔

[تمکملہ فتح الامیم: ۱/۲۵۷]

لا غلة ارضه یعنی اگر کوئی شخص اپنی زمین کی پیداوار کو ذخیرہ کرے تو یہ مکروہ نہیں ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص غذا کو دوسرے شہر سے لایا تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ یا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے جب کہ امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی مکروہ ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس مقام سے عموماً شہر تک اناج لایا جاتا ہے وہ مقام شہر کے حکم میں ہے چنان چہ جس طرح شہر سے خرید کر ذخیرہ کرنا حرام ہے اسی طرح اس مقام سے خرید کر بھی ذخیرہ کرنا احتکار ہے۔

فائدہ:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے۔ حالانکہ علامہ اتفاقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اعتراض کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ”التقریب“ میں مذکور ہے کہ امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص شہر سے نصف میل کے فاصلے سے خرید کر لائے اور اس کو ذخیرہ کرے تو یہ احتکار نہیں ہے۔ البتہ اگر نصف میل سے کم فاصلے سے خرید کر لائے تو یہ ذخیرہ کرنا احتکار ہے۔ [شامی: ۳۹۹/۶]

راجح قول:

مشائخ حبهم اللہ تعالیٰ نے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول راجح قرار دیا ہے۔ [شامی: ۳۹۹/۷، بحر الرائق: ۸/۳۲۰]

کتاب احیاء الموات

اس کتاب کی کتاب الکرایہ سے مناسبت یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ اشیاء مکروہ اور کچھ غیر مکروہ ہیں۔
لغوی معنی:

”احیاء“ کے لغوی معنی ”زندہ کرنا“ ہیں اور ”موات“ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ جس میں روح نہ ہو اور اس زمین کو بھی موات کہا جاتا ہے
جس کا کوئی مالک نہ ہو۔

شرعی معنی:

اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ ”ہی ارض بلا نفع لا نقطاع مائہا او غلبتہ علیها او نحوها“ اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ ان شاء اللہ۔
دلیل:

اس کی مشروعیت کی دلیل آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ ”من احیاء ارض میتہ فهی له۔“
حکم:

جس نے زمین کو آباد کیا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔

محاسن:

اس کی خوبی یہ ہے کہ مخلوقات کو غذائی اشیاء فراہم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ [بخاری: ۲۸۵/۸، مسلم: ۲۳۱]

عبارت:

ہی ارض بلا نفع لا نقطاع ما تھا او غلبتہ علیها و نحوہما کما اذا نزرت او صارت سبخة عادیة او مملکوکة
فی الاسلام لا یعرف مالکھا بعیدة من العامر بحیث لا یسمع صوت من اقصاه و عند محمد رحمه الله تعالیٰ ما
کان مملوکاً لمسلم او ذی لا یکون مواتاً فاذالله یعرف مالکھا کان لعامة المسلمين و لو ظهر مالکھا ترد اليه و
یضمن نقصان الارض والعبد عن العامر شرطہ ابو یوسف رحمه الله تعالیٰ خلافاً لمحمد رحمه الله تعالیٰ من
احیا ملکه ان اذنه الامام و لو ذمیا و الا فلا ای ان لم باذن الامام لا یملکه هذا عند ابی حنیفة رحمه الله تعالیٰ و
همما لم یشرطا اذن الامام و لم یجز احیاء ما عدل عنه الماء و جاز عودہ فان لم یجز جاز ای ان لم یجز عود
الماء جاز احیاؤہ و من حجر ارضنا و لم یعمرها ثلث حجج دفعها الامام الى غيره التحجیر فی الاصل وضع
الاحجار لیعلم الناس انه اخذها ثم سمي الاعلام التي لا یکون یوضع الاحجار و قیل استقافه من الحجر
بالسکون فان کربها و سقاها فهو احیاء عند محمد و ان فعل احدهما فهو تحجیر۔

ترجمہ:

موات بلا نفع والی زمین ہے اس کے پانی کے ختم ہونے یا پانی کے اس پر غالب ہونے یا ان دونوں جیسے امر کی وجہ سے جیسا کہ جب زمین سے پانی رستا ہو یا وہ نمکین اور دل دلی ہو جائے قدیم ہو یا دارالاسلام میں مملوک ہو جس کامالک معلوم نہ ہو آبادی سے دور ہوتی دوڑ ہو کہ آبادی کے آخر سے آواز نہ سنبھال سکے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کسی مسلمان یا ذمی کی مملوک ہو وہ مواد نہ ہوگی چنانچہ جب اس کامالک معلوم نہیں ہے تو وہ عام مسلمانوں کی ہوگی اور اگر اس کامالک ظاہر ہو گیا تو اس کو واپس کر دی جائے گی اور زمین کے نقصان کا ضمان ادا کیا جائے گا اور آبادی سے دور ہونے کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے۔ برخلاف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہے جس نے زمین کو آباد کیا تو وہ اس کامالک بن جائے گا اگر امام نے اس کو اجازت دی ہو اگر چہ ذمی ہو ورنہ مالک نہ ہو گا یعنی اگر امام نے اجازت نہ دی ہو تو وہ اس کامالک نہ ہو گا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہمہ اللہ تعالیٰ نے امام کی اجازت کی شرط نہیں لگائی اور جس زمین سے پانی ہٹ چکا ہو اور واپس آ سکتا ہو تو اس کو آباد کرنا جائز ہے اور جس نے کسی زمین کو تحریر کیا اور تمیں سال تک آباد نہ کیا تو امام وہ زمین دوسرے کو دے گا۔ ”الجیحر“، اصل میں پھر کھنے کو کہا جاتا ہے تاکہ لوگ یہ بات جان لیں کہ اس شخص نے زمین لے لی ہے پھر یہ ان علامات کو کہا جانے لگا جو پھر کھنے سے نہیں ہوتی اور کہا گیا ہے اس کا مشتق ”بخاری“ سے ہے کیوں کہ اس میں بل چلانا اور اس کو سیراب کرنا ہے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آباد کرنا ہے اور اگر ان میں سے ایک کام کیا تو یہ تحریر ہے۔

تشریح:

ارض مواد کی تعریف:

ہی ارض بلا نفع..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ارض مواد کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسی زمین ہوتی ہے جس سے نفع حاصل کرنا ختم ہو چکا ہو یا تو اس وجہ سے کہ اس زمین کا پانی ختم ہو چکا ہے یا اس وجہ سے کہ اس پر پانی غالب آگیا ہے یا اس کے علاوہ کسی وجہ سے نفع حاصل کرنا ختم ہو چکا ہو جیسا کہ جب زمین سے پانی رنسنے لگے یا پھر زمین نمکین اور تھور والی ہو جائے اور اس زمین کا بے آباد ہونا قدیم زمانے سے ہو اور اس کا کوئی مالک نہ ہو، یا وہ زمین کسی کی مملوک ہو لیکن اس کے مالک کا کسی کو علم نہ ہو اور وہ زمین آبادی سے اتنی دور ہو کہ اگر آبادی سے نکل کر کوئی بلند آواز وال شخص آواز لگائے تو اس زمین تک آواز نہ پہنچے، چنانچہ اگر آواز پہنچ جائے تو یہ ارض مواد نہیں ہے۔

[بخاری: ۳۸۵]

نکوہ بالا ارض مواد کی تعریف ہے اور اس میں مختلف قیودات بیان کی گئی ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں دو باتوں میں اختلاف کرتے ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ زمین کسی کی مملوک ہو خواہ مالک ذمی ہو یا مسلمان تو یہ ارض مواد نہ ہوگی۔ لہذا اس کو آباد کرنا جائز نہیں ہے لہذا جو زمین اس طرح ہو کہ اس کامالک معلوم نہ ہو تو وہ تمام مسلمانوں کی ہوگی یعنی بیت المال کی ہوگی اور اگر اس کامالک ظاہر ہو جائے تو زمین اس کو واپس کر دی جائے گی اور اگر اس میں کچھ کمی ہوگئی ہو تو اس کا ضمان ادا کیا جائے گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ارض مواد کا آبادی سے اتنے دور ہونے کی شرط نہیں ہے کہ کوئی بلند آواز وال آواز لگائے تو اس کی آواز نہ سنبھال سکے بلکہ ان کے نزدیک ارض مواد ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ بستی والے اس سے نفع حاصل نہ کرتے

ہوں خواہ وہ زمین قریب ہو یا دور ہو دونوں صورتوں ارض موات ہو اور اگر بستی والے نفع حاصل کرتے ہیں تو وہ ارض موات نہ ہوگی۔

راجح قول:

مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ [شای: ۶/ ۳۳۲]

من احیاء..... سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان شخص نے امام یا قاضی کی اجازت سے ارض موات کو آباد کیا تو وہ اس کامالک بن جائے گا اور اگر ان کی اجازت کے بغیر آباد کیا تو ماں لک نہ بنے گا۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کامنہ ہب ہے جب کہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک قاضی اور امام کی اجازت شرط نہیں ہے۔ چنان چہ اگر کسی نے بلا اجازت زمین آباد کی تب بھی اس کامالک بن جائے گا اور اگر آباد کرنے والا ذمی ہو تو متفقہ طور پر اجازت لینا ضروری ہے اور اگر مستامن ہو تو بالکل ماں لک نہیں بنے گا خواہ اس کو اجازت ملی ہو یا نہ ملی ہو۔

راجح قول:

مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔

[شای: ۶/ ۳۳۳، الباب: ۲/ ۱۲۸، اعلاء السنن: ۱۸/ ۳]

و من حجر ارض..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تحریر کرنے سے انسان ماں لک نہ بنے گا، اس مسئلے کو سمجھتے سے قبل تحریر کے معنی سمجھ لیں۔

تحیر کی تحقیق:

تحیر یا تو تحریر سے مشتق ہے یا پھر تحریر سے مشتق ہے اگر یہ تحریر سے مشتق ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ زمین کے اطراف میں پھر رکھ دینا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں نے یہ زمین لے لی ہے البتہ اس سے مراد عام علمات ہیں خواہ وہ پھر ہوں یا اس کے علاوہ دیگر علمات ہوں، جیسے کائنے دار جہاڑیاں رکھ دینا یا سوکھے ہوئے درخت رکھ دینا اور اگر یہ تحریر سے مشتق ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کو اس زمین سے روکنا چوں کہ انسان زمین پر علمات لگا کر دوسرے کو روک دیتا ہے اس لیے اس کو تحریر کہا جاتا ہے۔

اب یہ جاننا چاہیے کہ جب امام نے کسی کوارض موات دی تو اب جس طرح وہ اس کو آباد کرنے سے ماں لک بن جائے گا آیا اس کو تحریر کرنے سے ماں لک بنے گا یا نہیں اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ ماں لک بن جائے گا اور بعض نے کہا ہے کہ ماں لک نہ بنے گا اور یہی صحیح قول ہے۔

[فتح القدير: ۹/ ۵]

متن میں جو تین سال کی مدت ذکر کی ہے کہ اگر اس نے تین سال تک زمین آباد نہ کی تو امام دوسرے کو دے گا یہ مدت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے لی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا ”تحریر کے لیے تین سال کے بعد کوئی حق نہیں ہے۔“ [بخاری: ۸/ ۳۸۷]

فان کربها..... سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی کوارض موات دی گئی اور اس نے اس میں ہل چلا یا اور اس کو سیراب کیا تو اتنا کام کر لینا زمین کو آباد کرنا شمارہ ہوگا۔ لہذا وہ ماں لک نہ بنے گا جب کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس نے یہ دو کام کر لیے تو یہ آباد کرنا شمارہ ہوگا۔

الہذا وہ ماں لک بن جائے گا البتہ اگر ان میں سے ایک کام کیا تو ماں لک نہ بنے گا۔

عبارت:

و من حفر بیرا فی موات بالاذن فله حریمها للعطن والناصح اربعون ذراعا من کل جانب فی الاصح بیر العطن والبیر التی یناخ الابل حولها و یسقی و بین الناصح البیر التی یستخرج ماء ها بسیر البعیر و نحوه و

عندہما حریمہا ستون ذرائع و انما قال فی الاصح لانہ قد قیل الجریم اربعون ذرائع من کل الجوانب و ذراع
العامۃ ستة قبضات و عند الحساب كذلك فانهم قدره باربع و عشرین اصبعا کل اصبح ست شعیرات
مضبوطة بطنون بعضها بطنون البعض وللعين خمس مائة كذلك اى من کل جانب و منع غيره من الحفر فيه لا
فيما ورد له الحریم من ثلاثة جوانب اى الذي حفر من منتهی حریم الاول دون الاول.

ترجمہ:

اور جس نے ارض مواد میں امام کی اجازت سے کنوں کھو دا تو اس کے لیے اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے اور ناضج کے لیے حریم ہر جانب
سے اصح قول کے مطابق چالیس ذراع ہوگا۔ ”بیر العطن“ وہ کنوں ہے جس کے گرد اونٹوں کو بھایا جاتا ہے اور پانی پلایا جاتا ہے اور
”بیر الناضج“ وہ کنوں ہے جس سے پانی اونٹوں کو اور دیگر جانوروں کو چلانے سے نکالا جاتا ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک
اس کا حریم سامنہ ذراع ہے۔ سوائے اس کے نہیں کا صحیح کہا اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ تمام جانبوں سے چالیس ذراع حریم ہوگا اور عام
لوگوں کو ذراع چھٹھی کا ہوتا ہے اور حساب کے نزدیک بھی اسی طرح ہے کیون کہ انہوں نے ذراع کو چوبیں انگلیوں سے ناپا ہے ہر انگلی چھ
بھوکی ہوتی ہے جن میں سے بعض دوسرے بعض سے ملے ہوئے ہوں اور چشمے کا حریم اسی طرح پانچ سو ذراع ہے یعنی ہر جانب سے اور
کنوں والا کسی کو حریم میں کنوں کھونے سے روکے حریم کے علاوہ جگہ میں نہیں روکے گا اور دوسرے کے لیے تین جانبوں سے حریم ہوگا
یعنی جس نے پہلے حریم کے ختم ہونے کی جگہ کنوں کھو دا ہے نہ کہ اول شخص کے لیے۔

شرح:

و من حفر سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے امام کی اجازت سے ارض مواد میں کنوں کھو دا تو اس کے لیے کنوں کا
حریم بھی ہوگا۔ حریم کنوں کے ارد و گرد جگہ کو کہا جاتا ہے جس میں جانوروں غیرہ بیٹھتے ہیں اب اس حریم کی مقدار کتنی ہو اس میں اختلاف
ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک حریم کی مقدار ہر جانب سے چالیس ذراع ہوگی خواہ وہ کنوں ایسا ہو جس سے ہاتھ سے پانی
نکال کر اونٹوں کو پالایا جاتا ہو یا کنوں ایسا ہو جس سے اوٹ پانی نکالتے ہوں دونوں صوتوں میں حریم چالیس ذراع گاہ ہوگا جب کہ
صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیکھا جائے گا اگر کنوں ایسا ہے جس سے ہاتھ سے پانی نکالا جاتا ہے تو اس کا حریم چالیس ذراع
ہوگا اور اگر کنوں ایسا ہے جس سے اوٹ پانی نکالتے ہوں تو اس کا حریم سامنہ ذراع ہوگا۔

رانج قول:

مشائخ رحمہما اللہ تعالیٰ نے امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ [شامی: ۶/ ۳۳۵]

و انما قال فی الاصح سے شارح رحمہما اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ حریم کی مقدار چالیس ذراع ہوگی اب
اس میں اختلاف ہے کہ ہر جانب سے چالیس ذراع ہوگی چنانچہ کل ایک سامنہ ذراع ہوں گے یا پھر تمام جانبوں سے چالیس ذراع
ہوگی چنانچہ ہر جانب میں دس ذراع ہوں گے۔ اصح قول یہی ہے کہ تمام جانبوں سے چالیس ذراع ہوں گے۔ [شامی: ۶/ ۳۳۷]

ذراع العامۃ سے شارح رحمہما اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ذراع عامۃ کی مقدار چھٹھی ہوتی ہے اور اس کو ذراع کرباس بھی کہا
جاتا ہے اور ذراع کی بھی مقدار حساب کرنے والوں کے نزدیک ہے کیوں کہ انہوں نے ذراع کی مقدار چوبیں انگلیاں مقرر کیں ہیں کہ
جن میں بعض دوسری بعض سے ملی ہوئی ہوں اور چوبیں انگلیوں کی چھٹھی بننے گی اور ہر انگلی کی چوڑائی چھٹھو کے دالوں کے بقدر ہوتی ہے

اور ایک ذرائع ملک ہے جس کو ذرائع مساحت بھی کہا جاتا ہے اس کی مقدار سات مٹھی ہوتی ہے اور ہر مٹھی میں انگوٹھے کو کھڑا کیا جاتا ہے اور یہاں ذرائع عامہ مراد ہے۔ [در مختار: ۶/۳۳۵]

عبارت:

ولللقناة حریم بقدرها ما يصلحها هذا عند ابی حنیفه و قيل اذا لم یخرج الماء فهو كالنهر فلا حریم له و عند ظهور الماء كالعین فله الحریم خمس مائة ذراع و لا حریم لنهر في ارض غيره الا بحجۃ هذا عند ابی حنیفه رحمة الله تعالى و عندهما له مسناۃ النهر يمشی عليها و يلقی عليها الطین و کذا في ارض موات فمسنات بين نهر رجل و ارض الآخر و ليست مع احد الصاحب الارض اي لم يكن لا حددهما عليها غرس او طین ملقي فھی لصاحب الارض عند ابی حنیفة و ان كان فصاحب الشغل هو صاحب اليد و عند ابی ابویوسف حریمة مقدار نصف بطن النهر من کل جانب و عند محمد مقدار بطن النهر من کل جانب.

ترجمہ:

اور ففات کے لیے حریم کی اتنی مقدار ہو گی جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زد دیک ہے اور کہا گیا ہے جب پانی نہ نکلے تو یہ نہر کی طرح ہے چنانچہ اس کے لیے حریم نہیں ہے اور پانی ظاہر ہونے کے وقت چشمے کی طرح اس کے لیے پانچ سو ذراع حریم ہے اور کسی کی زمین کی نہر کے لیے حریم گواہی کے ساتھ ہی ہو گا یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زد دیک ہے اور صاحبین رحمة اللہ تعالیٰ کے زد دیک اس کے لیے نہر کے کنارے ہیں جن پر وہ چلے گا اور اس پر مٹی ڈالے گا اور اسی طرح ارض موات میں ہے اور آدمی کی نہر اور دوسرے کی زمین کے درمیان پانی کا بندراں حاکم کردیاں گے اس کے ساتھ نہیں ہے وہ زمین والے کا ہو گا لیکن ان دونوں میں سے کسی کے اس پر پودے یا اذالی ہوئی مٹی نہیں ہے تو یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زد دیک زمین والے کا ہے اور اگر پودے وغیرہ ہوں تو صاحب شغل ہی قبضے والا ہے اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زد دیک اس کا حریم نہیں ہے اندر وہی حصے کی نصف مقدار کے برابر ہر جانب سے ہو گا اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے زد دیک ہر جانب سے نہر کے اندر وہی حصے کی مقدار کے برابر ہو گا۔

ترشیح:

ولللقناة..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ففات (زیریز میں پانی کی نہروں کو کہا جاتا ہے جن کو ہمارے عرف میں کاریز کہا جاتا ہے) کے لیے حریم کی اتنی مقدار ہو گی کہ جس قدر حریم اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذهب ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ ففات کنوں کی طرح ہے اور اگر پانی ظاہر ہو جائے تو چشمے کی طرح ہے۔

و قیل اذا..... سے بعض مشائخ رحہمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کر رہے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ صاحبین رحمة اللہ تعالیٰ کے زد دیک ففات نہر کی طرح ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زد دیک تفصیل ہے اگر اس کا پانی نہ نکلے تو نہر کی طرح ہے۔ لہذا اس کے لیے حریم نہیں ہے اور اگر اس کا پانی ظاہر ہو جائے تو وہ چشمے کی طرح ہے چنانچہ اس کا حریم پانچ سو ذراع کے بقدر ہو گا جس طرح چشمے کا حریم پانچ سو ذراع ہوتا ہے۔ البتہ ”الاختیار“ میں مذکور ہے کہ اس کو امام کی رائے کی طرف پر دیکھا جائے گا اگر اس نے امام کی اجازت سے ففات بنائی ہو تو اس کو بالکل حریم نہ ملے گا۔ [شای: ۶/۳۳۶]

ولا حریم لنهر فی..... اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کی دوسرے کی زمین میں سے نہر

گزرتی ہے تواب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نہر کا حریم نہیں ہے البتہ اگر گواہی قائم کر دی جائے تو حریم ملے گا اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہر والے کو اس قدر حریم ملے گا جس پر چل سکے اور نہر سے مٹی وغیرہ نکال کر اس پر ڈال سکے کیوں کہ اس کے لیے پانی پر چلانا ممکن نہیں ہے اور نہر سے مٹی وغیرہ نکالنا بھی ضروری ہے اس لیے اس کو اتنا حریم ملے گا اور یہ اختلاف اس نہر میں ہے جو بڑی ہو البتہ وہ نہر جو چھوٹی ہو جس کو بار بار صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہو تو اس میں بالاتفاق حریم ملے گا۔ [درختار: ۶/ ۳۳۷]

اب صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر جانب سے حریم کی مقدار نہر کی اندر ورنی مقدار کا نصف ہوگی اور امام محمدؐ کے نزدیک ہر جانب سے حریم کی مقدار نہر کے اندر ورنی حصہ کے بقدر ہوگی۔

دوسری مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے ارض موات میں نہر کھودی تواب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے حریم نہیں ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک حریم ہے اسی طرح شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور فرمایا ”وَكَذَا فِي أرْضِ مَوَاتٍ“ یعنی ارض موات میں بھی یہی اختلاف ہے البتہ اکثر علماء نے ذکر کیا ہے کہ ارض موات میں بالاجماع حریم کا مستحق ہوگا۔ [شای: ۶/ ۳۳۷]

فمسنات بین سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کی نہر کے اور دوسرے کی زمین کے درمیان پانی کا بند ہو جس پر کسی کے پودے وغیرہ نہ لگے ہوئے ہوں اور اس پر نہر والے نے مٹی نکال کر نہ ڈال ہو تو وہ پانی کا بند امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین والے کا ہو گا اور اگر اس پر پودے وغیرہ لگے ہوں تو وہ اس کا ہو گا جس کے پودے وغیرہ ہیں۔



فصل

عبارت:

الشرب نصب الماء والثفة شرب بنى ادم واليهائم ولكل حقها فى كل ماء لم يحرز باناء وسقى ارضه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوها وشق نهر لارضه منها او لنصب الرحى ان لم يضر بالعامة لا سقى دوابه ان خيف تخریب النهر لكثرتها وارضه بالجر عطف على دوابه وشجر من نهر غيره وفناهه وبشه الا باذنه وله سقى شجر او خضر فى داره حمل بجراة فى الاصح، وكرى نهر لم يملك من بيت المال فان لم يكن فيه شيئاً فعلى العامة اى يجبر الامام الناس على كريمه وكرى نهر يملك على اهله من اعلاه لا على اهل الشفة و من جاوز من ارضه قد برى اى كل شريكجاوز الذين يكررون النهر عن ارضه لم يكن عليه كري باقى النهر وهذا ابى حنيفة وقالا عليهم كريه من اوله الى اخره وصح دعوى الشرب بلا ارض هذا استحسان لانه قد يملك بدون الارض ارثاً وقد يباع الارض ويقى الشرب للبائع.

ترجمة:

”شرب“ پانی کا حصہ ہے اور ”شفہ“ بی آدم اور جانوروں کا پینا ہے اور ہر ایک کے لیے پانی پینے کا حق ہر اس پانی میں ہے جس کو برتن میں محفوظ نہ کیا گیا ہوا اور ہر ایک کو اپنی زمین کو سیراب کرنے کا حق سمندر سے اور بڑی نہر جیسے دجلہ وغیرہ سے ہے اور اپنی زمین کے لیے یا چکلی لگانے کے لیے اس سے نہر نکالنے کا حق ہے بشرطیکہ عام لوگوں کو ضرر نہ ہو۔ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا حق نہیں ہے اگر نہر خراب ہونے کا ذرہ جانوروں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اپنی زمین کو اس کا عطف ”دوابہ“ پر ہے اور درختوں کو دوسروں کی نہر اور کاریز اور کنوئیں سے سیراب کرنے کا حق اس کی اجازت سے ہی ہے اور اس کے لیے اپنے گھر کے درختوں اور سبزے کو سیراب کرنا مٹی کے گھر سے اٹھا کر اسحاق قول کے مطابق جائز ہے اور نہر غیر مملوک کو کھودنا بیت المال سے ہو گا پس اگر بیت المال میں کچھ نہ ہو تو عام لوگوں پر ہو گا یعنی امام لوگوں کو اس کے کھودنے پر مجبور کرے گا اور نہر مملوک کو کھودنا اس کے اہل پر اس نہر کے اوپر سے لازم ہے اہل شفہ پر لازم نہیں ہے اور جو اپنی زمین سے تجاوز کر جائے تو وہ بڑی ہو جائے گا یعنی ہر وہ شریک جن کی زمین سے نہر کھودنے والے تجاوز کر جائیں تو اس پر باقی نہر کو کھودنا لازم نہیں ہے اور یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب پر نہر کو اول سے آخر تک کھودنا لازم ہے اور زمین کے بغیر شرب کا دعویٰ کرنا صحیح ہے یہ احسان ہے اس لیے کہ شرب کا بھی بلاز میں وراثت کے طور پر انسان مالک بن جاتا ہے اور بھی زمین فروخت کر دی جاتی ہے اور شرب بالع کے لیے باقی رہتی ہے۔

تشریح:

اس فصل میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو پانی سے سیراب کرنے اور خود پانی پینے اور جانوروں کو پانی پلانے کے احکامات ذکر کریں گے۔

یہ بات جان لیں کہ پانی کی کل چار قسمیں ہیں۔

پہلی قسم سمندروں کا پانی ہے اس پانی سے ہر شخص کو خود بھی پینے کا حق ہے اور زمین کو سیراب کرنے کا بھی حق ہے۔ (یہ اشکال نہ کیا جائے کہ وہ پانی نہایت نمیکین ہوتا ہے اس سے نفع حاصل نہیں کہا جاتا کیونکہ موجودہ زمانے میں ایسے پلانٹ لگائے گئے ہیں جو اس کو صاف کر کے پینے کے قابل بناتے ہیں)

دوسری قسم بڑے بڑے دریاؤں کا پانی ہے اس پانی میں بھی ہر ایک کو خود بھی پینے کا حق ہے اور اپنی زمین کو سیراب کرنے کا بھی حق ہے بشرطیکہ عوام کو ضرر نہ ہو۔

تیسرا قسم وہ پانی ہے جو ملک نہروں میں ہوتا ہے اس پانی میں ہر ایک کو پینے کا حق ہے البتہ زمین کو سیراب کرنے کا حق نہیں ہے۔

چوتھی قسم وہ پانی ہے جو برتوں میں رکھا ہوا ہوا سے کسی کو مالک کی اجازت کے بغیر پینے کا بھی حق نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دونوں قسموں میں خود بھی پینے کا حق ہے اور اپنی زمین کو سیراب کرنے کا بھی حق ہے اور تیسرا قسم میں صرف خود پینے کا حق ہے اور چوتھی قسم میں کوئی حق نہیں ہے۔

[شامی: ۴/۳۳۸] و کری نهر لم یملک میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نہروں کو ہود نے (اس سے مراد نہر میں جمع شدہ مٹی کو نکالنا ہے) کا حکم بیان کر رہے ہیں۔

یہ بات جان لیں کہ نہروں کی کل تین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم اس نہر کی ملک نہیں ہے اس نہر کو ہودنا حاکم پر لازم ہے کہ وہ اس کے کھونے کی اجرت بیت المال سے ادا کرے کیونکہ بیت المال میں مسلمانوں کا پیسہ ہوتا ہے اور اس نہر کا فائدہ بھی سارے مسلمانوں کو ہو گا چنانچہ یہ خرچ بھی بیت المال پر لازم ہو گا اور اگر بیت المال خالی ہو تو حاکم لوگوں کو اس کے کھونے پر مجبور کرے کیونکہ انہی کو اس کا فائدہ ہے۔

اور اگر نہر مملکوکہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ عام ہو گی یا پھر خاص ہو گی اگر عام ہو تو دوسری قسم ورنہ تیسرا قسم ہے البتہ عام اور خاص میں فرق کرنے میں ہمارے مختلف اقوال ہیں بعض نے کہا جس نہر میں شفعہ کا استحقاق ہو وہ خاص ہے اور جس میں شفعہ نہ ہو وہ عام ہے اور بعض نے کہا ہے جو نہر دس کے درمیان مشترک ہو وہ عام ہے اور جو اس سے کم کے درمیان مشترک ہو وہ خاص ہے بعض نے کہا اگر نہر میں چالیس آدمی شریک ہوں تو وہ عام ہے اور اگر چالیس سے کم ہوں تو خاص ہے۔ اسی وجہ سے کہ یہ حاکم کے سپرد ہے کہ جس قول کو چاہے اختیار کر لے۔

[العنایۃ: ۹/۱۲]

لہذا دوسری قسم والی نہر کو ہودنا نہروں والوں کے ذمے ہے اس لیے کہ نہر کا فائدہ انہی کو ہو رہا ہے تمام لوگوں کو نہیں ہے۔ لہذا نہر کو ہودنا بھی انہی کے ذمے ہے اور اگر ان میں سے کسی نے نہر کھونے سے انکار کر دیا تو انکار کرنے والے کو حاکم مجبور کرے گا۔

تیسرا قسم والی نہر کو ہودنا بھی نہروں والوں کے ذمے ہے۔ البتہ اگر ان میں سے کسی نے انکار کر دیا تو اب اس کو مجبور کرنے میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ مجبور کیا جائے گا اور بعض نے کہا ہے کہ مجبور نہ کیا جائے گا اور صحیح یہ ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے گا۔

[شامی: ۴/۳۳۲، حدایہ]

و کری نهر یملک سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ نہر جس میں چند اشخاص شریک ہوں تو اب اس نہر کو کھودنے کی مشقت ان پر کس طرح ہوگی؟ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک تمام شرکاء نہ کھودنا شروع کریں جب وہ ایک شریک کی زمین سے نہر کھودتے ہوئے گزر جائیں تو اب وہ شریک بری ہے اس پر بقیہ نہر کھودنا لازم نہیں ہے کیوں کہ بقیہ نہر میں اس کا فائدہ نہیں ہے اسی طرح باقی شرکاء بھی نکل جائیں جب ان کی زمین سے گزر جائے اس صورت میں سب سے زیادہ مشقت آخربی شریک کو اٹھانا پڑے گی اور سب سے کم مشقت پہلے شریک کو اٹھانا پڑے گی۔ البتہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے زدیک تمام شرکاء کے ذمے لازم ہے کہ پوری نہر شروع سے آخر تک کھو دیں۔

رانج قول:

مشاحد حبیب اللہ تعالیٰ نے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ [شامی: ۶، ۳۲۲، بحر الرائق: ۳۹۳/۸] لا علی اهل الشفۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس نہر سے پانی پیتے ہیں ان کے ذمے نہر کھودنا نہیں ہے کیوں کہ وہ بے شمار ہیں اور دوسرا بات یہ ہے مشقت مالک کے ذمے ہوتی ہے۔

عبارت:

فَإِنْ اخْتَصَّ قَوْمٌ بِشُرْبِ بَيْنِهِمْ قَسْمَ بِقَدْرِ أَرْضِهِمْ فَإِنْ اخْتَصَّ قَوْمٌ بِشُرْبِ بَيْنِهِمْ قَسْمَ بِقَدْرِ أَرْضِهِمْ وَمَنْعِ الْأَعْلَى مِنْهُمْ مِنْ سُكْرِ النَّهْرِ وَإِنْ لَمْ يَشْرُبْ بِدُونِهِ الْأَبْرَضَاهِمْ وَكُلُّهُمْ مِنْ شَقْ نَهْرِهِ وَنَصْبِ رَحِيْ وَدَالِيَةِ أَوْ جَسْرِ عَلَيْهِ بِلَا أَذْنِ شَرِيكِهِ الْأَرْحَى وَضَعُ فِي مَلْكِهِ بَانِ يَكُونُ بَطْنُ النَّهْرِ وَحَاتَهُ مَلْكَالَهُ وَلِلْأَخْرِ حَقُّ التَّسْيِيلِ وَلَا يَضْرُبُ بِالنَّهْرِ وَلَا بِالْمَاءِ وَمِنْ تَوْسِيعِ فَمِ النَّهْرِ وَمِنْ الْقَسْمَةِ بِالْأَيَامِ وَقَدْ كَانَتْ بِالْكَوَى الْكَوَى جَمْعَ الْكَرْرَةِ وَهِيَ رُوزَنَ الْبَيْتِ ثُمَّ اسْتِعِيرَتْ لِلنَّقْبِ الَّتِي تَنْقَبُ فِي الْحَشْبِ لِيَجْرِيَ الْمَاءُ فِيهِ إِلَى الْمَزَارِعِ أَوْ الْجَلَدِ أَوْلًا وَانْمَا يَمْنَعُ لَانَ القَدِيمَ يَتَرَكُ عَلَى قَدْمِهِ وَمِنْ سُوقِ شَرْبِهِ إِلَى أَرْضِ لَهُ أَخْرَى لَيْسَ لَهَا مِنْهُ شُرْبٌ لَانَهُ إِذَا تَقَادَمَ الْعَهْدَ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ حَقُّ تَلْكَ الْأَرْضِ وَالشُّرْبِ يُورَثُ وَيُوصَى بِالْأَنْتَفَاعِ وَلَا يَبْاعُ وَلَا يُوَجَرُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يَتَصَدِّقُ بِهِ وَلَا يَجْعَلُ مَهْرًا أَوْ بَدْلَ الصَّلْحِ وَلَا يَضْمَنُ مِنْ مَلَاءِ الضَّهِيفَةِ فَتَرَثُ أَرْضُ جَارِهِ أَوْ غَرْقَةُ وَلَا مِنْ سَقَى مِنْ شُرْبِ غَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الْمُعْرُوفِ بِخَوَافِرِ زَادَهُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْبَزْدُوِيِّ أَنَّهُ يَضْمَنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمہ:

اور اگر ایک جماعت کا آپس میں پانی کی باری میں جھگڑا ہو گیا تو قاضی ان کی زمینوں کے بقدر تقسیم کر دے اور ان میں سے اعلیٰ کو نہر کا منہ بند کرنے سے روک دے اگرچہ وہ اس کے بغیر پانی سے سیراب نہ کر سکتا ہو مگر تمام شرکاء کی رضامندی سے منہ بند کر سکتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اس سے نہر نکالنے اور پچھلی لگانے اور رہٹ لگانے اور اس پر پہن بنانے سے اس کے شریک کی اجازت کے بغیر منع کیا جائے گا مگر اپنی ملک میں پچھلی لگانے سے نہیں روکا جائے گا اس کی صورت یہ ہے کہ نہر کا اندر و فی حصہ اور اس کے دونوں کنارے اس کی ملک ہوں اور دوسرے کا حق تسلیم ہو دراں حاکم نہ ہو اور نہر کا منہ کشادہ کرنے سے روکا جائے اور دونوں کے ساتھ تقسیم کرنے سے روکا جائے گا دراں حاکم تسلیم موریوں کے ساتھ تھی "کوئی" "کرہ" کی جمع ہے اور یہ گھر کے روشنداں کو کہا جاتا ہے پھر

اس کو ان سوراخوں کے لیے استعارہ پر لیا گیا جو کلڑیوں میں کیے جاتے ہیں تاکہ پانی اس میں سے کھیتوں یا چھوٹی نالیوں کی طرف چلے اور سوائے اس کے نہیں کہ منع کیا جائے گا اس لیے کی قدمیم کو اس کے پرانے ہونے پر چھوڑ دیا جائے گا اور اپنی باری کو اپنی دوسری زمین کی طرف لے جانے سے روکا جائے گا جس زمین کی اس میں سے پانی کی باری نہیں ہے اس لیے کہ جب عہد پرانا ہو گیا تو اس سے اس پر دلیل لی جائے گی کہ یہ اس زمین کا حق ہے اور پانی کی باری میں وراشت جاری ہو گی اور نفع کی وصیت کی جا سکتی ہے اور اس کو فروخت اور اجارہ پر اور حبہ اور صدقہ نہیں کیا جا سکتا اور مہر اور بدل صلح نہیں بنایا جا سکتا اور اپنی زمین کو بھرنے سے جس پڑوی کی زمین بوسیدہ ہو جائے یا غرق ہو جائے ضامن نہ ہو گا اور کسی دوسرے کی باری سے سیراب کرنے سے ضامن ہو گا یہ امام کا قول ہے جو خواہ ہرزادہ کے ساتھ معروف ہیں اور جامع صغیر میں ہے کہ وہ ضامن ہو گا۔

تشریح:

و منع الاعلى سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو نہر چند شخصوں کے درمیان مشترک ہو تو اس میں سے ہر شریک کے لیے کچھ امور ممنوع ہیں اور ان امور کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے۔

پہلا امر یہ ہے کہ ان شرکاء میں سے جس کی زمین سب سے اوپر ہو یعنی نہر کے شروع میں ہو تو اس کو نہر کا منہ بند کرنے سے روکا جائے گا اگر چہ وہ منہ بند کیے بغیر اپنی زمین کو سیراب نہ کر سکتا ہو کیوں کہ اس میں باقی شرکاء کا حق باطل ہو گا البتہ اگر تمام شرکاء اس پر راضی ہو جائیں کہ وہ منہ بند کر لے تاکہ اپنی زمین کو سیراب کر سکے یا اس پر راضی ہو جائیں کہ ہر ایک اپنی باری میں نہر کا منہ بند کرے گا تو پھر جائز ہے۔

دوسرा امر یہ ہے کہ ہر شریک کو مشترکہ نہر سے اپنی زمین کے لیے نہر نکالنے سے روکا جائے گا۔

تیسرا امر یہ ہے کہ ہر شریک کو چکلی لگانے سے روکا جائے گا البتہ اگر کوئی اپنی ملک میں چکلی لگائے کہ نہر کا اندر وہی حصہ اور اس کے دونوں کنارے اس کی ملکیت ہوں اور دوسرے کو صرف پانی بہانے کا حق ہو تو ایسی صورت میں چکلی لگا سکتا ہے بشرطیکہ نہر کو نقصان نہ ہو کہ اس کے کنارے خراب ہو جائیں اور اسی طرح پانی کو بھی نقصان نہ ہو کہ اس کی رفتارست پڑ جائے تو چکلی لگانا جائز نہیں ہے۔

چوتھا امر یہ ہے کہ نہر کا منہ کشادہ کرنے سے روکا جائے گا کیوں کہ اس صورت میں اس کے حصے میں زیادہ پانی آئے گا۔

پانچواں امر یہ ہے کہ اگر پانی کی تقسیم موریوں کے ساتھ ہو یعنی نہر میں ایک سوراخ دار تنہیہ لگایا جاتا ہے جس میں سے پانی کھیتی اور چھوٹی نالیوں میں منتقل ہوتا ہے تو پھر وہ دونوں سے تقسیم کرنا چاہیں تو ان کو روکیں گے کیوں کہ جو قدمیم ہے اس کو اسی پر رہنے دیا جائے گا۔

چھٹا امر یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی پانی کی باری کو دوسری زمین کی طرف منتقل کرنا چاہیے جس زمین کا اس نہر کے پانی سے حصہ نہیں ہے تو اس کو روکا جائے گا کیوں کہ جب زمانہ قدیم ہو گیا اور اسی زمین کو پانی دیا جا رہا تھا تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ پانی اسی زمین کا حق ہے کسی دوسری زمین کی طرف منتقل نہیں کیا جا سکتا۔

مذکورہ بالا چھ امر نہر مشترک میں ہر شریک کے لیے کرنا ممنوع میں البتہ اگر ان میں سے کسی بھی امر کی بقیہ شرکاء اجازت دے دیں تو اس کو کرنا جائز ہو گا۔

لا یضممن سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی پانی کی باری میں اپنی زمین کو سیراب کیا جس کی وجہ سے پڑوئی کی زمین سیم زدہ ہو گئی یا ڈوب گئی تو یہ ضامن نہ ہوگا۔ بشرطیکہ اس نے اپنی زمین کو عادت کے موافق سیراب کیا ہوا دراگر اس نے اپنی زمین پانی زیادہ دیا تھا جس سے پڑوئی کی زمین کو نقصان ہوا تو پھر یہ ضامن ہو گا اسی پرفتویٰ ہے۔ [دریختار: ۷/۳۲۶]

و لا من سقی من سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی کی باری میں اپنی زمین کو سیراب کیا تو امام خواہزادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ضامن نہ ہوگا البتہ امام بزد وی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ضامن ہوگا البتہ فتویٰ امام خواہزادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے کہ وہ ضامن نہ ہوگا۔ [بخاری: ۸/۳۹۸]



كتاب الاشربة

لغوي معنى:

شراب اس بینے والی شئی کو کہا جاتا ہے جس کو پیا جائے۔

شرعی معنی:

جس کو پینا حرام ہوا وروہ مسکر ہو۔

عبارت:

حرم الخمر وهي الشئ من ماء العنب غلى و اشتد و قذف بالزید و ان قلت هذا الاسم خص بهذا الشراب باجماع اهل اللغة و لا نقول ان كل مسکر خمر لا شتقاقه من مخامر العقل فان لغة لا يجرى فيها القياس فلا يسمى الدن قارورة لقرار الماء فيه و رعاية الوضع الاول ليست الصحة الاطلاق بل لترجمة الوضع وقد حققناه في التتفيق و قذف الزيد هو قول ابى حنيفة و عندهما اذا اشتد صار مسکر الاشتراط قذف الزبد ثم عينها حرام وان قلت و من الناس من قال السكر منها حرام وهذا مدفوع بان الله تعالى سماهار جسا و عليه النعقد اجمع الامة ثم يكفر مستحلها و سقط تقويمها لا ماليتها و يحرم الانتفاع بها و يحد شاربها و ان لم يكسر ولا يؤثر فيها الطبخ ويجوز تخليلها خلافا للشافعى هذه عشرة احكام.

ترجمہ:

”خمر“ حرام ہے اور ”خمر“ انگور کا کچا پانی ہے جو جوش مارے اور تیز ہو جائے اور جھاگ پھینکے اگرچہ کم ہو یہ نام (خمر) اس شراب کے ساتھ اہل لغت کے اجماع کے ساتھ خاص ہے اور ہم نہیں کہتے کہ ہر نشدینے والی خمر ہے خمر کے ”مخامر العقل“ سے مشتق ہونے کی وجہ سے کیوں کہ لغت میں قیاس جاری نہیں ہوتا جتنا چہ ممکن کو اس میں پانی ٹھہرنے کی وجہ سے قارورہ نہیں کہا جاتا ہے اور وضع اول کی رعایت اطلاق کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے بلکہ وضع کو ترجیح دینے کے لیے ہے ہم نے اس کو ”التفيق“ میں ثابت کیا اور جھاگ کا پھینکنا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب وہ تیز ہو جائے تو وہ مسکر ہو جاتی ہے ”قذف بالزبد“ شرط نہیں ہے پھر خمر کی عین حرام ہے اگرچہ کم ہوا لوگوں میں سے بعض نے کہا ہے کہ اس میں سے نشدینے والی حرام ہے یہ مدفوع ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رجس رکھا ہے اور اسی وجہ امت کا اجماع منعقد ہوا ہے پھر اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے اور اس کا مقتوم ہونا ساقط ہے نہ کہ اس کی مالیت اور اس سے نفع حاصل کرنا حرام ہے اور اس کے پیسے والے کو حدگائی جائے گی اگر نشدینے آئے

اور پکانا اس میں موثر نہیں ہے اور اس کو سرکہ بنا جائز ہے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہے یہ دس احکام ہیں۔

ترجمہ:

حرم الخمر..... اس عبارت میں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے تین اشیاء پر کلام کیا ہے۔ (۱) لفظ خمر پر کلام۔ (۲) تعریف میں اختلاف۔ (۳) دس احکامات کا ذکر۔

لفظ خمر کی تحقیق:

لفظ "خر" احناف کے نزدیک انگور کے پانی کو کہا جاتا ہے جب کہ وہ جوش مارے اور جھاگ پھینک دے اور اس کے علاوہ نہ شدینے والی اشیاء پر لفظ خمر نہیں بولا جاتا کیوں کہ اہل لغت کا اس پر اجماع ہے کہ لفظ خمر انگور کے اس پانی کے ساتھ خاص ہے۔

ولانقول ان..... سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ شوافع اور مالکیہ کے مذہب کو درکر ہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے لفظ خمر چوپوں کو "مخامرۃ العقل" سے مشتق ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ جوشی عقل کوڈھانپ لے چنانچہ ہروہ شی جو عقل کوڈھانپ لے وہ خمر کہلانے کی صرف انگور کے پانی کو خمر نہ کیا جائے گا اسی کو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ ہم یوں کہیں کہ خمر مخامرۃ العقل سے مشتق ہے۔ لہذا ہروہ شی جو عقل کوڈھانپ لے وہ خمر ہے تو یہ لغت میں قیاس کرنا ہو گا اور لغت میں قیاس نہیں چلتا ورنہ پھر تو مبلغ کو "وقارورہ" کہا جاتا کیوں کہ اس میں پانی ٹھہرتا ہے حالاں کہ اس کو قوارورہ نہیں کہا جاتا تو ہر مسکر کو بھی خمر نہیں کہا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی شی میں وضع اول کے معنی پائے جائیں تو یہ اس کا تقاضا نہیں کرتا اس پر وہی لفظ بھی بولا جائے بلکہ وضع کی ترجیح کا تقاضا کرتا ہے۔

تعریف میں اختلاف:

خمر کی تعریف میں جو "قذف بالزید" کی قید لگائی گئی ہے کہ وہ جھاگ پھینک دے یعنی اس میں جھاگ بالکل نہ رہے اور بالکل صاف ہو جائے یہ قید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے جب کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب انگور کا پانی مسکر ہو جائے تو وہ خمر ہے جھاگ پھینکنا شرط نہیں ہے۔

راجح قول:

مشائخ رحمہما اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔

[در مختار: ۲، ۲۲۸، شامی: ۶/ ۲۲۸]

دس احکامات:

شم عینہا حرام..... سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ خمر کے دس احکامات ذکر کر رہے ہیں۔

پہلا حکم یہ ہے کہ عین خمر حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خمر کو جس فرمایا ہے اور اس کو شیطان کا عمل قرار دیا ہے۔

و من الناس..... سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ بعض معترض کا مذہب ذکر کر رہے ہیں جن کے نزدیک وہ خمر حرام ہے جس سے نشآئے اور وہ کثیر ہے تقلیل نہیں ہے چنانچہ ان کے نزدیک تقلیل خمر حرام نہیں ہے لیکن یہ قول مردود ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خمر کو جس کہا ہے اور جس وہ ہوتا ہے جس کی عین حرام ہوا سی طرح حدیث مبارکہ بھی ہے آپ علیہ السلام نے خمر کو حرام قرار دیا ہے اور اسی پر اجماع بھی ہے کہ یہ جس ہے۔

[شامی: ۶/ ۲۲۹]

دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے کیوں کہ خمر کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔

تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمان کے حق میں اس کا تقویم ساقط ہے چنانچہ اگر کسی نے مسلمان کی خمر ضائع کر دی تو پھر اس نہ ہو گا البتہ ذمی کے

حق میں قوم ساقط نہیں ہے اس کی شراب ضائع کرنے والا ضامن ہو گا اور اصح قول کے مطابق اس کی مالیت ساقط نہیں ہوئی وہ باقی ہے۔
چو تھا حکم یہ ہے کہ اس سے نفع حاصل کرنا حرام ہے مثلاً وہ خمر جانور کو پلا دے یا مٹی میں ڈال دے یا کسی دوائی میں ڈال دے۔
پا نچوں حکم یہ ہے کہ اس کے پینے والے کو حدگانی جائے گی اگرچہ نشرہ آیا ہوا بتہ اگر اس نے خمر میں پانی مالیا تو اب دیکھا جائے گا اگر
پانی غالب ہو تو حدمنہ لگانی جائے گی اور پانی مغلوب یا مساوی ہو تو حدگانی جائے گی۔

چھٹا حکم یہ ہے کہ اگر خمر کو پکایا بھی جائے تو بھی اس کی حرمت ساقط نہ ہو گی کیون کہ پکانا حرمت کے ثابت ہونے کو روکتا ہے اور جو
حرمت ثابت ہو جائے اس کو ختم نہیں کر سکتا البتہ اتنی بات ہے کہ اس پکی ہوئی شراب کے پینے والے کو حدمنہ لگانی جائے گی جب تک اس کو
نشرہ آجائے۔ [و فیه کلام مذکور فی الشامی من شاء فلیراجعہ: ۴/۵۰۵]

ساتواں حکم یہ ہے کہ خمر کو سرکہ بنانا احتاف کے نزدیک جائز ہے اور یہ اولی ہے کیون کہ خمر کو بہانے میں ضیاع ہے۔ البتہ بعض کے
نزدیک سرکہ بنانا واجب ہے کیون کہ یہ مال ہے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہے ان کے نزدیک اس کو سرکہ بنانا جائز نہیں ہے۔
نوٹ:

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”هذه عشرة احكام“ کہ دس احکامات ذکر کیے گئے ہیں حالانکہ یہاں سات احکامات مذکور ہوئے
ہیں تین حکم شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے جس کو بندہ دوسری کتب سے نقل کرتا ہے۔

آٹھواں حکم یہ ہے کہ اس کی بیع ناجائز ہے کیون کہ حدیث مبارکہ ہے جس کو بینا حرام ہے اس کی بیع بھی حرام ہے۔
نوال حکم یہ ہے کہ اس سے دوائی بنانا جائز نہیں ہے۔

دوواں حکم یہ ہے کہ یہ نجاست غلیظہ ہے کیون کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس فرمایا ہے۔ [در مختار: ۶/۳۲۹، بحر الرائق: ۸/۳۰۰]

عبارت:

کا لطلاء و هو ماء غلب قد طبخ فذهب اقل من ثليثه و غلط نجاسة و نقيع التمر اي السكر و نقيع الزبيب
نبين اذا غالب و اشتدت الضمير يرجع الى الطلاء و نقيع التمر و نقيع الزبيب و عند الاوزاعي الطلاء و هو
البادق مباح و كذا نقيع الزبيب و عند شريك بن عبد الله السكر مباح لقوله تعالى تتخذون منه سكر او رزقا
حسنا و اعلم ان هذه الاشربة انما تحرم عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى اذا غالب و اشتدت و قدفت بالزدد و
عندهما يكفى الاشتداد كما في الخمر و حرمة الخمر اقوى فيكرف مستحلها فقط و حل المثلث العنى مشتدا
اى يطبخ ماء العنت حتى يذهب ثلاثة و بقى ثلاثة ثم يوضع حتى يغلى و يت Undo يقذف بالزيدي و كذا ان صب فيه
الماء حتى برق بعدما ذهب ثلاثة ثم يطبخ ادنى طبخة ثم يوضع الى ان يغلى و تشتدو يقذف بالزبد و انما حل
المثلث عند ابى حنيفة و ابى يوسف خلافا لمحمد و مالك و الشافعى رحمهم الله تعالى و نبىد التمر
والزبيب مطبوخا ادنى طبخه و ان اشتد اذا شرب مال ميسكر بلا لهو و طرب اى انما يحل هذه الاشربة اذا
شرب مالم ميسكر اما القدر الاخير و هو المسكر حرام اتفاقا و شرطه ان يشرب لا لقصد اللهو والطرب.

ترجمہ:

بیسے ”طلاء“ (حرام ہے) یہ انگور کا وہ پانی ہے جس کو پکایا گیا ہو پھر اس کے دو ثلث سے اقل ختم ہو جاتے اور یہ جس غلیظہ ہوتا ہے اور

”نقيع التمر“ يعني شے والی اور ”نقيع الترتيب“ جود و نوں کچی ہوں جب یہ جوش ماریں اور تیز ہو جائیں مصیر ”طلاء“ اور ”نقيع التمر“ اور ”نقيع الزبيب“ کی طرف راجح ہے اور امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ”طلاء“ وہ انگور کا شیرہ ہے مباح ہے اور اسی طرح ”نقيع الزبيب“ ہے اور امام شریک بن عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سکر مباح ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”تَخْذُونَ مِنْهُ سَكْرَاءَ وَ زَدْقَا حَسْنًا“ تو جان لے کہ یہ اشربہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی وقت حرام ہیں جب یہ جوش ماریں اور تیز ہو جائیں اور جھاگ پھینک دیں اور صاحبین رحمہمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیز ہونا کافی ہے جیسا کہ خرمیں ہے اور خرمی حرمت قوی ہے۔ لہذا فقط اسی کو حلال سمجھنے والا کافر ہو گا اور مثبت عینی حلال ہے دراں حاکمہ تیز ہو یعنی انگور کا پانی پکایا جائے یہاں تک کہ اس کے دو ثلث چلے جائیں اور اس کا ایک ثلث باقی رہ جائے پھر اس کو رکھ دیا جائے یہاں تک کہ وہ جوش مارے اور تیز ہو جائے اور جھاگ پھینک دے اور اسی طرح اگر اس میں اس کے دو ثلث چلے جانے کے بعد پانی ڈال دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ پتلی ہو گئی پھر اس کو تھوڑا اسپاکایا گیا پھر اس کو رکھ دیا گیا یہاں تک کہ اس نے جوش مارا اور تیز ہو گئی اور جھاگ کو پھینک دیا اور سوائے اس کے نہیں کہ مثبت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال ہے برخلاف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہے اور چھوراے اور کشش کی نبیذ حلال ہے۔ دراں حاکمہ اس کو تھوڑا اسپاکایا گیا ہوا گرچہ وہ تیز ہو جائے جب کہ اس کو نشہ نہ دے لہو اور مستی کے بغیر پیا جائے یعنی سوائے اس کے نہیں کہ یہ اشربہ حلال ہیں جب کہ اس کو پیئے جو نشہ نہ دے بہر حال آخری پیالہ جو نشہ دینے والا ہوتا ہے۔ اتفاقی طور پر حرام ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ لہو و مستی کے ارادے سے نہ پیئے بلکہ قوت حاصل کرنے کے ارادے سے پیئے اور ”خليطان“ حلال ہیں اور وہ یہ ہے کہ چھوراے اور کشش کے پانی کو جمع کر لیا جائے اور اس کو تھوڑا اسپاکایا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ جوش مارے اور تیز ہو جائے تو یہ لہو و مستی کے ارادے کے بغیر پینا حلال ہے اور شہد اور انجیر اور گندم اور بجو اور کنی کی نبیذ حلال ہے اگرچہ پکائی نہ جائے جب کہ لہو و لعب کے بغیر ہو۔

شرح:

ماقبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ چار اقسام کی اشربہ حرام ہیں جس میں سے ایک کاذک گزر چکا ہے اب ”کمال الطلاء و جو.....“ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بقیہ تین اشربہ محمرہ کا ذکر کر رہے ہیں۔

دوسری شراب جس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انگور کے پانی کو اس قدر پکایا جائے کہ اس کی دو ثلث سے کم مقدار تخلیل ہو جائے تو یہ اشرب بالاتفاق حرام ہے اور اس کی نجاست میں اختلاف ہے بعض نے نظیفہ قرار دی ہے اور بعض نے خفیفہ قرار دی ہے اور یہی ظاہر الرؤایہ ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ انگور کے پانی کو اس قدر پکایا جائے کہ اس کی دو ثلث مقدار تخلیل ہو جائے تو یہ شراب بالاتفاق حلال ہے۔ [بحralaraq: ۲۰۱/۸]

اب یہ جان لیں کہ ان کے نام رکھنے میں فہرہ کرام حبہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے بعض حضرات جن میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں انہوں نے پہلی قسم کا نام ”طلاء“ ذکر کیا ہے اور دوسری قسم کا نام ”بادق“ ذکر کیا ہے اور بعض حضرات نے جن میں امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں انہوں نے اس کا برعکس کیا ہے کہ پہلی قسم کا نام ”بادق“ ذکر کیا ہے اور دوسری قسم کا نام ”طلاء“ ذکر کیا ہے۔

اور یہی قول صحیح ہے و عند الاوزاعی سے یہی بیان کیا ہے کہ ”طلاء“ جس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مباح ہے اور یہ اختلاف لفظی ہے کیوں کہ پہلی قسم بالاتفاق حرام ہے اور دوسری قسم مباح ہے۔ اب تقدیری

عبارت یوں ہے۔ ”و عند الوزاعي الطلاء و هو الباقي عند المصنف مباح“۔ [در مختار: ۲۵۱]

تیسرا شراب کا ذکر و نقيع التمر سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ چھواروں کو پانی میں ڈال دیا جائے یہاں تک پانی میں اس کی محسس منتقل ہو جائے اور اس کو رکھا رہنے دیا جائے۔ اس شراب کا نام ”سکر“ ہے۔ امام شریک بن عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حلال ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”تخدون منه سکرا و رزقا حستا“ کہ اللہ تعالیٰ نے سکر کو ذکر کر کے احسان فرمائے ہیں اور احسان حلال شئی کے ذکر سے کیا جاتا ہے۔ حرام شئی کے ذکر سے نہیں کیا جاتا چنانچہ سکر حلال ہے ہم نے جواب دیا کہ یہ آیت ابتدائی زمانہ پر محول ہے جب کہ شراب حلال تھی۔

[بجر الرائق: ۳۰۱/۸]

چوتھی شراب کا ذکر و نقيع الزبيب سے کیا ہے کہ کشمکش کو پانی میں ڈال کر کہ دیا جائے یہاں تک کہ اس کی محسس پانی میں منتقل ہو جائے یہ بھی حرام ہے۔

و اعلم ان هذه سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مذکورہ بالآتیوں اشربہ اس وقت حرام ہیں جب کہ یہ جوش ماریں اور تیز ہو جائیں اور جھاگ پھینک دیں یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب جوش ماریں اور تیز ہو جائیں تو یہ حرام ہیں۔ جوش مارنے اور جھاگ پھینکنے سے قبل مباح ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ان کی حرمت شراب کی حرمت سے کم ہے۔ کیوں ان کی حرمت اجتہاد سے ثابت ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کو حلال سمجھنے والا کافرنہ ہو گا۔

و حل المثلث سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان چار اشربہ کا ذکر کر رہے ہیں جن کو پینا حلال ہے۔ پہلی ”مثلث“ ہے یعنی انگور کے پانی کو پکایا جائے حتیٰ کہ اس کے دو مثلث تخلیل ہو جائیں اور باقی ایک مثلث رہ جائے پھر اس کو رکھ دیا جائے یہاں تک کہ وہ جوش مارے اور تیز ہو جائے اور جھاگ پھینک دے تو یہ حلال ہے اور اگر انگور کے پانی کو پکانے کے بعد جب کہ اس کے دو مثلث تخلیل ہو گئے اس میں مزید پانی ڈال دیا گیا اور اس کو پکایا گیا اور رکھ دیا جتی کہ اس نے جوش مارا اور تیز ہو گیا اور جھاگ پھینک دی تو بھی یہ حلال ہے اور یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے جب کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مثلث حرام ہے۔

دوسری شراب یہ ہے کہ چھوارے یا کشمکش کو پانی میں ڈال دیا جائے کہ ان کی ہلکی سی محسس پانی میں آجائے پھر ان کو تھوڑا اس پکایا جائے تو اس کو پینا حلال ہے اگرچہ یہ تیز ہو جائے اس کو پینا اس وقت حلال ہے جب کہ اس میں نہ نہ ہو اور اس کو لہو و لعب کے لیے نہ پیا جائے اور پکانے کی قید اس لیے گئی ہے کہ اگر نہیں کوپکایا نہ جائے اور وہ جوش مارے اور تیز ہو جائے اور جھاگ پھینک دے تو وہ حرام ہے۔

[شامی: ۲۵۲/۶]

یہ شراب پینا شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال ہے جب کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے۔ البتہ اختلاف صرف برتن کے اور والے حصے میں موجود شراب کے پینے میں ہے اور آخری پیالہ جو برتن کے نچلے حصے میں ہوتا ہے اس کو پینا بالاتفاق ہے کیوں کہ وہ مسکر ہے۔ تیسرا شراب یہ ہے کہ بھجور اور کشمکش کے پانی کو جمع کیا جائے اور تھوڑا اس پکایا جائے اور اس کو رکھ دیا جائے یہاں تک کہ وہ جوش مارے اور تیز ہو جائے تو یہ حلال ہے بشرطیکہ لہو و لعب کے لیے نہ پیا جائے۔

چوتھی شراب یہ ہے کہ شہد اور انجیر یا گندم یا مکنی سے نبیذ بنائی جائے خواہ اس کو پکایا جائے یا نہ پکایا جائے یہ حلال ہے بشرطیکہ لہو و لعب کے لیے نہ پیا جائے۔

عبارت:

و حل الخمر ولو بعلاج اى بالقاء شئ فيه و هذا احتراز عن قول الشافعی رحمة الله تعالى فان التخليل اذا كان بالقاء شئ فيه لا يحل الخل قولاً واحداً و ان كان بغير القاء شئ ففيه قوله له و الانتباذ في الدباء و الحنتم والمزفت والنمير الدباء القرع والحنتم الجرة الخضراء والمزفت الظرف المطلال بالزفت اى القير والنمير الظرف الذي يكون من الخشب المنقوص اعلم ان هذه الظروف كانت مختصه بالخمر فاذا حرمت الخمر حرم النبي صلی الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف اما لان في استعمال تشبهها بشرب الخمر واما لان هذه الظروف كان فيها اثر الخمر فلما مضت مدة اباح النبي صلی الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف فان اثر الخمر قد زال عنها وايضا في ابتداء تحريم شئ يبالغ و يشدد ليتركه الناه ومرة فاذا ترك الناس واستقر الامر يزول ذلك التشديد بعد حصول المقصود و شرب و رد الخمر والانتشاط به المراد بالكراءة الحرمة لان فيه اجزاء الخمر الا انه ذكر لفظ الكراهة لا الحرمة لعدم النص القاطع فيه ولا يحد شاربه بلا سكر فان في الخمر الماء يحد لشرب القليل لان القليل الخمر يدعوا الى الكثير و لا كذلك في الدردی فاعتبر حقيقة السكر.

ترجمہ:

اور شراب کو سرکہ بنانا جائز ہے اگر عمل کے ذریعے ہو یعنی اس میں کوئی شئ ڈال کر ہوا دریہ امام شافعی رحمة اللہ تعالیٰ کے قول سے احتراز ہے کیوں کہ سرکہ بنانا جب کسی شئ کو ڈال کر ہوتا ایک قول کے مطابق حلال نہیں ہے اور اگر کسی شئ ڈالے بغیر ہوتا اس میں دو قول ہیں اور ”دباء“ اور ”حنتم“ اور ”مزفت“ اور ”نمير“ میں نہیں بنانا جائز ہے۔ دبائی کدو اور حنتم یعنی سبز مٹکا اور مزفت وہ برتن جس کو تار کوں ملا گیا ہوا رنگریزی کی ہوئی لکڑی کا ہوتا ہے۔ تو جان لے کہ یہ برتن اگرچہ خر کے ساتھ خاص ہیں چنانچہ جب خرام ہوئی تو آپ علیہ السلام نے یہ برتن بھی خرام کر دیے یا تو اس لیے کہ ان کو استعمال کرنے میں خر پینے کی مشابہت تھی یا اس وجہ سے کہ ان برتوں میں خر کا اثر تھا لہذا جب ایک مدت گزر گئی تو آپ علیہ السلام نے ان برتوں کا استعمال مباح قرار دیا کیوں کہ خر کا اثر زائل ہو چکا تھا اور حکم بات بھی ہے کہ کسی شئ کو ابتداء خرام کرنے میں تختی اور مبالغہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو چھوڑ دیں چنانچہ جب لوگوں نے چھوڑا اور حکم پختہ ہو گیا تو مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے یختی بھی زائل ہو گئی اور خر کی تلچھت کو پینا اور اس کے ساتھ لکھی کرنا مکروہ ہے۔ کراہت سے حرمت مراد ہے اس لیے کہ اس میں خر کے اجزاء ہیں مگر یہ کہ مصنف رحمة اللہ تعالیٰ نے لفظ کراہت ذکر کیا لفظ حرمت ذکر نہیں کیا اس میں قطعی نص نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے پینے والے کو بلانشہ آئے حد نہیں لگائی جائے گی کیوں کہ خر میں سوائے اس کے نہیں کہ قلیل پینے سے حد لگائی جاتی ہے اس لیے کہ قلیل خر پینا کشیر خر کی طرف دعوت دیتی ہے اور تلچھت میں اس طرح نہیں ہے۔ لہذا حقیقت نشہ کا اعتبار کیا جائے گا۔

ترجمہ:

والا نبیاذ فی سے مصنف رحمة اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان برتوں میں نہیں بنانا جائز ہے یہ بات جان لیں کہ اگر ان برتوں کو شراب کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تو ان میں نہیں اشکال نہیں ہے البتہ اگر ان کو شراب بنانے کے لیے استعمال کیا گیا پھر ان

میں نبیذ بنانے کی ضرورت پڑی تو اب برتن کو دیکھا جائے کہ وہ قدیم ہے یا جدید ہے اگر قدیم ہو تو تم مرتباً دھونے سے پاک ہو جائے گا اور اگر جدید ہو تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پاک نہ ہو گا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو تم بارہ صویا جائے اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد خشک کیا جائے یہاں تک کہ جب اس سے پانی بالکل صاف نکلنے لگے تو وہ پاک ہو گیا۔ [بحر الرائق: ۳۰۴]



كتاب الصيد

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الصید کو کتاب الاشربہ کے بعد ذکر کیا اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک سے انسان کو سرو حاصل ہوتا ہے لیکن چوں کہ شراب حرام تھی اس لیے اس کو مقدم کیا تاکہ اس سے احتراز کیا جائے۔
اس کتاب سے قتل چند باتیں بطور تمہید جان لیں۔

لغوی معنی:

اس کا لغوی معنی ”شکار کرنا“ ہے۔

شرعی معنی:

اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ ”الارسال بشرطه لاخذ ما هو مباح من الحيوان المتواحش الممتنع عن الآدمي باصل خلقته“۔

رکن:

وہ شکار جو شرائط کے ساتھ کیا جائے۔

حکم:

شکار، شکاری کی ملک ہو جاتا ہے۔

دلیل:

اللہ تعالیٰ کافرمان ہے ”احل لكم صید البحر“ اور ”و اذا حللتكم فاصطادوا“۔ [بخاری: ۳۰۶/۸]

شرائط:

شکار کی چودہ شرائط ہیں۔ پانچ شرائط شکاری میں ہونا ضروری ہیں۔ (۱) شکاری ذبح کرنے کا اہل ہو۔ (۲) شکاری نے کتے کو بھیجا ہو۔ (۳) شکاری کے ساتھ ایسا شخص شریک نہ ہو جس کا شکار کرنا حلال نہیں ہے۔ (۴) عامداً تسمیہ نہ چھوڑے۔ (۵) کتا بیچجے اور شکار پکڑنے کے درمیان کسی دوسرا کام میں نہ لگے۔

پانچ شرائط کتے میں ہونا ضروری ہیں۔ (۱) کتا معلوم ہو۔ (۲) ارسال کی سمت جائے۔ (۳) شکار کو ذبح کر کے قتل کرے۔ (۴) کتے کے ساتھ دوسرا کتا غیر معلم شریک نہ ہو۔ (۵) کتا شکار سے خود نہ کھائے۔

چار شرائط شکار میں ہوتا ضروری ہیں۔ (۱) شکار حشرات الارض میں سے نہ ہو۔ (۲) پانی کی مخلوقات میں سے صرف محملی ہو۔ (۳) شکار اپنی حفاظت کر سکتا ہو خواہ پروں کے ذریعے ہو یا پاؤں کے ذریعے ہو۔ (۴) شکاری تک پہنچ سے قبل مرجائے ورنہ اس کے پاس پہنچنے کے بعد مرگیا تو حرام ہو جائے گا۔

[شامی: ۶/۳۶۱]

عبارت:

یحل صید کل ذی ناب و ذمی مخلب من كلب او بازی و نحوهما قد مر فى الذبائح معنى ذی الناب و ذی المخلب ثم اعلم ان الخنزير مستثنى لانه نجس العين و ابو يوسف رحمه الله تعالى استثنى الاسد لعلو همه و الدب لخساسة و البعض الحق الحداء به لخساسة و الظاهر انه لا يحتاج الى الاستثناء فان الاسد و الدب لا يصيرون معلمين بعلو الهمة والخساسة فلو يوجد شرط حل الصيد بشرط علمهما و جرحهما اي موضوع منه هذا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و محمد و عن ابى يوسف رحمهما الله تعالى انه لا يشترط الجرح و ارسال مسلم او كتابى اياهما مسميا اي لا يترك التسمية عاماً على ممتنع متواحش يوكل يشترط فى الصيد ان يكون ممتنعا بالقوائم او الجناحين فالصيد الذى استثنى ممتنع غير متواحش والصيد الواقع فى الشبقة والساقط فى الببر والذى اتخنه متواحش غير ممتنع لخروجه عن حيز الامتناع وان لا يشارك الكب المعلم لا يحل صيده مثل كل غير معلم او كلب مجوسى او كلب لم يرسل للصيد او ارسال وتراء التسمية عاماً لا يطول و قفتة بعد ارساله فانه ان طال و قفتة بعد الارسال لم يكن الا صطياد مضافا الى الارسال بخلاف ما اذا اکمن الفهر فان هذا حيلة فى الاصطياد فيكون مضافا الى الارسال

ترجمہ:

ہر ذی ناب اور ذی مخلب یعنی کتنے یا باز یا ان دونوں کے علاوہ جانوروں سے شکار کرنا حلال ہے۔ کتاب الذبائح میں ذی ناب اور ذی مخلب کا معنی گزر چکا ہے پھر تو جان لے کر خنزیر مستثنی ہے اس لیے کہ وہ نجس العین ہے اور امام ابو یوسف رحمه اللہ تعالیٰ نے شیر کو اس کی بلند ہمتی کی وجہ سے اور ریچھ کو اس کی کمینگی کی وجہ سے استثناء کیا ہے اور بعض نے چیل کو اس کے ساتھ اس کی کمینگی کی وجہ سے لاحق کیا ہے اور ظاہربات یہ ہے کہ استثناء کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ شیر اور ریچھ اپنی بلند ہمتی اور گھٹیاپن کی وجہ سے معلم نہیں ہو سکتے۔ لہذا شکار کے حلال ہونے کی شرط نہیں پائی گئی، ان دونوں (ذی ناب اور ذی مخلب) کے معلم ہونے اور شکار کے کسی حصے میں زخم کرنے کی شرط کی وجہ سے (شکار حلال ہے) ایام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمه اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور امام ابو یوسف رحمه اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جرح شرط نہیں ہے اور مسلمان یا کتابی کے ان دونوں کو باسم اللہ پڑھ کر بھینجنے کی شرط کے ساتھ حلال ہے یعنی وہ جان بوجہ باسم اللہ ترك نہ کرے ایسے جانور پر ہو جو اپنی حفاظت کر سکتا ہو کھایا جاتا ہو۔ شکار میں شرط یہ ہے کہ پاؤں یا پروں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہو چنان چہ وہ شکار جو مانوں ہو وہ ممتنع غیر وحشی ہے اور وہ شکار جو جال میں پڑ جائے یا کنوں میں گر جائے اور جس کو زخم نے ست کر دیا ہو وحشی ہے ممتنع نہیں ہے کیوں کہ وہ حفاظت کرنے کی حالت سے نکل چکا ہے اور یہ کہ معلم کتنے کے ساتھ ایسا کتاب شریک نہ ہو جس کا شکار حلال نہیں ہے جیسے غیر معلم کتابیا جویں کا کتابیا وہ کتاب جس کو شکار کرنے نہیں بھیجنے کیا ایسا کتاب شریک نہ ہو جس کا شکار حلال نہیں ہے کے بعد اس کا ٹھہرنا طویل نہ ہو کیوں کہ اگر بھیجنے کے بعد اس کا ٹھہرنا طویل ہو گیا تو شکار کرنا ارسال کی طرف منسوب نہ ہو گا بخلاف اس

صورت کے ہے جب پختا چپ جائے کیوں کہ یہ شکار کرنے کا حیلہ ہے، چنانچہ یہ ارسال کی طرف منسوب ہو گا۔

شیع:

یحل صید کل مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ درندہ جو نوکیلے دانتوں یا پنجوں سے شکار کرتا ہو تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے جیسے کہ تیباہ وغیرہ ہے۔ البتہ خزریکا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہے کیوں کہ خزر بخس اعین ہے اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے شیر اور ریچھ کے شکار کو حرام قرار دیا ہے کیوں کہ یہ اپنی بلندِ محنتی کی وجہ سے کسی کے لیے شکار نہیں کرتا بلکہ اپنے لیے کرتا ہے اور ریچھ اپنے گھٹیاپن کی وجہ سے کسی کے لیے شکار نہیں کرتا اور بعض نے چیل کو بھی اس سے لاحق کیا ہے کہ اس میں بھی گھٹیاپن ہے۔ لہذا اس کا کیا ہوا شکار بھی حلال نہیں ہے۔

شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے:

والظاهر سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ شیر اور پیچھے کو اس سے مستثنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیون کہ یہ تعلیم قبول نہیں کر سکتے۔

شارح رحمه اللہ تعالیٰ کو جواب:

لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کو استثناء کرنا صحیح ہے کیوں کہ ان میں تعلیم کی قابلیت ہے۔ چنان چہ اگر تعلیم قبول کر لیتے تو ان کا شکار حلال ہوتا ہے۔ بشرط علمہا..... سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ شکار کے حلال ہونے کی شرائط ذکر کر رہے ہیں چنان چہ فرمایا کہ ذی ناب اور ذی محلب کا معلم ہونا شرط ہے (تعلیم کا ذکر آگئے گا ان شاء اللہ) و جر جھما ای..... یعنی یہ دونوں شکار کو کسی جگہ زخم ضرور لگا کیسی تو پھر وہ شکار حلال ہوگا یہ امام ابوحنین رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے جب کہ امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شکار کو زخمی کرنا شرط نہیں ہے۔

رائج قول:

مشائخ حرمہم اللہ تعالیٰ نے طرفین کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔

ارسال مسلم یعنی ذی ناب اور ذی مخلب کو شکار پر بھینجے والا مسلمان یا کتابی ہو چنان چہ جو سی یا بست پرست یا مرتد کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہے۔

مسیمیا یعنی شکار کو صحیح وقت محسلاً بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے چنان چاگر بسم اللہ عمدأ چھوڑ دی تو یہ شکار حرام ہے۔

ممتدع متواحش یعنی جانور کا مقتضی ہونا شرط ہے کہ وہ اپنے پاؤں یا پروں کے ذریعے اپنی حفاظت کر سکتا ہو اور متواحش بھی ہو یعنی انسانوں سے طبعاً یا پروں کے ذریعے حفاظت کر سکتا ہو اور متواحش بھی ہو یعنی انسانوں سے طبعاً وحشت کرتا ہو یہ دونوں باتیں اس میں ہونا ضروری ہیں چنانچہ اگر ایک جانور انسانوں سے منوس ہو جیسے گائے، بکری وغیرہ تو یہ جانور ممتدع ہے۔ البتہ متواحش نہیں ہے اور اسی طرح اگر ایک شکار جال میں چھنس گیا یا کنویں میں گر گیا کسی وجہ سے کمزور ہو گیا تو یہ متواحش ہے۔ البتہ ممتدع نہیں ہے کیون کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ و ان لا یشارک یعنی معلم کتے کے ساتھ شکار کرنے میں غیر معلم کتاب شریک نہ ہو جیسے جو سی کا کتا، یا وہ کتاب جس کو شکار کے لیے نہیں بھیجا گیا یا اس پر عمداءِ اسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو ایسا شکار حرام ہے۔ بشرطیکہ غیر معلم کتاب معلم کے ساتھ شکار پکڑنے اور رزخی کرنے میں شریک نہ ہو بلکہ رزخی صرف معلم کتے نے کیا ہو تو اب اس شکار کو کھانا مکروہ تحریکی ہے۔

[شامی: ۶/۳۶۶]

و لا يطول وقته يعني جب شکاری نے کتے کوشکار پکڑنے کے لیے بھیجا تواب اس کے بعد کتابی دوسرا کام میں مصروف نہ ہو جیسا کہ کتاب پیشتاب کرنے کا تواب یہ شکار حلال نہ ہوگا۔ البتہ اگر چیتا ہوا اور شکاری نے اس کو بھیجا اور وہ چھپ گیا اور اس کے بعد اس نے شکار کیا تو یہ حلال ہے اس لیے کہ چیتے کی عادت یہ ہے کہ وہ چھپ کر شکار کرتا ہے۔ امام شمس اللہ علوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے چیتے کی کچھ اچھی عادات بیان کی ہیں اور فرمایا کہ ہر عاقل کو ان پر عمل کرنا چاہیے اور ان کا ذکر ”شامی“ میں ہے۔

[ترکتها مخافة التطويل من شاء فليراجعه: ۳۶۷/۲]

عبارت:

و يعلم المعلم بترك أكل الكلب ثلث مرات و رجوع البازى بدعائه فإن أكل منه البازى أكل لا ان أكل الكلب و لا ما أكل منه بعد تركه ثلث مرات و لا ما صاد بعد حتى يتعلم و قبله و اذا بقى في ملكه اي لا يحل ما صاد الكلب بعد ما أكل حتى يتعلم اي يترك الاكل ثلاث مرات و لا يحل ما صاد قبل الاكل اذا بقى في ملكه فإن الكلب اذا أكل علم انه لم يكن كلبا معلما و كل ما صاد قبل ذلك الاكل فهو صيد كلب جاهل فيحرم اذا بقى في ملكه الصياد و من شرط الحل بالرمي التسمية اي لا يتركها عامدا والجرح و ان لا يقعد عن طلبه حل اكله لان غاب متحاملا سهمه اي رمي فغاب عن بصره متحاملا سهمه فادركه ميتا فإن لم يقعد عن طلبه حل اكله لان هذا ليس في وسعه و ان قعد عن طلبه يحرم لان في وسعه ان يطلب و قد قال عليه السلام لعل هوا مال الأرض ي يجب التزكية حتى لو ترك التذكية يحرم و قد قال في المتن فإن تركها عامدا المراد به انه ترك التزكية مع القدرة عليها اما ان لم يتمكن من التزكية ففي المتن اشارة الى حله كما روى عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى و كذلك عن ابي يوسف رحمه الله تعالى و هو قول الشافعى رحمه الله تعالى و في الظاهر الرواية انه يحرم و ان كان حياته مثل حيوة المذبوح فلا اعتبار لها فلا يجب التزكية اما في المتردية و اخواتها و في الشاة التي مرضت فالفتوى على ان الحيوة و ان قلت معتبرة حتى لو ذاكها و فيها حيوة قليلة يحل لقوله تعالى الا ما ذكرتكم

ترجمہ:

اور معلم کا علم ہو گا کتے کے تین مرتبہ کھانے کو چھوڑنے سے اور باز کو بلانے سے لوٹنے سے ہذا اگر بازنے اس سے کھالیا تو شکار کھایا جائے گا نہ کہ اگر کتے نے کھالیا اور نہ اس صورت میں جب کتے نے تین مرتبہ چھوڑنے کے بعد کھایا اور نہ وہ شکار حلال ہے جو اس کے بعد شکار کرے یہاں تک وہ معلم ہو جائے یعنی تین مرتبہ کھانا چھوڑ دے اور وہ شکار حلال نہیں ہے جو اس نے کھانے سے قبل کیا تھا کہ وہ اس کی ملک میں باقی ہو کیوں کر کتے نے جب کھالیا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ معلم نہیں ہے اور ہر وہ شکار جو اس نے اس کھانے سے قبل کیا تو وہ جاہل کتے کا شکار ہے، چنان چہ حرام ہے بشرطیکہ شکاری کی ملکیت میں باقی ہوا اور تیر کے ساتھ حلال ہونے کی شرط بسم اللہ پڑھنا ہے یعنی اس کو جان بوجہ کرنہ چھوڑے اور زخمی کرنا شرط ہے اور یہ کہ اس کو ڈھونڈنے سے نہ بیٹھ جائے اگر شکار اس کے تیر کو برداشت کرتے ہوئے غائب ہو جائے یعنی شکار نے تیر مارا پھر شکار اس کے تیر کو برداشت کرتے ہوئے اس کی نظر وہ سے غائب ہو گیا پھر شکاری نے اس کو مردہ حالت میں پایا چنان چہ اگر شکاری اس کو تلاش کرنے سے نہ بیٹھا ہو تو اس کو کھانا حلال ہے۔ اس لیے کہ یہ اس کی وسعت میں نہیں ہے اور

اگر اس کی تلاش سے بیٹھ گیا تو وہ حرام ہو جائے گا اس لیے کہ شکاری کی دسعت میں یہ ہے کہ اس کو تلاش کرے تحقیق آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شاید حشرات الارض نے اس کو قتل کر دیا ہو اور اگر مرسل یا تیر مارنے والے نے اس کو زندہ پایا تو اس کو ذبح کرے مراد یہ ہے کہ اس کو زندہ پایا دراں حالکہ اس میں اتنی زندگی ہے جو مذبوح کی زندگی سے زیادہ ہے تو ذبح کرنا واجب ہے لہذا اگر ذبح کرنا چھوڑ دیا تو وہ حرام ہو جائے گا اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے متن میں فرمایا ہے کہ اگر اس نے تذکیرہ مدد اچھوڑا ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ تذکیرہ پر قدرت کے باوجود اس کو چھوڑ دیا بہر حال اگر وہ تذکیرہ پر قادر نہ ہو تو متن میں اس کے حلال ہونے کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور ظاہر الروایۃ میں ہے کہ یہ شکار حرام ہے اور اگر اس کی زندگی مذبوح کی زندگی کے مثل ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ چنان چہ تذکیرہ واجب نہیں ہے بہر حال متذکر (لڑکہ کر ہلاک ہونے والا جانور) اور اس کی اخوات اور اس بکری میں جو بیمار ہو اس پر فتویٰ ہے کہ زندگی معتبر ہے اگرچہ کم ہو۔ لہذا اگر اس نے ذبح کر لیا اور اس میں تھوڑی زندگی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان "الا ما ذکریتم" کی وجہ سے حلال ہے۔

تحقیق:

و یعلم المعلم سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کتے اور باز کی تعلیم کا ذکر کر رہے ہیں کہ کتے کی تعلیم یہ ہے کہ وہ تین مرتبہ شکار کرنے کے بعد تینوں مرتبہ شکار کو نہ کھائے اور مالک کو لا کر دے اور یہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے جب کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو تین کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا بلکہ جب شکاری کا غالب گمان ہو جائے کہ یہ معلم بن گیا ہے تو وہ معلم شمار ہو گا اور باز کی تعلیم یہ ہے کہ جب شکاری اس کو چھوڑنے کے بعد واپس بلائے تو وہ واپس آجائے اور یہ فعل شکاری تین مرتبہ کرے تو یہ باز معلم شمار ہو گا۔

فرق:

دونوں کی تعلیم میں فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کتے کی جامت بڑی ہے۔ لہذا شکار کو کھانے کی صورت میں اس کو مارا جاسکتا ہے اور مارنے سے وہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا اور باز کی جامت چھوٹی ہے جو مار برداشت نہیں کر سکتی اس لیے اس کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو تین مرتبہ بلا یا جائے تو وہ واپس آجائے۔

[شامی: ۶/۳۶۲]

فی ان اکل منه چوں کہ دونوں کی تعلیم الگ الگ ہے اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس پر تفریغ پیش کر رہے ہیں کہ باز کی تعلیم بلانے پر واپس آنا ہے۔ لہذا اگر باز نے شکار کا کچھ حصہ کھایا تو بقیہ شکار حلال رہے گا۔

اور کتے کی تعلیم تین مرتبہ شکار کو کھانے سے چھوڑنا ہے اس لیے اگر کتے نے شکار کا کچھ حصہ کھایا تو بقیہ شکار حرام ہے کیوں کہ یہ کتنا معلم نہیں ہے اور اسی طرح اگر تین مرتبہ شکار کر کے اس کو نہ کھایا لیکن چوتھی مرتبہ شکار کو کھایا تو وہ بھی حرام ہے اور و لا ما صاد یعنی اگر کتے نے شکار کرنے کے بعد اس سے کھایا اور چوتھی مرتبہ شکار کیا اور اس کو نہ کھایا تو یہ بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہا دوبارہ تعلیم یافتہ بن جائے تو اس کا شکار حلال ہو گا۔ و قبلہ اذا یعنی کتے نے تین مرتبہ شکار کو چھوڑ دیا اور چوتھی مرتبہ شکار کیا اس کو بھی چھوڑ دیا البتہ جب پانچویں مرتبہ شکار کیا تو اس سے کھایا تو اب اگر مالک کے پاس چوتھی مرتبہ کیا جانے والا شکار موجود ہو تو وہ بھی حرام ہو جائے گا کیوں کہ یہ کتنا غیر معلم ہے، چنان چہ اس نے جو شکار چوتھی مرتبہ کیا تھا وہ بھی جاہل کتے کا شکار تھا اور وہ حرام ہے۔

[و في هذه الصورة اشكال مذكورة في الشامي من شاء فليراجده ثم: ۴/ ۳۶۷]

تیر سے شکار کرنے کی شرائط:

و من شرط الحل مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تیر سے شکار کرنے کے احکامات ذکر کر رہے ہیں چنانچہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شکاری تیر سے شکار کرنے تو اس کی تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لسم اللہ پڑھ کر تیر پھینکنے اور اگر اس نے عمدۃ تمیہ چھوڑ دی تو شکار حرام ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تیر شکار کو ختمی کرے یعنی شکار سے خون بھے چنانچہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تیر کے باوجود شکار مر گیا تو وہ حرام ہوگا۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ اگر شکار تیر لگنے کے باوجود تیر کے ساتھ بھاگ جائے تو شکاری اس کا پیچھا کرے چنانچہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ میں پائے تو وہ اس کے لیے حلال ہے اور اگر شکاری نے اس کی تلاش میں پیچھا نہیں کیا اور بعد میں اس شکار کو مردہ پایا تو اب وہ حرام ہے اس لیے کہ شکاری کی طاقت میں پیچھا کرنا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ جو اس کی وسعت میں ہے اس کو کرے چنانچہ پہلی صورت میں اس نے پیچھا کیا تو وہ حلال ہے اور دوسری صورت میں پیچھا نہ کیا تو وہ حرام ہے۔ دوسری صورت میں حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ممکن ہے اس جانور کو کیڑے مکوڑوں نے ہلاک کر دیا ہو چنان یہ حلال نہیں ہے یہ احتمال اگرچہ پہلی صورت میں بھی ممکن ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

فان ادر کہ المرسل مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شکاری نے شکار کو زندہ پالیا تو اب دو صورتیں ہیں یا تو وہ اس کو ذبح کرنے پر قادر ہو گا یا ذبح کرنے پر قادر نہ ہو گا۔ چنانچہ اگر ذبح کرنے پر قادر ہو تو اس کو ذبح کرنا واجب ہے۔ لہذا اگر اس نے ذبح نہ کیا اور وہ مر گیا تو اس کو نہیں کھایا جائے گا۔

اور اگر شکاری اس کو ذبح کرنے پر قادر نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ شکار میں زندگی کس قدر ہے اگر اس میں مذبوح جانور سے زائد زندگی ہو مثلاً ایک دن زندہ رہ سکتا ہو تو اب اگر اس نے ذبح نہ کیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جب کہ ظاہر الروایۃ کے مطابق یہ حرام ہے اور اگر اس میں مذبوح جانور کے برابر زندگی ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے چنانچہ اگر جانور بغیر ذبح کے مر گیا تو وہ حلال ہو گا۔ [عنایۃ: ۹/۵۲]

ذکر بالاعبارت میں کل تین صورتیں بیان کی گئی ہیں اور انہی تین صورتیں کو کتاب میں بیان کیا گیا ہے جس کو تطبیق دی جاتی ہے۔ پہلی صورت (کہ جب شکاری نے شکار کو زندہ پایا اور اس کے ذبح کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کو ذبح نہ کیا تو یہ حرام ہے) اس صورت کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فان تر کھا سے بیان کیا ہے جس کو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے و قد قال فی المتن سے بیان کیا ہے اور دوسری صورت (کہ جب شکاری نے شکار کو زندہ پایا اور اس کے ذبح کرنے پر قادر نہ تھا اور شکار میں مذبوح سے زائد زندگی تھی) اس صورت کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”فان ادر کہ المرسل سے بیان کیا ہے جس کی وضاحت شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”المراد انه ادر که سے و في ظاهر الروایة انه يحرم“ تک کی ہے اور تیسرا صورت (کہ جب شکار میں مذبوح کے مثل زندگی ہو) اس کو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”وان كان حیاته مثل حیوة سے بیان کیا ہے۔

عبارت:

فان تر کھا ای التذکیۃ عمداً فمات او ارسل مجوسی کلبہ فرجوہ مسلم فائز جر ای اغراه بالصیاح فاشتدا و قتلہ معراض بعرضه المعراض السهم الذی لا ریش له سُمی معراضاً لانه یصیب الشی بعرضه فلو کان فی راسه حدة فاصاب بحدته یحل او بندقة ثقیله ذات حدة ابما قال هذا لانه یحتمل ان یکون قد قتلہ بشقله حتی لو کان

خفیفاً به حدّة يحل للتعین ان الموت بالجرح او رمی صد افوقع فی ماء فانه يتحمل ان الماء قتلہ فيحرم او على سطح او جبل فتردی او رمی صید افوقع فی ماء فانه يتحمل ان الماء قتلہ فيحرم او على سطح او جبل فتردی منه الى الارض حرم لان الاحتراز عن مثل هذا ممکن فان وقع على الارض ابتداء فان الاحتراز عن مثل هذا غير ممکن فيحل او ارسل كلبه فزجره مجوسي فالزجر اولم يرسله احد فزجره مسلم فائزجر اعلم انه اذا اجتمع الارسال والزاجرای السوق فالاعتبار للارسال فان كان الارسال من المحوسي والزاجر من المسلمين حرم و ان كان على العكس حل و ان لم يوجد الارسال و وجذل الزجر يعتبر الزجر فان كان من المسلمين حل و ان كان من المحوسي حرم او اخذ غير ما ارسال عليه اكل هذا عند نافنه لا يمكن التعليم بحيث يأخذ ما عينه و عند مالک لا يوکل و ان ارسال فقتل صیدا ثم قتل صیدا اخرا کلا كما لو رمی سهما الى صید فاصابه و اصاب اخر و كذلك ارسل على صیود کثیرة و سمی مرہ واحدة بخلاف ذبح الشاتین بتسمیۃ واحدة .

ترجمہ:

اور اگر اس نے تذکیہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا چنان چہ جانور مر گیا یا محوی نے اپنا کتا بھیجا پھر مسلمان نے اس کو ڈانت کر بھگایا چنان چہ وہ بھڑک گیا یعنی مسلمان نے اس کو تجھ سے ابھارا چنان چہ وہ تیز ہو گیا یا شکار کو معارض نے اپنی چوڑائی کی طرف سے قتل کیا۔ معارض وہ تیر ہے جس کے پرنس ہواں کا نام معارض رکھا گیا اس لیے کہ وہ شئی کو اپنی عرض کی طرف سے نقصان پہنچاتا ہے چنان چہ اگر تیر کے شروع میں دھار ہو پھر وہ اپنی دھار سے نقصان پہنچاتے تو وہ شکار حلال ہے یا اس کو بھاری تیز بندق (شمی کا گول غل) نے قتل کیا ہو تو شکار حلال ہے اس کے نہیں کہی کہاں لیے کہ اس بات کا اختیال ہے کہ بندق نے اس کو اپنے بوجھ کی وجہ سے قتل کیا ہو۔ لہذا اگر وہ بندق بلکی ہوتیز ہو تو شکار حلال ہے اس بات کے تعین ہونے کی وجہ سے کہ موت زخم سے ہوئی ہے یا شکاری نے شکار کو تیر مارا پھر وہ اپنی میں گر گیا تو اس بات کا اختیال ہے کہ پانی نے اس کو قتل کیا ہو چنان چہ یہ حرام ہے یا چھٹت یا پہاڑ پر سے گرا پھر اس سے زمین کی طرف لڑکھ گیا تو یہ حرام ہے اس لیے کہ اس جیسے سے بچنا ممکن ہے اور اگر ابتداء زمین پر گرا تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے چنان چہ یہ حلال ہے یا مسلمان نے اپنے کتنے کو بھیجا پھر اس کو محوی نے ڈانت کر بھگایا چنان چہ وہ بھڑک گیا تو جان لے کہ جب ارسال اور زجر (بھگانا) جمع ہو جائیں تو ارسال کا اعتبار ہے چنان اگر ارسال محوی کی طرف سے ہو اور بھگانा مسلمان کی طرف سے ہو تو وہ حرام ہے اور اگر اس کے بر عکس ہو تو وہ حلال ہے اور اگر ارسال نہ پایا جائے اور زجر پایا جائے پھر اگر زجر مسلمان کی طرف سے ہو تو حلال ہے اور اگر محوی کی طرف سے ہو تو حرام ہے یا کتنے اس شکار کے علاوہ کو پکڑ لیا جس پر اس کو بھیجا گیا تو اس کو کھایا جائے گا یہ ہمارے زدیک ہے کیوں کہ اس قدر تعلیم دینا ممکن نہیں ہے کہ وہ اسی جانور کو پکڑے جو شکاری نے دوسرا کو قتل کیا تو دونوں کھائے جائیں گے جیسا کہ اگر ایک شخص نے شکار کی طرف تیر مار تو وہ اس کو لوگا اور دوسرا کو بھی لگا اور اسی طرح اگر اس نے کتنے کوئی شکاروں پر بھیجا اور ایک مرتبہ تسبیہ پڑھی برخلاف دو بکریوں کو ایک تسبیہ کے ساتھ ذبح کرنے کے ہے۔

ترتیع:

فان ترکھا..... مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کن صورتوں میں شکار حلال ہے اور کن صورتوں میں حرام ہے۔
فان ترکھا..... یعنی اگر ایک شخص شکاروں مکر نے پر قادر ہو پھر جان بوجھ کر ذبح نہ کرے تو وہ حرام ہے یہ صورت ماقبل والے مسئلے

میں غمناً گز رچکی ہے۔

او ارسل مجوosi..... اس کی کل تین صورتیں ہیں۔

ان سے قبل ایک قاعدہ جان لیں کہ جب ارسال (کتے کو شکار پکڑنے کے لیے بھیجا) اور زجر (شکار پر مزید ابھارنا) دونوں جمع ہو جائیں تو ارسال کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مجوسی نے کتا بھیجا اور مسلمان نے اس کو ابھارا تو اب اس کا کیا ہوا شکار حرام ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مسلمان نے کتا بھیجا اور مجوسی نے اس کو ابھارا تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے اور تیسرا صورت یہ ہے کہ کتنے کوئی نہیں بھیجا لیکن اس کو مسلمان یا مجوسی نے شکار پر ابھارا تو اب اگر مسلمان نے ابھارا ہے تو اس کا شکار حلال ہے اور اگر مجوسی نے ابھارا ہے تو شکار حرام ہے۔

او قتلہ معارض یعنی ایک شخص نے شکار کو ایسے تیر سے شکار کیا جس کے پر نہیں ہوتے درمیان سے موٹا ہوتا ہے اور دونوں جانب باریک ہوتیں ہیں اس کو معارض کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ کسی شئی کو اپنی چوڑائی کی جانب سے لگتا ہے چنانچہ اگر اس کے شروع میں تیز دھار ہو اور شکار کو وہ دھار لگے تو یہ شکار حلال ہے۔

او بندقة یعنی ایک شخص نے غلیل کے ذریعے شکار کیا جس میں مٹی کی گولی ہو تو اب دیکھا جائے گا اگر وہ گولی بھاری بھی ہو اور تیز بھی ہو تو اس کا شکار حرام ہے کیوں کہ اس کا احتمال ہے کہ شکار گولی کے بھاری ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو اور اگر گولی ہلکی ہو اور تیز ہو تو شکار حلال ہے کیوں کہ یہ بات متعین ہے کہ موت زخم کی وجہ سے ہوئی ہے لہذا اصول یہ ہے کہ جب موت یقینی طور پر زخم سے واقع ہو تو شکار حلال ہے اور اگر موت بوجھ کی وجہ سے ہو تو شکار حلال نہیں ہے۔ [شامی: ۲/۱] [۲۷۱]

او رمی صید یعنی ایک شخص نے شکار کو تیر مارا اور اس میں پختہ زندگی تھی پھر وہ پانی میں گر گیا تو وہ حرام ہے کیوں کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی ہے اور اگر اس میں زندگی کم ہو تو اس میں ٹیکھیں اور امام محمد جہنم اللہ تعالیٰ کا وہی اختلاف ہے جو ماقبل میں گز رچکا ہے۔ [شامی: ۲/۲] [۲۷۲]

او علی سطح یعنی ایک شخص نے شکار کو تیر مارا اور وہ تیر لگنے سے چھٹت باپہاڑ پر گرا اور اس میں پختہ زندگی تھی پھر وہ لڑکہ کر زمین پر گر گیا تو اب یہ حرام ہے کیوں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ گرنے کی وجہ سے مرا ہو اور اگر اس میں تیر لگنے کے بعد نہ بوج کے بعد زندگی ہو اور وہ لڑکہ کر گرجائے اور مر جائے تو یہ حلال ہے اور اگر شکار تیر لگنے کے بعد شروع میں ہی زمین پر گر گیا تو وہ حلال ہے کیوں کہ اس سے احتراز ممکن نہیں ہے اس لیے کہ تیر لگنے کے بعد شکار زمین کی طرف ہی آئے گا۔

او اخذ یعنی مرسل نے کتنے کو ایک معین شکار کی طرف روانہ کیا اور کتنے نے دوسرا شکار پکڑ لیا تو اب یہ شکار حلال ہے کیوں کہ مرسل کا مقصود شکار کا حصول ہے جس پر پر کتنا قدرت پالے خواہ وہ وہی شکار ہو جس کو مرسل نے معین کیا ہو یا دوسرا شکار ہو۔ یہ احتاف کے نزدیک ہے کیوں کہ کتنے کو اس قدر تعلیم دینا کہ بعینہ وہی شکار پکڑے یہ ممکن نہیں ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شکار حلال نہیں ہے اور اسی طرح اگر کتنے ایک شکار کو قتل کرنے کے بعد دوسرے کو بھی قتل کر دیا تو یہ دونوں حلال ہیں جیسا کہ اگر ایک شخص کسی شکار کو تیر مارے وہ تیر اس سے نکل کر دوسرے شکار کو بھی قتل کر دے تو یہ دونوں حلال ہیں اور اسی طرح اگر ایک شخص نے کتنے کو بہت سارے شکاروں کے پیچھے روانہ کیا اور ایک مرتبہ تمیہ پڑھی اور اس نے کئی شکاروں کو قتل کر دیا تو یہ تمام حلال ہیں۔ البتہ پھر اگر کوئی دو بکریوں کو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے تو دونوں حلال نہ ہوں گی۔

عبارت:

کصید رمی فقطع عضوا کل منه لا العضو هذا عندنا و عند الشافعی رحمه الله تعالى اکلا جمیعاً لنا لقوله عليه السلام ما ابین من الحی فهو میت و ان قطع اثلاتا و اکثره مع عجزه قطعه قطعتین بحیث یکون الثلث فی طرف الراس والثلثان فی طرف العجز او قطع نصف راسه او اکثره او قد بنصفین اکل کله لانه فی هذه الصور لا یسمکن حیاته فوق حیوة المذبوح فلم یتناوله قوله عليه السلام ما ابین من الحی فهو میت بخلاف ما اذا كان الثلثان فی طرف الراس والثلث فی طرف العجز لا مكان الحیوة فی الثلثین فوق حیوة المذبوح و بخلاف ما اذا قطع اقل من نصف الراس لا مكان الحیوة فوق حیوة المذبوح فان رمی صیدا فرماه اخر فقتله فهو للاول و حرم و ضمن الثاني قيمته مجرروحا ان كان الاول التخته و الا فللثاني و حل اى رمی صیدا فلماه اخر فقتله فان كان الاول اخرجه عن حیز الامتناع فهو ملک للاول و یكون حراما لان ذکوته ذکوہ اختیاریہ فی حرم حيث قتله بالرمی و اذا كان ملکا للاول و حرم برمه الثاني فالثاني يضم قيمته حال کونه مجرروحا برمه الاول و ان لم یکن الاول اخرجه عن الامتناع فهو ملک للثاني لان قد صاده و یكون حلالا لان ذکوته اضطراریہ و یصاد ما یوکل لرحمه و ما لا یوکل فما لا یوکل لمجھه فبالاصطیاد یظہر لرحمه و جلدہ.

ترجمہ:

جیسا کہ وہ شکار جس کو تیر مارا چنان چہ تیر نے اس کا عضو کاٹ دیا تو اس شکار میں سے کھایا جائے عضو نہ کھایا جائے گا یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں کھائے جائیں گے ہماری دلیل آپ علیہ السلام کا یہ فرمان "ما ابین من الحی فهو میت" اور اگر تیر نے ثلث کے لحاظ سے کٹا اور اکثر حصہ اس کی سرین کے ساتھ ہے یعنی اس کو دو ٹکڑوں میں کٹ دیا اس طرح کہ ثالث سر کی طرف ہے اور دو ٹکڑ سرین کی طرف ہیں یا اس کو دو نصف میں کٹ دیا تو سارا کام سارا کھایا جائے گا اس لیے کہ اس صورت میں اس کی زندگی مذبوح کی زندگی سے زائد نہیں ہے چنان چہ آپ علیہ السلام کا فرمان "ما ابین من الحی فهو میت" اس کو شامل نہیں ہے بخلاف اس صورت کے ہے جب دو ٹکڑ کی طرف ہوں اور ایک ٹکڑ سرین کی طرف ہو دو ٹکڑ میں زندگی مذبوح کی زندگی سے زائد ممکن ہونے کی وجہ سے اور اس صورت کے بخلاف ہے کہ جب اس نے نصف سر سے کم کٹ دیا مذبوح کی زندگی سے زائد زندگی ممکن ہونے کی وجہ سے اور اگر کسی نے شکار کو تیر مارا پھر دوسرے شخص نے اس کو قتل کر دیا تو شکار پہلے شخص کا ہو گا اور حرام ہو گا اور دوسرا شخص اس کی زخمی شدہ حالت کی قیمت کا ضامن ہو گا اگر پہلے نے اس کو کمزور کر دیا تھا ورنہ دوسرے کا ہو گا اور حلال ہو گا یعنی ایک شخص نے شکار کو تیر مارا پھر دوسرے نے اس کو تیر مارا چنان چہ اس کو قتل کر دیا پس اگر پہلے شخص نے اس شکار کو حفاظت کی حالت سے نکال دیا تھا تو وہ پہلے کی ملک شمار ہو گا اور حرام ہو گا اس لیے کہ اس کو ذبح کرنا اختیاری ذبح کرنا تھا۔ لہذا یہ حرام ہے اس وجہ سے کہ اس کو تیر سے قتل کیا اور جب پہلے کی ملک ہے اور دوسرے تیر مارنے کی وجہ سے حرام ہوا ہے تو دوسرہ اس کی قیمت کا ضامن ہو گا دراں حاکم وہ پہلے کے تیر مارنے کی وجہ سے زخمی تھا اور اگر پہلے نے اس کو حفاظت کی حالت سے نہ نکالا ہو تو یہ دوسرے کی ملک ہے اس لیے کہ اس نے اس کو شکار کیا ہے اور یہ حلال ہو گا کیوں کہ اس کو ذبح کرنا اختیاری ذبح کرنا ہے اور اس جانور کو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جس کا گوشت نہیں

کھایا جاتا شکار کیا جا سکتا ہے۔

تشریح:

کصیدہ رمی اس کا عطف ”ارسل کلبہ“ پر ہے اور تشبیہ صرف حلت میں ہے کہ جس طرح ماقبل والی صورتوں میں شکار حلال ہے اسی طرح اگر ایک شخص نے شکار کو تیر مارا اور تیر نے اس کا ایک عضو علیحدہ کر دیا تو احناف حبہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک شکار کو کھایا جائے گا اور وہ عضو نہیں کھایا جائے گا کیوں کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو عضوز نہ جانور سے الگ کر لیا گیا وہ مردار ہے۔ چنانچہ اس کو کھانا جائز نہیں ہے جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں کو کھایا جائے گا۔

و ان قطع سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تیر کے کائنے کی مختلف صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تیر نے جانور کو تین ثلث میں تقسیم کر دیا یعنی تیر نے اس کو اس طرح کاٹا کہ دو ثلث سرین کی طرف اور ایک ثلث سرکی طرف رہ گیا تو یہ جانور پورا کھایا جائے گا اور اسی طرح اگر تیر نے اس کا نصف سریا اکثر سرکاٹ دیا یا پورے جانور کو درمیان سے کاٹ دیا اور دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو ان تمام صورتوں میں پورا شکار کھایا جائے گا اس لیے کہ تیر نے جانور کو اس طرح کاٹا ہے کہ اس میں مذبوح سے زائد زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا آپ علیہ السلام کا فرمان ”ما ابین من الحی فھو میت“ ان صورتوں کو شامل نہیں ہے بخلاف ما اذا یعنی اگر تیر نے شکار کو اس طرح کاٹا کہ دو ثلث سرکی طرف رہ گئے اور ایک ثلث سرین کی طرف رہ گیا تو اب سرین کی طرف والے حصے کو کھانا حرام ہے کیوں کہ جب سرکی طرف دو ثلث موجود ہیں تو اس میں مذبوح سے زائد زندگی موجود ہے۔ لہذا اس پر حدیث صادق آئے گی کہ سرین کی طرف کا حصہ زندہ جانور سے الگ کیا گیا ہے لہذا وہ حصہ مردار ہے چنانچہ حرام ہے، و بخلاف ما اذا یعنی اگر تیر نے نصف سر سے کم حصہ کاٹا تو بھی اس میں مذبوح سے زائد زندگی متصور ہے۔ لہذا یہ صورت بھی حدیث کے تحت داخل ہے۔ چنانچہ نصف سر سے کم حصہ جو کٹا ہے اس کو کھانا حرام ہے۔

فان رمی صیدا سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس شکار کا حکم بیان کر رہے ہیں جس کو دو شکاریوں نے شکار کیا ہو۔

چنان مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک شکاری نے شکار کو تیر مارا اور اس کے بعد دوسرے نے تیر مار دیا تو اب دیکھا جائے گا اگر پہلے کے تیر کی وجہ سے شکار است پڑ گیا تھا اس کے بعد دوسرے نے تیر مار کر اس کو قتل کر دیا تو یہ شکار پہلے شخص کا شمار ہو گا اور یہ حرام ہو گا اور دوسرا شخص شکار کی زخمی حالت کی قیمت کا ضامن ہو گا اور ضامن کی صورت یہ ہو گی کہ اگر شکار کی قیمت دس درہم تھی پھر جب اس کو پہلے نے تیر مار کر کمزور کر دیا تو اس کی قیمت آٹھ درہم ہو گئی اس کے بعد دوسرے نے قتل کیا تو اب دوسرا شخص پہلے کو آٹھ درہم دے گا۔ اب یہ شکار پہلے شخص کا اس لیے ہے کہ اس نے تیر کے ذریعے اس کو سوت کر دیا تھا اور شکار کو ایسی حالت میں کر دیا تھا کہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا پرانا چہ یہ اس کی ملک ہو گا اور حرام اس وجہ سے ہے کہ جب یہ شکار پہلے کے تیر مارنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تو اب اس کو اختیاری ذبح کرنا واجب ہے جب کہ دوسرے شخص نے تیر کے ذریعے اس کو اخطر اری ذبح کر دیا اور یہ بات معلوم ہے کہ اختیاری ذبح پر تدریت رکھتے ہوئے اخطر اری ذبح کرنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے اور دوسرا ضامن اس وجہ سے ہو گا کہ جانور اس کے فعل کی وجہ سے حرام ہوا ہے ورنہ یہ حلال تھا۔

اور اگر پہلے شکاری کے تیر سے جانور کمزور نہیں ہو اور امتناع کی ہیئت سے نہیں نکلا تو اب یہ پہلے کی ملک میں داخل نہیں ہوا لہذا جب دوسرے نے اس کو تیر مارا تو اس کی ملک ہو گیا کیون کہ اسی نے اس کو شکار کیا ہے اور یہ حلال بھی ہو گا کیون کہ جب یہ کمزور نہیں ہوا تو اس کو ذبح کرنا ضطراری ذبح کرنا ہے۔ لہذا یہ حلال ہو گا۔

[وذكر صاحب العناية في وجه الحصر صوراً اخر ترکتها مخافة التطويل من شاء فليراجعه: ۹/۲۲]

تم الجزء الثالث بتوفيق الله ويليه الجز الرابع ان شاء الله

افتتاح بروزاتوار بمقام جامعه دارالعلوم کراچی ۱۴۲۹ھ

۲۶/ جمادی الاولی ۱۴۲۹ھ